

# تحقیقات

حصہ اول

بعض محرکہ الارامات اسلامی کی تشریع و توضیح

سید ابوالا علی مودودی

اسلامک پبلکیشنز (پرمائیٹ) لیمیٹڈ  
۱۳-۱، شاہ عالم مارکیٹ، لاہور (پاکستان)

# عرض ناشر

اس سے پہلے اس کتاب کے کئی ایڈیشن طبع ہو چکے ہیں۔ اب اس کا نیا ایڈیشن حاضر خدمت ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس ایڈیشن کو سابقہ ایڈیشنوں سے زیادہ جی بنی و جیل اور جازب نظر بنا تیں، اس لیے اس مرتبہ ہم اس کو آفٹ ک خوبصورت اور نسبیں کتابت و طباعت پر پیش کر رہے ہیں۔

یوں تو مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کی جملہ تصانیف و تالیفات اپنا ایک ممتاز مقام رکھتی ہیں، لیکن کچھ کتب تو تیکیں آفرینی اور اثر انگیزی میں اپنا جواب نہیں رکھتیں، انہی چند کتب میں سے ایک کتاب یہ بھی ہے۔ اس کتاب میں اسلام کے چند مبہات مسائل پر فلم اٹھایا گیا ہے اور واقعیہ ہے کہ جن سلسلے ہوتے انداز اور پیروار استدلال کے ساتھ اصل مسئلہ کو واضح کیا ہے اس نے بیشار اُنجھے ہوتے ذہنوں کو صاف کیا ہے کتنے ہی شک دریکے مارے ہوؤں کو دولتِ ایمان و تیکیں سے مالا مال کیا ہے، اور ان پر اسلام کی حقانیت کا گہرا نقش ثابت کیا ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو راہ حق کا مسلسلہ ہو اور اس پر پوچھے اطمینان و سکون کے ساتھ چلنا چاہتا ہو اس کتاب کا معنالہ ناگزیر ہے۔ اس سلسلہ مفت نہیں کیا ہے۔ اور اب تیسرا جلد حصہ سوم بھی شائع کر دی گئی ہے۔

ہمیں امید ہے کہ قارئین اس مجموعہ کو ہر چیزیت سے پسند فرمائیں گے۔

مطابق = جزوی اسلامک پبلیکیشنز (پرائیویٹ) لیٹریٹور	لاہور — شوال ۱۴۰۸ھ میونگ داک کٹر
--	-------------------------------------

# فہرست مضمون

۱	دینا چہ طبع اول
۸	دینا چہ طبع
۹	عقل کا فیصلہ
۱۸	کوتہ نظری
۲۶	ہدایت و ضلالت کا راز
۳۳	اسلام ایک علمی و عقلی مذہب
۴۰	اسلام میں عبادت کا تصور
۴۷	جہاد فی سبیل اللہ
۵۸	آزادی کا اسلامی تصور
۶۵	رواداری
۷۲	اسلامی قومیت کا تحقیقی مفہوم
۸۶	امر بالمعروف و نہی عن المنکر
۹۳	نزولِ عذابِ الہی کا قانون
۱۰۰	ایک مسیحی بزرگ کے چند اغراضات
۱۱۰	کیا نجات کے لیے صرف کلکٹہ توحید کافی ہے؟
۱۲۰	کیا رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے؟

## ایمان بالرسالت

قرآن پر سچے ٹراہتیان

نبوت محمدی کا عقلی ثبوت

اتباع و اطاعت رسول

رسول کی حیثیت شخصی اور حیثیت نبوی

رسالت اور اس کے احکام

حدیث اور قرآن

ملک و اعدال

حدیث کے متعلق چند سوالات

قرآن اور حدیث رسول

ایک حدیث پر اقتراض اور اس کا جواب

۲۰۵

۲۱۸

۲۳۸

۲۵۶

۲۷۳

۲۸۲

۳۱۸

۳۵۰

۳۷۱

۳۸۰

۳۸۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## دیباچہ طبع اول

اس سے قبل میرے مضاہین کا ایک مجموعہ تفہیمات کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ وہ ان مباحث پر مشتمل تھا جن میں موجودہ مغربی نظریات و عملیات کی المجنون سے داغوں کو صاف کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اب یہ دوسرا مجموعہ ایک دوسری ذہنیت کے مضاہین پر مشتمل ہے۔ اس میں اسلام کے ان مہات مسائل کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے جن کے متعلق آج کل عموماً لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلی ہوتی ہیں۔ اسی مناسبت سے اس مجموعہ کا نام ”تفہیمات“ لکھا گیا ہے۔ ان مضاہین کی مقدار تو قع سے بہت زیادہ نکلی اس بیسے مجموعہ انہیں تین حصوں پر تقسیم کر دینا پڑا، ورنہ ابتداء یہی خیال تھا کہ یہ ایک ہی مجلد میں سما جائیں گے۔

ابوالاعلیٰ

بدر محرم ۱۴۵۹ھ - مارچ ۱۹۴۰ء

# دیباچہ طائششم

یہ کتاب اس سے پہلے پانچ مرتبہ طبع ہو چکی ہے۔ اب یہ چھٹی مرتبہ پرنس میں جا رہی ہے۔ اس موقع پر میں نے نظر ثانی کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ بعض جزوی ترمیمات اور کچھ ضروری اضافے کیے ہیں، بلکہ ایک نیا مضمون بھی اس میں پڑھا دیا ہے جس کا عنوان ہے ————— ”رسول کی حیثیت شخصی اور حیثیت نبوی۔“

ابوالاعلیٰ

لاہور۔ ۴ نومبر ۱۳۷۶ء (۲۰ جادی الاول ۱۳۸۳ھ)

## عقل کا فرضیہ

بڑے بڑے شہروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں کار خانے بجلی کی قوت سے چل رہے ہیں۔ ریلیں اور ڈرام کاڑیاں روائی روائی ہیں۔ شام کے وقت دفعہ ہزاروں فنقہ روشن ہو جلتے ہیں۔ گرمی کے زمانہ میں گھر گھر پٹکے چلتے ہیں۔ مگر ان واقعات سے نہ تو ہمارے اندر چیرت و استغایب کی کوئی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور نہ ان چیزوں کے روشن یا منحر ہونے کی علت میں کسی فسم کا اختلاف ہمارے درمیان واقع ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان فنقوں کا تعلق جن تاروں سے ہے ان کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ان تاروں کا تعلق جس بجلی گھر سے ہے اس کا حال بھی ہم کو معلوم ہے۔ اس بجلی گھر میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے وجود کا بھی ہم کو علم ہے۔ ان کام کرنے والوں پر جو انجینئرنگ فن کر رہا ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ انجینئرنگ بجلی بنانے کے کام سے واقع ہے، اس کے پاس بہت سی کلیں ہیں اور ان کلوں کو حرکت دے کر وہ اس قوت کو پیدا کر رہا ہے۔ جس کے جلوے ہم کو فنقوں کی روشنی، پٹکھوں کی گردش، ریلیں اور ڈرام کاڑیوں کی سیر چکیوں اور کارخانوں میں نظر آتے ہیں پس بجلی کے آثار کو دیکھ کر اس کے اسباب کے متعلق ہمارے درمیان اختلاف رکھتے واقع نہ ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان اسباب کا پورا مسئلہ ہمارے محسوسات میں داخل ہے اور ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔

فرض کیجیے کہ یہی فنچے روشن ہوتے، اسی طرح پٹکے گردش کرتے، یونہی ریلیں اور ڈرام کاڑیاں چلتیں، چکیاں اور مشینیں حرکت کرتیں، مگر وہ مار جن سے بجلی ان میں چکتی ہے ہماری نظروں سے پوشیدہ ہوتے؛ بجلی گھر بھی ہمارے محسوسات کے دائرے سے خارج ہوتا، بجلی گھر میں کام کرنے والوں کا بھی ہم کو کچھ علم نہ ہوتا اور یہ بھی معلوم نہ ہوتا کہ اس کا رخانہ کا

کوئی انجینیر ہے جو اپنے علم اور اپنی قدرت سے اس کو چلا رہا ہے، کیا اس وقت بھی بھلی کے ان آثار کو دیکھ کر ہمارے دل ایسے ہی مطمئن ہوتے ہیں کیا اس وقت بھی ہم اسی طرح ان ظاہر کی علتیں میں اختلاف نہ کرتے؟ ظاہر ہے کہ آپ اس کا جواب نفی میں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آثار کے اسباب پوشیدہ ہوں اور مظاہر کی علتیں غیر معلوم ہوں تو وہ لوگوں میں یہ تکمیل کے ساتھ یہ اطمینانی کا پیدا ہونا، دماغوں کا اس راز سرستہ کی جستجو میں لگ جانا، اور اس راز کے متعلق قیاسات و آراء کا مختلف ہونا ایک فطری بات ہے۔

اب درا اسی مفروضہ پر سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیے۔ مان یجیے کہ یہ کچھ فرض کیا گیا ہے وہ حقیقت عالم واقعہ میں موجود ہے۔ ہزاروں لاکھوں فتنے روشن میں لاکھوں پلکھے چل رہے ہیں، گاڑیاں دُڑ رہی ہیں، کارخانے حرکت کر رہے ہیں اور ہمارے پاس یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی قوت کام کر رہی ہے اور وہ کہاں سے آتی ہے۔ لوگ ان مظاہر و آثار کو دیکھ کر حیران و ششدار ہیں۔ ہر شخص ان کے اسباب کی جستجو میں عقل کے گھوڑے دُڑ رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں آپ سے آپ روشن یا متحرک ہیں، ان کے اپنے وجود سے خارج کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انہیں روشنی یا حرث بخشنے والی ہو۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ چیزیں جن مادوں سے بنی ہوئی ہیں انہی کی ترکیب نے ان کے اندر روشنی اور حرکت کی صفتیں پیدا کر دی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس عالم مادہ سے ماوراء چند دیواریں جن میں سے کوئی قسم روشن کرتا ہے، کوئی ٹرام اور یہیں چلاتا ہے، کوئی پلکھوں کو گردش دیتا ہے اور کوئی کارخانوں اور چکیوں کا موک ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو سوچتے تھک گئے ہیں اور آخر میں عاجز ہو کر کہنے لگے ہیں کہ ہماری عقل اس طسم کی کتنا تک نہیں پہنچ سکتی، ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ ہماری سمجھو میں نہیں آتا اور جو کچھ ہماری سمجھے میں نہ آتے اس کی نہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ تکذیب۔

یہ سب گروہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ مگر اپنے خیال کی تایید اور دوسرے خیالات کی تکذیب کے لیے ان میں سے کسی کے پاس بھی قیاس اور ظن و تخيیل کے سوا کوئی ذریعہ

علم نہیں ہے۔

اس دو دران میں کہہ اخلافات پر پاہیں، ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائیو، میرے پاس علم کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس ذریعہ سے مجھے معلوم ہتو ہے کہ ان سب مقاموں، شکھوں، گاؤں، کارخانوں اور حکومیں کا قلعی چند مخفی تاروں سے ہے جن کو تم محسوس نہیں کرتے۔ ان تاروں میں ایک بہت بڑے بھلی گھر سے وہ قوت آتی ہے جس کا ظہور روشی اور حرکت کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس بھلی گھر میں ڈری ڈری عظیم اشان کلیں ہیں جنہیں بلیجہار اشخاص چلا رہے ہیں۔ یہ سب اشخاص ایک ٹرے سے انجینئر کے تابع ہیں، اور وہی انجینئر ہے جس کے علم اور قدرت نے اس پورے نظام کو قائم کیا ہے۔ اسی کی ہدایت اور نگرانی میں یہ سب کام ہو رہے ہیں۔

یہ شخص پوری قوت سے اپنے اس دعوے کو پیش کرتا ہے۔ لوگ اس کو چھبلاتے ہیں سب گروہ مل کر اس کی مخالفت کرتے ہیں، اسے دیوانہ قرار دیتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، لگھ سنتے نکال دیتے ہیں، مگر وہ ان سب روحاںی اور جسمانی مصیبتوں کے باوجود اپنے دعویٰ پر قائم رہتا ہے۔ کسی خوف، یا لایح سے اپنے قول میں ذرہ برا بر ترمیم نہیں کرتا کسی مصیبت سے اس کے دعوے میں کمزوری نہیں آتی۔ اس کی ہر ہر بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو اپنے قول کی صداقت پر کامل یقین ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا شخص آتا ہے اور وہ بھی بخوبی یہی قول اسی دعویٰ کے ساتھ پیش کرتا ہے، پھر نمبرا، چوتھا، پانچواں آتا ہے اور وہی بات کہتا ہے جو اس کے پیشوں نے کہی تھی۔ اس کے بعد آئنے والوں کا ایک تاثنا بندھ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کی تعداد سینکڑوں اور ہزاروں سے متوجہ ہو جاتی ہے، اور یہ سب اسی ایک قول کو اسی ایک دعویٰ کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ زمان و مکان اور حالات کے اختلاف کے باوجود ان کے قول میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ سب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علم کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ سب کو دیوانہ قرار دیا جاتا ہے۔ ہر طرح کے ظلم و نعم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ہر طرفہ سے ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اپنے قول

سے باز آ جاتیں، مگر سب کے سب اپنی بات پر فاکٹر رہتے ہیں اور دنیا کی کوئی قوت ان کو اپنے مقام سے ایک اپنچ نہیں ہٹا سکتی۔ اس عزم و استقلامت کے ساتھ ان لوگوں کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں کہ ان میں سے کوئی جھوٹا، چور، خائن، بدکار، نظام اور حرام خواہ نہیں ہے، ان کے دشمنوں اور مخالفوں کو بھی اس کا اعتراف ہے۔ ان سب کے اخلاق پاکیزہ ہیں، بیرونی انتہاد رجہ کی نیکی ہیں، اور حسینِ خلق میں یہ اپنے دوسرا ہے ابتدائے نور سے ممتاز ہیں۔ پھر ان کے اندر جنوں کا بھی کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔ بلکہ اس کے بر عکس وہ تہذیب اخلاق، تزکیۃ نفس، اور دنیوی معاملات کی اصلاح کے لیے ایسی ایسی تعلیمات پیش کرتے اور ایسے ایسے قوانین بناتے ہیں جن کے مثل بنانا تو درکنار بڑے بڑے علماء و عقولاء کو ان کی باریکیاں سمجھنے میں پوری پوری عمری صرف کر دینی پڑتی ہیں۔

ایک طرف وہ مختلف الخیال مکنڈبین ہیں، اور دوسری طرف یہ متحدا الخیال ملما۔ دونوں کا معاملہ عقلِ عالم کی عدالت میں پیش ہوتا ہے۔ حج کی حیثیت سے عقل کا فرض ہے کہ پہلے اپنی پوزیشن کو خوب سمجھو لے، پھر فریقین کی پوزیشن کو سمجھے، اور دونوں کا ہمراہ کرنے کے بعد فیصلہ کرے کہ کس کی بات قابل ترجیح ہے۔

حج کی اپنی پوزیشن یہ ہے کہ خود اس کے پاس امر واقعی کو معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ وہ خود حقیقت کا علم نہیں رکھتا۔ اس کے سامنے صرف فریقین کے بیانات، ان کے دلائل، ان کے ذاتی حالات اور خارجی آثار و قرائیں ہیں۔ انہی پر تحقیق کی تظریف کر اسے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کا برقی ہونا اغلب ہے۔ مگر انقلابیت سے بڑھ کر بھی وہ کوئی حکم نہیں لگاسکتا، کیونکہ مسلسل پر جو کچھ مواد ہے اس کی بنابری کہنا اس کے لیے مشکل ہے کہ امر واقعی کیا ہے۔ وہ فریقین میں میں میں ایک کو ترجیح دے سکتا ہے، لیکن قطعیت اور فریقین کے ساتھ کسی کی تصدیق یا مکنڈب نہیں کر سکتا۔

مکنڈبین کی پوزیشن یہ ہے:

۱۔ حقیقت کے متعلق ان کے نظریے مختلف ہیں۔ اور کسی ایک نکتہ میں بھی ان کے درمیان اتفاق نہیں ہے حتیٰ کہ ایک ہی گروہ کے افراد میں بسا اوقات اختلاف پایا گیا ہے۔

۲۔ خود اقرار کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جو دوسروں کے پاس نہ ہو۔ ان میں سے کوئی گروہ اس سے زیادہ کسی چیز کا مدعی نہیں ہے کہ ہمارے قیامت دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ فتنی ہیں۔ مگر اپنے قیامت کا قیامت ہونا سب کو تسلیم ہے۔

۳۔ اپنے قیامت پر ان کا اغتہاد، ایمان و تقین اور غیر متزلزل و ثائق کی حد تک نہیں پہنچا ہے۔ ان میں تبدیلی راستے کی مثالیں بکثرت ملتی ہیں۔ بارہا دیکھا گیا ہے کہ ان میں کا ایک شخص ملک ناک جس نظریہ کو پورے زور کے ساتھ پیش کر رہا ہے، آج خود اسی نے اپنے پچھلے نظریہ کی تروید کر دی اور ایک دوسرا نظریہ پیش کر دیا۔ عمر، عقل، علم اور تجربے کی ترقی کے ساتھ ساتھ اکثر ان کے نظریات بدلتے رہتے ہیں۔

۴۔ مدعیوں کی تکذیب کے لیے ان کے پاس بجز اس کے اور کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی صداقت کا کوئی تلقینی ثبوت نہیں پیش کیا، انہوں نے وہ مخفی تاریخ کو نہیں دکھانے والے جن کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ قوموں اور شکھوں وغیرہ کا تعلق انہی سے ہے، نہ انہوں نے بھلی کا وجود تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت کیا، نہ بھلی گھر کی جیں سیر کرائی، نہ اس کی کلوں اور مشتیوں کا معاہدہ کرایا، نہ اس کے کارندوں میں سے کسی سے ہماری ملاقات کیا، نہ کبھی انجینئر سے ہم کو ملایا، پھر ہم یہ کہے مان لیں کہ رب سب کچھ حقائق ہیں؟ مدعیوں کی پوزیشن یہ ہے۔

۵۔ وہ سب آپس میں متفق القول ہیں۔ دعویٰ کے جتنے بیماری تکاثت ہیں ان سب میں ان کے درمیان کامل اتفاق ہے۔

۶۔ ان سب کا متفقہ دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے۔

۷۔ ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے قیاس یا گمان کی بنابرائی کہتے ہیں بلکہ سب نے بالاتفاق کہا ہے کہ انجینئر سے ہمارے خاص تعلقات ہیں۔ اس کے کارندے ہمارے پاس آتے ہیں، اس نے اپنے کارخانے کی سیر ملھی ہم کو کرائی ہے اور ہم جو کچھ کہتے ہیں یہ علم و تقین کی بنابرائی کہتے ہیں۔ ظن و تجھیں کی بنابرائی کہتے۔

۳۔ ان میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ کسی نے اپنے بیان میں ذرۂ برابر بھی تغیر تو تبدل کیا ہو۔ ایک ہی بات ہے جو ان میں کا ہر شخص دعویٰ کے آغاز سے زندگی کے آخری سانس تک کھہتا رہا ہے۔

۴۔ ان کی سیرتیں انتہاد درجہ کی پاکیزہ ہیں۔ جھوٹ، فربب، مکاری، دعا بازی کا ہیں شامبہ تک نہیں ہے۔ اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ جو لوگ زندگی کے تمام معاملات میں سچے اور کھرے ہوں، وہ خاص اسی معاملہ میں بالاتفاق کیوں جھوٹ بولیں۔

۵۔ اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ دعویٰ پیش کرنے سے ان کے پیش نظر کو قذای فائدہ تھا۔ برعکس اس کے پیش ثابت ہے کہ ان میں سے اکثر و بیشتر نے اس دعوے کی خالہ انتہائی درجہ کے مصائب برداشت کیے ہیں، جسمانی تکلیفیں ہیں، قید کیے گئے، مارے اور پیشے گئے، جلاوطن کیے گئے بعض قتل کر دیتے گئے۔ حتیٰ کہ بعض کو اُرے سے چھروالا گیا، اور چند کے سوا کسی کو بھی خوش حالی و فارغ الیالی کی زندگی پیش نہ ہوتی۔ لہذا کسی فائل غرض کا الزم اُن پر نہیں لگایا جاسکتا۔ بلکہ ان کا ایسے حالات میں اپنے دعویٰ پر قائم رہنا یہ ظہراً کرتا ہے کہ ان کو اپنی صداقت پر انتہاد درجہ کا یقین تھا، ایسا یقین کہ اپنی جان بچانے کے لیے بھی ان میں سے کوئی اپنے دعوے سے بازنہ آیا۔

۶۔ ان کے متعلق مجنون یا فاتر العقل ہونے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ زندگی کے تمام معاملات میں وہ سب کے سب غایبت درجہ کے دانشمند اور سالم العقل پڑتے گئے ہیں۔ ان کے مخالفین نے بھی اکثر ان کی دانشمندی کا لوما نہیں ہے۔ پھر یہ کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ ان سب کو اسی خاص معاملہ میں جنون لائق ہو گیا ہو؟ اور وہ معاملہ بھی کیسا؟ جو ان کے لیے زندگی اور موت کا سوال بن گیا ہو۔ جس کے لیے انہوں نے دنیا پھر کا مقابلہ کیا ہو۔ جس کی خاطر وہ سالہا سال دنیک سے فڑتے رہے ہوں۔ جو ان کی ساری عاقلانہ تعیینات کا وہن کے عاقلانہ ہونے کا بہت سے مکملین کو بھی اعتراف ہے، ہم اصول ہو۔

۷۔ انہوں نے خود بھی یہ نہیں کہا کہ ہم انجینئر یا اس کے کاربروں سے تمہاری ملاتا ت

کر سکتے ہیں یا اس کا مخفی کارخانہ تمہیں دکھان سکتے ہیں یا تجربہ اور مشاہدہ سے اپنے دعویٰ کو ثابت کر سکتے ہیں۔ وہ خود ان تمام امور کو ”غیب“ سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہم پر اعتماد کرو اور جو کچھ ہم بتاتے ہیں اسے مان لو۔

فریقین کی پوزیشن اور ان کے بیانات پر غور کرنے کے بعد اب عقل کی عدالت اپنا نیصدھ صادر کرتی ہے۔

وہ کہتی ہے کہ چند مظاہروآثار کو دیکھ کر ان کے باطنی اسباب و عمل کی جستجو دوں۔ فرقیوں نے کی ہے اور ہر ایک نے اپنے اپنے نظریات پیش کیے ہیں۔ باوی النظر میں سب کے نظریات اس لحاظ سے بیکار ہیں کہ اولاً ان میں سے کسی میں استحالہ عقلی نہیں ہے، یعنی قوانینِ عقلی کے لحاظ سے کسی نظریہ کے متعلق نہیں کہا جاسکتا کہ اس کا صحیح ہونا بغیر ملنگی ہے۔ ثانیًا ان میں سے کسی کی صحت تجربے یا مشاہدے سے ثابت نہیں کی جاسکتی۔ نہ فرقی اقل میں سے کوئی گروہ اپنے نظریات کا ایسا سائنسی ثبوت دے سکتا ہے جو ہر شخص کو لقین کرنے پر مجبور کر دے۔ اور نہ فرقی ثانی اس پر قادر یا اس کا مدعی ہے۔ لیکن مزید غور و تحقیق کے بعد چند امور ایسے نظر آتے ہیں جن کی بنابر تمام نظریات میں سے فرقی ثانی کا نظریہ قابل ترجیح قرار پاتا ہے۔

اولاً، کسی دوسرے نظریہ کی تائید اتنے کثیر التعداد عاقل، پاک بیت، صادق القول آدمیوں نے متفق ہو کر اتنی قوت اور اتنے یقین و ایمان کے ساتھ نہیں کی ہے۔

ثانیًا، ایسے پاکیزہ کیڑا اور اتنے کثیر التعداد لوگوں کا مختلف زمانوں اور مختلف مقامات میں اس دعویٰ پر مستحق ہو جانا کہ ان سب کے پاس ایک غیر معمولی ذریعہ علم ہے اور ان سب نے اس ذریعہ سے خارجی مظاہر کے باطنی اسباب کو معلوم کر لیا ہے، ہم کو اس دعویٰ کی تصدیق پر مائل کر دیا ہے، خصوصاً اس وجہ سے کہ اپنی معلومات کے متعلق ان کے بیانات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جو معلومات انہوں نے بیان کی ہیں ان میں کوئی استحالہ عقلی بھی نہیں ہے اور نہ یہ بات قوانینِ عقلی کی بنابر محال قرار دی جاسکتی ہے کہ بعض انسانوں میں کچھ ایسی غیر معمولی قوتوں ہوں جو عام طور پر دوسرے

السافون میں نہ پاتی جاتی ہوں۔

شانث، خارجی منظاہر کی حالت پر غور کرنے سے بھی اغلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ فرقی ثانی کا نظریہ صحیح ہو۔ اس میں کہ قدرتے، پنکھے، گھاٹیاں، کارخانے وغیرہ نہ تو اپنے اپ روش اور متھر کے ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ان کا روشنی اور متھر ہونا ان کے اپنے اختیار میں ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نہ ان کی روشنی و حرکت ان کے مادہ جسمی کی ترکیب کا نتیجہ ہے، کیونکہ جب وہ متھر اور روشن نہیں ہوتے اس وقت بھی یہی ترکیب جسمی موجود رہتی ہے۔ نہ ان کا الگ الگ قوتوں کے زیر اثر ہونا صحیح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ بسا اوقات جب تھمتوں میں روشنی نہیں ہوتی تو پنکھے بھی بند ہوتے ہیں، ٹرام کاریں بھی موقوف ہو جاتی ہیں اور کارخانے بھی نہیں چلتے۔ لہذا خارجی منظاہر کی توجیہ میں فرقی اول کی طرف سے جتنے نظریات پیش کیے گئے ہیں وہ سب بعد از عقل و قیاس ہیں۔ زیادہ صحیح یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ان تمام منظاہر میں کوئی ایک قوت کا فرمایہ اور اسکی سرسریت کسی ایسے حکیم و تو ان کے پا تھے میں ہو جو ایک مقررہ نظام کے تحت اس قوت کو مختلف منظاہر میں صرف کر رہا ہو۔

باقی رہائشگاریں کا یہ قول کر رہے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور جو بات ہماری سمجھ میں نہ آتے اس کی تصدیق یا تکذیب ہم نہیں کر سکتے، تو حاکم عقل اس کو بھی درست نہیں سمجھتا کیونکہ کسی واقعہ ہونا اس کا محتل ج نہیں ہے کہ وہ سننے والوں کی سمجھ میں بھی آجائے۔ اس کے وقوع کو سیکھ کرنے کے لیے معتبر اور متواتر شہادت کافی ہے اگر ہم سے چند معتبر آدمی اگر کہیں کہ ہم نے زمینِ مغرب میں آدمیوں کو لوہے کی گھاٹیوں میں بلیخ کر ہوا پڑا رہتے دیکھا ہے، اور ہم اپنے کافوں سے لندن میں بلیخ کر امریکہ کا گھانا مسن آتے ہیں، تو ہم صرف یہ دکھیں گے کہ یہ لوگ جھوٹے اور سخنے تو نہیں ہیں؟ ایسا بیان کرنے میں ان کی کوئی ذاتی غرض تو نہیں ہے؟ ان کے دماغ میں کوئی فکر تو نہیں ہے؟ اگر ذاتی ہو گیا کہ وہ نہ جھوٹے ہیں نہ سخنے، نہ دیوانے، نہ ان کا کوئی مفاد اس روایت سے دایتہ ہے، اور اگر ہم نے دیکھا کہ اس کو بلا اختلاف بہت سے

بچے اور عالمہ لوگ پوری سنجیگی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تو ہم نہیں اس کو تسلیم کر دیں گے، خواہ لدھے کی بھائیوں کا ہوا پڑنا اور کسی مادی واسطہ کے بغیر ایک جگہ کا کامان کئی ہزار میل کے فاصلہ پر ستائی دینا کسی طرح ہماری سمجھ میں نہ آتا ہے۔

یہ اس معاملہ میں عقل کا فیصلہ ہے۔ مگر تصدیق و لقین کی کیفیت جس کا نام *بیان* ہے اس سے پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے سیے وجہ ان کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ اندر سے ایک آواز آتے جو تکذیب، شک اور تذبذب کی تمام کیفیتوں کا خاتمه کر دے اور صفات کہہ دے کہ لوگوں کی قیاس آلاتیاں باطل ہیں، پچ وہی ہے جو سچے لوگوں نے قیاس سے نہیں بلکہ علم و بیعت کی رو سے بیان کیا ہے۔

ترجمان القرآن۔ رجب شاہ (دسمبر ۱۹۳۷ء)

## کوہ نظری

”ایک دو سال کا خوبصورت بچہ بخار اور درد قولیج میں بنتا تھا۔ اس کی تکلیف اور اخطراب کو سخت سے سخت دل انسان بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ رفع تکلیف کے لیے بھی وہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتا اور کبھی فاٹر کے سامنے کڑو کی سیلی دوائے لیے منہ کھوتا۔ اسی تکلیف میں ایک دن رات ہر کر ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ سے رخصت ہو گیا۔ اس کو کرب اور زرع کی حالت میں دیکھ کر دل میں سوال پیدا ہوا کہ ربِ حیم و کریم جو رافت اور شفقت کا مبلغ ہے، چھوٹے اور محضوم بچوں پر مصائب اور تکالیف کیوں وار دکرتا ہے؟ حالانکہ وہ خود کہتا ہے کہ *قَمَا أَنَا بِظَلَامٍ لَّذِعْبَيْدِكَ*“

یہ ایک کرم فرمائے خط کا اقتباس ہے، جو سوال ان کے دل میں پیدا ہوا ہے، قریب قریب وہی سوال مختلف صورتوں میں ہر انسے موقوع پر لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے جب وہ موت اور بماری اور زروں آفات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہاں میں ہزاروں آدمیوں کا انتہائی بے کسی کی موت مزنا، زلزلہ میں ہزار ہا گھروں کا تباہ ہونا، سیلاپ میں لوگوں کا بے اندازہ مصائب و شدائد سے دوچار ہونا، مختلف قسم کی ہزوی بیماریوں میں لوگوں کا سخت کرب و اذیت کے ساتھ تڑپنا، غرض مصیبت اور دردو الہ کا ہر نظارہ انسان کے دل میں آپ سے آپ یہ سوال پیدا کر دیتا ہے کہ وہ خدا جو رُوف و حیم ہے، اور وہ خدا جو اپنی ربیعت اور اپنے فضل و کرم پر ناز رکھتا ہے، اور وہ خدا جو خود کہتا ہے کہ میں ظالم نہیں ہوں، آخر وہ اپنے بندوں پر یہ سختیاں کیوں نازل کرتا ہے؟ خود اپنی ہی بنائی ہوئی مخلوق کو، جسے خود اسی نے داد و الہ کا احساس

دیا ہے، اس طرح مصائب و آلام میں کس بیٹے بتلا کرنا ہے، بعض لوگ تو اس مشکلہ میں بیان تک پڑھ جاتے ہیں کہ قهر خداوندی کے ان آثار کو حق تعالیٰ کی صفت رُافت و رحمت کے منافی سمجھنے لگتے ہیں اور انہیں گمان ہونے لگتا ہے کہ معاذ اللہ خدا ایک اندھی طاقت (Blind Force) ہے جس کو کسی کی راست و اذیت کا کچھ علم نہیں۔ دو یونہی بلا کسی علم کے بناءے اور توڑنے پھوڑنے میں مشغول ہے۔

جن لوگوں نے کائنات کے نظم اور مکرت ارض زماد پر غور کیا ہے وہ اس تجھ پر پہنچے ہیں کہ کائنات علیحدہ علیحدہ منتقل اوجو اجزاء پر منتقل نہیں ہے بلکہ ایک کل ہے جس کے تمام اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ زمین کا ایک ذرہ مریخ اور عطارد کے ذرات سے دیساہی تعلق رکھتا ہے جیسا میرے سر کا ایک بال میرے ہاتھ کے ایک روٹگٹے سے رکھتا ہے۔ گویا پوری کائنات ایک جسید واحد ہے اور اس کے اجزاء میں باہم دیساہی ربط ہے جیسا ایک جسم کے اجزاء میں ہوتا ہے۔ پھر جس طرح کائنات کے اجزاء میں ربط و تسلیم ہے اسی طرح ان واقعات میں بھی ربط و تسلیم ہے جو اس کائنات میں پیش آتے ہیں۔ دنیا کا کوئی چھوٹا یا بڑا واقعہ بجا تے خود ایک منتقل و افعة نہیں ہے۔ بلکہ وہ تمام کائنات کے سلسلہ و واقعات کی ایک کڑی ہے اور کل مصلحت کے تحت صادر ہوتا ہے جس کو پیش نظر کر کر خداوند عالم اپنی اس غیر محدود و سلطنت کو چلارہا ہے۔ اب یہ امر قابلی غور ہے کہ جس شخص کی نظر پوری کائنات پر نہیں بلکہ اس کے ایک نہایت ہی خیر حظ پر ہے جس کو کل کے ساتھ آتنی نسبت بھی نہیں جتنی ایک ذرہ کو آفتاب کے ساتھ ہوتی ہے، اور جس شخص کے سلسلے و واقعات عالم کا پورا سلسلہ نہیں ہے بلکہ اس سلسلہ کی بجائے حد حساب کر لیوں میں سے محض ایک یا دو یا چند کڑیاں ہیں اور جو شخص کائنات کے اس حیر حلقے اور واقعات کی ان چند کڑیوں میں بھی صرف ظاہری سطح کو دیکھ رہا ہے، بھانی حقائق تک پہنچنے کا کوئی فریبیاں اس کے پاس نہیں ہے، کیا ایسا شخص کسی جتنی واقعے کو دیکھ کر اس کی حکمت و مصلحت کے متعلق کوئی رائے قائم کرنے کا اہل ہو سکتا ہے؟ اور اگر وہ کوئی رائے قائم کرنے کی جگات کرے تو کیا اس کی رائے صحیح ہو سکتی ہے؟

کائنات کا نظام اور خدا کی خدائی تو خیر اس قدر وسیع ہے کہ اس کے تصور ہی سے  
ہمارا ذہن تھک جاتا ہے۔ آپ ایک چھوٹے پہلوان پر کسی انسانی سلطنت ہی کو سلیمانیت  
جو شخص کر سئی وزارت یا تخت شاہی پر بیٹھا ہوا ایک بڑی سلطنت کا انتظام کر رہا ہے  
وہ بھی اگر چھ ہماری ہی طرح کا ایک انسان ہے، اور فطری استعداد کے لحاظ سے ہمارے  
اور اس کے درمیان کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، نیز اس کے جتنے معاملات میں ان میں سے  
کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو سمجھنے اور انجام دینے کی قوت واستعداد سبھم میں نہ ہو، لیکن  
محض یہ فرق کہ وہ کر سئی حکومت پر سے تمام سلطنت کے ظلم و نسق کو بکھر رہا ہے اور ہم  
ایک گوشے میں اس ظلم سے یک گونہ بے تعلق بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے اور اس کے  
درمیان اتنا عظیم تفاوت پیدا کروتی ہے کہ ہم بالفعل اس کے معاملات کو نہیں سمجھ سکتے  
اور اگر کوئی جنکی واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی غایتہ  
مصلحت کیا ہے پھر جب انسان اور انسان کے درمیان محض پوزیشن کے فرق سے اتنا  
تفاوت واقع ہو جاتا ہے، تو غور کر جیے کہ انسان اور خدا کے درمیان کتنا تفاوت ہو گا،  
دران حالیکہ یہاں پوزیشن کا نہیں حقیقت کا فرق عظیم ہے۔ وہ تمام عالم پر سلطنت کر  
رہا ہے اور سبھم اس کی سلطنت کے ایک نہایت ہی خیر گوشے میں بیٹھے ہیں۔ اس کی  
دانش و پیش سارے عالم پر حاوی ہے، اور ہماری دانش و پیش کی رسائی خود اپنے  
جسم کی باطنی حقیقتوں کے بھی نہیں۔ اس کی طاقتیں بے پایاں ہیں اور ہمارے پاس ان  
میں سے کوئی طاقت بھی نہیں۔ اگر اس تفاوت عظیم کے باوجود اس کے کاموں پر ہم  
نتھیڈ کریں اور ان کی حکمت و مصلحت کے متعلق کوئی راستے قائم کریں تو کیا یہ نتھیڈ اس  
نتھیڈ سے کروڑ درجہ زیادہ جاہلانہ نہ ہوگی جو ایک گنوارا پنی جھونپڑی میں بیٹھی کر سلطنت  
کے معاملات پر کرتا ہے۔

اس سے زیادہ واضح ایک اور مثال یہ ہے۔ فرض کیجیے کہ آپ ایک با غبان ہیں۔ جو  
یاغ آپے بڑی محنت سے لگایا ہے اور جس کی ترتیب دن تین میں آپ نے اپنی پُردی ہماری  
ہرفت کر دی ہے، اس کے درختوں اور پودوں اور سیلوں سے یقیناً آپ کو محبت ہوگی۔

آپ ان کی حفاظت میں کوئی ذمیقہ اٹھانے رکھیں گے۔ ان کو بے ضرورت کا ٹانا، چھانٹنا یا اکھاڑ پھینکنا آپ کبھی پسند نہ کریں گے اور اگر کوئی غیر اگر ان پر تدبیش چلا تے تو آپ کو سخت ناگوار ہو گلے پھر آپ کو علی طریق سے یہ بھی معلوم ہے کہ نباتات میں راحت اور ازیست، رنج اور خوشی کا احساس ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر درختوں اور پودوں پر قبضی یا کھڑاڑی چلا تے تو ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اپنے اختصار کے کٹنے اور اپنے پھوٹوں (پھلوں) سے جُدا ہو جانے کا انہیں بھی رنج ہوتا ہے۔ لیکن اسی محبت اور خلُم کے باوجود آپ ضرورت اور بارش کی کلی مصلحت کا الحافظ کر کے اپنے بارع میں اش خرابی کرتے ہیں، تپیوں اور شاخوں کو کاشتے چھانٹتے ہیں۔ پودوں کو تراش کر کلمیں لگاتے ہیں، سبزی کو کاٹ کر ہوا کرتے ہیں، پکے اور پکے پھل حسب ضرورت آتا رہتے ہیں، بھلے اور پن کھلے پھول توڑ رہتے ہیں، غیر ضروری پودوں کو اکھاڑتے ہیں، سرکھے ہوئے درختوں کو کاٹ پھینکتے ہیں۔

اگر درختوں اور پودوں اور سب بیٹوں کے نقطہ نظر سے دیکھا جاتے تو یہ سب کچھ سراسر خلُم ہے۔ اگر ان میں گویا تی ہوتی تو وہ کہتے کہ یہ باغبان کیسا یہ دردار خالماں ہے۔ ہمارے اعضاء کی قطعہ در برید کرتا ہے۔ ہمارے بچوں کو ہم سے چھین لیتا ہے۔ بچوں کے پودوں کو جنہوں نے ابھی زندگی کی ایک بہار بھی نہیں دیکھی تھی، اکھاڑ پھینکتا ہے۔ نجی نسخی کھیوں کو توڑے جاتا ہے۔ بوڑھوں کو دیکھتا ہے تا پھوٹ اور جوانوں کو۔ بس کاشت سے کام ہے۔ اور کبھی تو خالماں ایک مشین لے کر اس طرح پھر آتا ہے کہ ہماری براوری کے ہزاروں افراد کا بیک وقت صفائیا کر دالتا ہے کیا ایس شخص شفیق و مہربان ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے دل میں محبت اور رحمت و رأفت کے پاکیزہ جذبات ہو سکتے ہیں؟ ہم تو اس کاٹ چھانٹ اور اکھاڑ پھینک میں کوئی مصلحت بھی نہیں دیکھتے۔ ہم تو یہ ایک اندا، بے حس، سندگل و جو معلوم ہوتا ہے جو بغیر کسی علم و حکمت اور غرض و غایت کے کبھی ہم کو پانی دیتا ہے اور کبھی ہم پر قبضی چلا تا ہے، کبھی ہم کو اکھاڑ ہم پنچا تا ہے اور کبھی ہم کھڑاڑ سے کاٹ پھینکتا ہے، کبھی دوسروں سے ہماری حفاظت کرتا ہے اور کبھی

ہمیں خود اپنے ہاتھوں اکھاڑ داتا ہے، کبھی بیماریوں میں چارا مداوا کرتا ہے اور کبھی خود ایک مشین سے کر ہمارا قتل عام کر دیتا ہے۔

اگر درخت آپ کے انتظام پر نکتہ چینی کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ یہی ناکہ ان کی نظر محدود ہے، وہ صرف اپنے وجود اور اپنے قریبی تعلقات کو دیکھتے ہیں، مگر میری نظر وسیع ہے، میں باغ کی کلی مصلحت کو دیکھتا ہوں۔ وہ صرف اپنے پھل بچوں، پتوں اور شاخوں سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ بہت بڑھتے تو آس پاس کے پودوں اور درختوں سے محبت اور ہمدردی کے تعلقات پیدا کر لیتے۔ مگر میرے پیش نظر لوپے باغ کی بہتری ہے اور میں مجموعی طور پر سب کی اصلاح حال کے لیے عمل کر رہا ہوں۔ ہر نادان درخت اور بیوقوف پودا یہ سمجھتا ہے کہ سارا باغ اسی کی ذات اور اس کے دوستوں اور عزیزوں کے لیے لگایا گیا ہے اور اس باغ میں اسی کا مفاد قابل لحاظ ہے۔ لیکن میں نے دراصل ان کو باغ کے لیے لگایا ہے۔ ان کی ذات سے مجھ کو جو کچھ دلچسپی ہے اپنے باغ کی خاطر ہے۔ جس حد تک باغ کی بہتری کے لیے مناسب اور ضروری ہے میں ہر درخت اور ہر لوپے اور ہر بیل بوٹے کی حفاظت اور پر درش کرتا ہوں۔ مگر جب باغ کی مصلحت مرتقا ضمی ہوتی ہے تو میں اس میں کاٹ چھانٹ، تراش خراش، اور اکھاڑ پچھاڑ سب کچھ کرتا ہوں، کیونکہ باغ کا مجموعی مفاد میرے زردیک ایک ایک پودے اور ایک ایک درخت اور بیل بوٹے کے شخصی مفاد سے زیادہ قیمت رکھتا ہے۔ یہ گمان کرتے ہیں کہ میں دشمنی کی راہ سے ان پر ہاتھ صاف کرتا ہوں، لیکن یہ محس ان کی نادانی اور ننگ خیالی ہے۔ ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ باغ کے معاملات اور اس کے مصالح کو سمجھ سکیں۔ ان کے پاس صرف اپنی تکلیف کا احساس اور اپنی راحت اور زندگی کی خواہش ہے۔ جب ان کی خواہشات اور احساسات کو صدمہ پہنچتا ہے تو یہ بے صبر ہو جاتے ہیں اور مجھ پر ظالم ہونے کا شہر کرنے لگتے ہیں۔ مگر حقیقت ان کے گمان کے تابع نہیں ہے۔ ان کے سمجھنے سے میں درحقیقت ظالم نہیں ہو سکتا اور ان کی خاطر میں اپنے باغ کے انتظام کو بھی نہیں بدل سکتا۔

اس چھوٹی سی مثال کو جب آپ پھیلا کر دیجیں گے تو آپ کو اپنے بہت سے

گھوں شکروں کا جواب مل جاتے گا۔

کائنات کے فلک پر حب ہم غور کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اس زبردست کارخانے کو ننانے اور حلپانے والا یقیناً ایک ایسا وجود ہونا چاہیے جو کمال درجہ حکیم و دانا اور علیم و خیر ہو۔ جس نے ہم میں خواہشات پیدا کی ہیں ممکن نہیں کہ وہ خواہشات سے بے بے خبر ہو۔ جس نے ہم میں احساسات پیدا کیے ہیں، ممکن نہیں کہ وہ ہمارے احساسات سے ناقص ہو۔ جس نے پتے کو پیدا کیا ہے اور پتے کی پروردش کے لیے ماں باپ کے دل میں محبت پیدا کی ہے، وہ ضرور جانتا ہے کہ ہماری اور موت سے پتے کو کیا تکلیف ہوتی ہے۔ اور ماں باپ کے دل کو کیا صدمہ پہنچتا ہے۔ لیکن جب یہ سب کچھ جانتے اور ہم سے زیادہ جانتے کے باوجود اس نے پتے اور ماں باپ کو یہ اذیت دینا گوارا کیا، جب ہمارے احساسات سے باخبر ہونے کے باوجود اس نے ان کو پامال کرنا پسند کیا، جب ہماری خواہشات کا علم رکھنے کے باوجود اس نے ان کو پورا کرنے سے انکار کیا، تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ایسا کرنا یقیناً ناگزیر ہی ہو گا، اور اس علیم و خیر کے علم میں اس سے بہتر کوئی صورت نہ ہو گی، ورنہ وہ اس بہتر صورت ہی کو اختیار کرتا، کیونکہ وہ حکیم ہے، اور حکیم کے حق میں پہنچان نہیں کیا جاسکتا کہ اگر بہتر تدبیر ممکن ہو تو وہ اسے چھوڑ کر بدتر تدبیر اختیار کرے گا۔

اس میں شک نہیں کہ اس کی حکمتیں ہماری سمجھو میں نہیں آتیں اور نہیں آسکتیں، اس لیے کہ ہماری نظر پر سے نظامِ عالم پر نہیں ہے، اور ہم نہیں جان سکتے کہ نظامِ عالم کے مصلح کیا ہیں، اور ان کے لیے کس وقت کوئی تدبیر ضروری ہے۔ لیکن اگر جمال طور پر ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت و داناتی اور اس کے علم کامل پر صحیح اعتقاد رکھتے ہوں تو ہر آفت کے نزول پر ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اسی کی متقاضی ہوگی اور اس کے علم میں ایسا ہی مناسب ہو گا اور ہمارے لیے بجز تسلیم و رضا کے اور کوئی چارہ نہیں۔ پھر ایک دوسری بات جو غور و فکر سے ہم کو معلوم ہوتی ہے، یہ ہے کہ جوستی کائنات کے اس نظام کو چلا رہی ہے، اس کے پیش نظر خیر ہے۔ اس کے کاموں میں جو امور ہم کو شرار و فساد نظر آتے ہیں وہ دراصل اعتباری شر وہ ہیں، یعنی افراد و اشخاص

کی طرف قیاس کرتے ہوتے ان کو شرود کہا جا سکتا ہے۔ مگر حقیقت میں وہ سب خیر کلی ہی کے یہی ہیں، اور ان کا وقوع دراصل خیر کلی کے حصول کا ایک ناگزیر وسیلہ ہے لیکن یہ شرود ناگزیر نہ ہوتے اور ان کے بغیر خیر کلی کا حصول ممکن ہوتا تو خدا نے حکیم علیم ان کو اختیار نہ کرتا اور کوئی دوسرا نظام تجویز کرتا۔ خود ہم اپنی کمزوریوں اور نارساٹیوں کے باوجود وجہ گہری نظر سے دیکھتے ہیں تو چاری عمل حکمِ لگاتا ہے کہ اس کائنات کے یہیں اس سے بہتر نظام ممکن نہیں ہے۔ کوئی دوسرا نظام ایسا تجویز نہیں کیا جا سکتا جو ان جزوی و اختیاری شرود سے یکسر خالی ہو۔ بلکہ اگر یہ شرود واقع نہ ہوں تو حقیقت میں ان کا عدم ایک بڑا شر ہو گا کیونکہ وہ ایک خیر جتنی کی خاطر بہت سے خیرات کے حصول کو روک دیگا۔ مثال کے طور پر موت ہی کوئے یہیں جس پر انسان جسمی زیادہ واپسی لاتا ہے۔ ایک شخص کی موت کتنے اشخاص کے یہیں زندگی کا راستہ صاف کرتی ہے۔ اگر ایک شخص کو زندگی کا پروانہ دے دیا جاتے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ بہت سے اشخاص پر زندگی کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اس کی دائمی زندگی اگر خیر ہے تو صرف اس کی ذات کے یہی ہے لیکن خیر کلی کے یہیں وہ شر پولی۔ بخلاف اس کے اس خاص شخص کی موت صرف اس کے یہیں ایک جتنی شر ہے۔ لیکن یہی شر بہت سے جتنی خیرات کے حصول کا بھی ذریعہ ہے۔ رہا خیر کلی تو اس شخص کے مر جانے سے اس میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا کیونکہ نظامِ عالم میں اس کی موت سے کوئی خل خیل نہیں آتا۔

اسی مثال پر قیاس کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اشخاص پر جتنے مصائب نازل ہوتے ہیں وہ سب ایک اعتبار سے شر ہیں اور دوسرے اعتبار سے وسیلہ خیر، اور خیر کلی کے یہیں ان کا وقوع ناگزیر ہے۔ بسا اوقات ہم خود خور کر کے ان کے وسیلہ خیر ہونے کی بہت کو سمجھ دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تجربے ہم پر ثابت ہو جاتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے مشر سمجھا تھا وہ حقیقت میں سبب خیر تھی۔ لیکن اگر کبھی کسی شر کی بہت خیر سماری سمجھ میں نہ آتے، تب بھی ہم کو محبلًا اس حقیقت پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ چکرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور سچاری خیریت اسی میں ہے کہ اس

کی قضا کے آگے سر جھکا دیں خواہ اس کے فعل کی لمبے چاری سمجھ میں آتے یا نہ آتے۔

ذریمان القرآن - پیغمبر الاول ﷺ - جون ۱۹۷۸ء

---

## ہدایت و ضلالت کا راز

کچھ محدث ہوتی کہ اسلام کے متعلق مشرج بزرگ بنادشا کے خیالات جراہ  
میں شائع ہوتے تھے۔ حال میں جب انہوں نے مشرق کا سفر کیا تو اس کے دوران میں  
ستگاپور کے عربی اخبار "الہدی" کا نامہ لگاران سے ملا اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے  
انہوں نے پھر ایک مرتبہ اسلام کی خوبیوں کا اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آزادی  
اور دستوری و ذہنی حریت کا دین ہے۔ اجتماعی نقطہ نظر سے مسیحیت اس کا مقابلہ  
نہیں کر سکتی۔ کسی مذہب کا نظام اجتماعی اتنا مکمل نہیں ہے جتنا اسلام کا نظام ہے۔  
دنیا سے اسلام کا تنزیل اسلام سے دُور ہٹ جانے کی بدولت ہے مسلمان جب  
صرف اسلام کی بنیادوں پر جدوجہد کریں گے تو عالمِ اسلامی کا خواب، بیداری سے  
بدل جائے گا۔

ان خیالات کے سنتے کے بعد نامہ لگار نے سوال کیا کہ جب آپ اسلام کو اچھا  
سمیحتے ہیں تو پھر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے  
جو فطری طور پر ان بیانات کے بعد پیدا ہوتا ہے کیونکہ ایک سلیم الطبع آدمی کے لیے  
کسی چیز کے اعتراف قبح اور اس کو تزک کر دینے اور کسی چیز کے اعتراف حسن اور اس کو  
قبول و سلیم کر لینے میں کوئی حد فاصل نہیں ہو سکتی۔ لیکن مشرشا نے جو کچھ جواب دیا  
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قبول اسلام کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ایسا نہ کرنے کے  
لیے ان کے پاس کوئی ولیل بھی نہیں ہے، بلکہ صرفہ اس چیز کی کمی ہے جس کو شرح حصہ  
کہتے ہیں۔

ایک مشرشا ہی پر موقوف نہیں ہے بہت سے اہل فکر و نظر پرے بھی گزر چکے ہیں

اور اب بھی موجود ہیں جنہوں نے اسلام کی خوبیوں کا اغراق کیا، اس کے ذمیہ یادی یا دعویٰ حیثیتوں سے مفید ہونے کا اقرار کیا، اس کی تہذیب، اس کے نظام اجتماعی، اس کی علی صداقت اور اس کی عملی قوت کی برتری تسلیم کی، مگر حبِ ایمان لانے اور وائرہ اسلام میں داخل ہو جانے کا سوال سامنے آیا تو کسی چیز نے ان کو قدم آگے بڑھانے سے روک دیا، اور وہ اسلام کی سرحد پر پہنچ کر ٹھہر گئے۔

برعکس اس کے بہت سے آدمی یا بھی ہو گزے سے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اسلام کی مخالفت اور اس کی دشمنی میں صرف کر دیا، لیکن اسی مخالفت کے سلسلہ میں اسلام کا مطاعمہ کرتے ہوئے تحقیقت اسلام ان پیشکشیوں کی اور اس امکشافت کے بعد کوئی چیز ان کو ایمان لانے سے نہ روک سکی۔

تحقیقت یہ ہے کہ ہدایت و ضلالت کا راز بھی ایک عجیب راز ہے۔ ایک ہی بات ہے جو ہزاروں آدمیوں کے سامنے ہی جاتی ہے، مگر کوئی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، کوئی توجہ کرتا ہے لیکن وہ اس کے پردہ گوش پر سے اچھ کر چل جاتی ہے، کوئی اس کو سنتا اور سمجھتا ہے مگر مانتا نہیں، کوئی اس کی تعریف و تحسین کرتا ہے مگر قبول و تسلیم نہیں کرتا، اور کسی کے دل میں وہ گھر کر جاتی ہے اور وہ اس کی صداقت پر ایمان لے آتا ہے۔

ہمارا شبِ دروز کا مشاہدہ ہے کہ ایک شخص کو بازار میں چوٹ لگ کر گرتے ہوئے سینکڑوں آدمی دیکھتے ہیں بہت سے اس کو معمولی واقعہ سمجھ کر یونہی بیس دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ بہتلوں کے دل میں رحم آتی ہے مگر وہ افسوس کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بہت سے اس کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ اور حسن اللہ کے بندے یا لیے نہیں ہیں جو بڑھ کر اسے اٹھاتے ہیں، اس سے ہمدردی کرتے ہیں اور اس کو مدد پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک جرم کو پاپہ زخمی جاتے ہوئے بہت سے آدمی دیکھتے ہیں کوئی اس کی طرف اتفاقات ہی نہیں کرتا، کوئی اس پر حقارت کی نظر ڈالتا ہے، کوئی اس پر نرس لگاتا ہے، کوئی اس کی منہی اڑانا ہے، کوئی اس کے انعام پر خوش ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے

کہ جیسا کیا ویسا بھرا، اور کوئی اس کے انجام سے عربت حاصل کرتا ہے اور جرم سے بچنے کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔

یہ تو مختلف لوگوں کی مختلف نفسی کیفیات قاترات ہیں، جن کا اختلاف زیاد تجسس نہیں۔ اس سے بڑھ کر عجیب بات یہ ہے کہ ایک ہی شخص کے تاثرا دراس پر ایک ہی چیز کے اثر کی نوعیت مختلف اوقات میں مختلف ہوتی ہے۔ وہی ایک بات ہے جس کو ایک شخص پہراں تو مرتباً نہیں مانتا، مگر ایک ایسا موقع آتا ہے کہ لیکن اس کے دل کا بند کھل جاتا ہے، جو بات کان کے پردے میں آنکر رہ جاتی تھی وہ سیدھی دل تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ خود چیران ہوتا ہے کہ یہی بات میں پہلے بھی بارہا سُن چکا ہوں، پھر کچھ یہ کیا ماجرا ہو گیا کہ یہ خود بخود دل میں اتری چلی جا رہی ہے؟ ایک ہی شخص کو بارہا آفت رسیدہ آدمیوں کے دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے اور وہ ان کی طرف اتفاق بھی نہیں کرتا۔ لیکن ایک موقع پر کسی شخص کی مصیبت دیکھ کر وغیرہ اس کا دل بھرا جاتا ہے، قاوت کا پروہ چاک چاک ہو جاتا ہے اور وہ سب سے زیادہ ہمدرد، رحیم اور زخم دل بن جاتا ہے۔ ایک شخص کو اپنی عمر میں بے شمار عبر تنک مناظر دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے کبھی وہ ان کو تماشا سمجھ کر دیکھتا ہے، کبھی ایک حضرت دافوس کی نگاہ ڈالتا ہے اور کبھی ایک معمولی نظر سے اس پر ایسا اثر پڑتا ہے کہ دل پر ایک مستقل نقش بیٹھ جاتا ہے۔

یہی حال ہدایت و ضلالت کا بھی ہے۔ وہی ایک قرآن تھا۔ وہی ایک اس کی تعلیم تھی۔ وہی ایک اس کو سنائے والی زبان تھی۔ ابو جہل اور ابو لہب تمام عمر اس کو سنتے رہے مگر کبھی وہ ان کے کافوں سے آگئے نہ بڑھ سکا۔ خدیجہ الکبریٰ، ابو بکر، اور علی بن ابی طالب نے سُنا اور پہلے ہی محرم میں اس پر ایمان لے آئئے بغیر اس کے کہ ان کے دل میں شک کاشنا تھہ بھی گز نہ کا۔ عمر ابن الخطاب نے بیسیوں مرتبہ اس کو سنا اور صرف یہی نہیں کہ تعلیم نہ کیا بلکہ جوں جوں سنتے رہے مخالف اور وہش ہوتے چلے گئے، لیکن ایک مرتبہ انہی کافوں نے اس چیز کو سنا تو کان اور دل کے درمیان ختنی مضبوط دیواریں چپی ہوئی تھیں، لیکن ایک منہدم ہو گئیں اور اس چیز نے ان کے دل میں ایسا اثر کیا کہ ان کی زندگی

کی بالکل کامیاب پڑ گئی۔

ہر چیز پر نظر سے اس اختلاف کی قیمت اور اختلاف اثر و تاثر کی بہت سی توجیہیں کی جا سکتی ہیں اور وہ سب اپنی اپنی جگہ درست بھی ہیں مگر اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو چیز حشیم و گوش اور دل و دماغ کے درمیان کہیں ایک مدت تک حباب بنتی رہتی ہے اور ایک نفسیاتی موقع پر خود بخود چاک ہو جاتی ہے، کہیں سر سے سے حباب بنتی ہی نہیں، کہیں کسی بات کے لیے حباب بنتی ہے اور کسی بات کے لیے نہیں فتنی، وہ بالکل انسان کے ارادہ و اختیار کے تابع نہیں ہے، بلکہ فطری وجہی طور پر خود بخود انسان میں پیدا ہوتی ہے۔

یہی نکتہ ہے جس کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ:-

اللَّهُ جِنْ كَوْدَيْتِ وِينَا چا ہتَنَا ہے اس کا معنی  
اسلام کے لیے مکحول دیتا ہے اور جس کو مگرہ  
رکھنا چاہتا ہے اس کے سینے کو ایک ہنگ کتا  
اور ایسا بھینپتا ہے کہ گویا وہ آسمان پر چڑھا  
چلا جا رہا ہے۔ یہ طرفیہ ہے جس سے ایمان  
شہادتے والوں پر اللہ کی طرف سے ناپاک  
مستظر کی جاتی ہے۔

فَمَنْ يَرِدِ اهْلَهُ آنِ يَهْدِيهِ  
يَسْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدُ  
آنِ يَضْلِلَهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيْلًا  
حَوْجًا كَائِنًا يَصْنَعُ فِي السَّمَاءِ  
كَذَالِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى  
الْقِدْرَتِ لَا يُؤْمِنُونَ۔

رالنعام (۱۷)

ایک اور موقع پر اس کو یوں او کیا گیا ہے کہ:-

أَنْ يَرِدِ اهْلَهُ لِجَعْلِكُمْ أَمَّةً  
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةً  
وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَ  
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ دالخیل: ۹۳

پھر اس ہدایت کی کیفیت کو یوں بیان کیا ہے کہ:-

تُلِّيْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ  
ان سچے ہو کہ اللَّهُ جِنْ کَوْدَيْتِ وَ  
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ آنَابَ رالرعد: ۲۰

دکھاتا ہے جو اس کی طرف جوڑ کرتا ہے

اور مصلحت کی کیفیت اس طرح بیان کی ہے کہ :

وَإِذَا قَرَأَتِ الْقُرْآنَ جَعَلَنَا  
بَذِينَكَ وَبَيْنَ الْجَذِيرَ لَا يُؤْمِنُونَ  
بِالْآخِرَةِ فَرَجِعُوا إِيمَانَهُمْ أَوْ جَعَلَنَا  
عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّهُ أَنْ يَعْلَمَ هُوَ وَ  
فِي أَذْرَافِهِمْ وَقُدْرَاهُ - (بُني اسرائیل، ۲۴، ۲۵)

جب تم نے قرآن پڑھا تو ہم نے تمہارے او  
آخرت کا تيقین نہ رکھنے والوں کی دریافت  
ایک کارہ پر دہڑاں دیا اور ان کے دوں  
پر غلاف پڑھا دیتے کہ قرآن نہ سمجھ سکیں اور  
ان کے کافوں میں گرانی پیدا کرو۔

ان آیات میں اس فطری کیفیت کو جو ایک حق بات سن کر ملے قبول کر لینے کے  
لیے اضطراری طور پر دل میں پیدا ہوتی ہے اور جو آخر کار انسان کو ایمان کی طرف چھپنے  
لاتی ہے، خدا کی ہدایت اور اس کے پیدا کرنے کو شرح صدر سے تعبیر کیا ہے۔ اور  
اس ہدایت کے برعکس انسان کے دل میں حق سے انکار اور اعراض کرنے پر آمادگی کی  
جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کو اللہ کی طرف سے مستط کی ہوئی گراہی قرار دیا گی ہے  
اور "شرح صدر" کے مقابل جو انقیاحی کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے اسے "ضیق صد"  
سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر اس "ہدایت و مصلحت" اور "شرح صدر و ضیق صد" کے پیدا  
ہونے کا سبب یہ بتایا ہے کہ انسان جب ایک مرتبہ خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو  
اس کو خود بخودہ راستہ دکھاتی دیتے لگتا ہے جو اسے سیدھا خدا کی جانب ملے جاتا ہے  
اور جو شخص سرے سے پہا احساس پی نہیں رکھتا کہ مجھے کبھی خدا کے حضور میں ماضی ہوتا  
اور اپنے قلب و جمارع کے افعال کا حساب دینا ہے، اس کو لاکھوں کوئی شخص کلڑ حق  
سناتے اور وعظ و تلقین کرے، کرتی بات اس کے دل میں نہیں اترتی اور وہ کسی  
طرح را وہ راست پر نہیں آتا۔

یہاں پھر دو باتیں مل گئی ہیں جن کو الگ الگ سمجھے لینے سے قرآن مجید کے وہ مقامات  
ہماسانی حل ہو جاتے ہیں جن میں یہ ضمنوں مختلف پیرايوں سے بیان کیا گیا ہے۔

ایک طرف ہدایت شرح صدر و مصلحت ضیق صد کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف فرسی کیا گی  
و سری طرف اس ہدایت و شرح صدر کے عمل کرنے کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ انسان

خدا کی طرف رجوع اور توجہ کرے، اور صدالت و ضمیق صدر کے مسلط کر دینے کا سبب یہ تباہیا گیا ہے کہ مگر اس شخص خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور اس کے سامنے مستول و جوا بده ہونے کا احساس نہیں رکھتا۔

ان دونوں چیزوں کے باہمی تعلق کو یوں سمجھو کر انسان کی فطرت میں خدا نے ایک ایسی قوت رکھ دی ہے جو اس کو حق و باطل کے انتیاز اور صحیح و غلط کا فرق کرنے میں مدد و پیغام بخیر ہے اور اس کے ساتھ ہی اسے حق کی طرف بڑھنے اور باطل سے احتراز کرنے پر مائل کرتی ہے۔ یہی قوت وہ فطری ہدایت ہے جسے خدا اپنی طرف مذوب کرتا ہے اور جس کی طرف ارشاد خداوندی فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے خلاف ایک اور قوت بھی انسان میں کام کر رہی ہے جو اس کو برائی کی طرف لکھنپتی ہے، غلطی اور کچھ بدی کی طرف مائل کرتی ہے اور جھوٹ اور باطل کو اس کے سامنے مزین کر کے پیش کرتی ہے۔ ان دونوں کے ساتھ بہت سی خارجی اور داخلی قوتیں ایسی ہیں جن میں سے بعض ہدایت کی قوت کو مدد پہنچانے والی ہوتی ہیں اور بعض صدالت کی قوت کو۔ اکتسابِ علم اور اس کے مختلف مدارج، تربیت اور اس کی مختلف کیفیات، سوسائٹی اور اس کے مختلف احوال، یہ وہ چیزیں ہیں جو یہاں سے اس پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ترازو کے دونوں پیڑوں میں سے کسی ایک میں اپنا فتن و الٰتی رہتی ہیں۔ اور انسان کا اپنے اختیار تنیزی، اپنی فہم و فراست، اپنی عقل و بصیرت، اپنے ذرائع اکتسابِ علم سے صحیح یا غلط کام لینا، اور اپنی قوتِ فیصلہ کو بجا یا بے جا استعمال کرنا، یہ وہ چیز ہے جو خود اس کے ارادہ کے تابع ہے اور جس سے وہ ہدایت و صدالت کی متفاوت قوتوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔

اب ہوتا یہ ہے کہ خدا کی بخشی ہوتی ہدایت اور اس کی مسلطگی ہوئی صدالت دونوں غیر محسوس طور پر اپنا عمل کرنی رہتی ہیں۔ ہدایت کی قوت اسے راہِ راست کی طرف لطیف اشارہ کے لیا کرتی ہے اور صدالت کی قوت اسے باطل کے ملن پر رجحانے جاتی ہے۔ مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان غلط اثرات سے متاثر ہو کر اور خود اپنی

اختیاری قوتوں کو غلط طریقے سے استعمال کر کے ضلالت کے پھنڈے میں گرفتار ہو جاتا ہے اور ہدایت کی لپکار پر کان ہی نہیں دھرنما، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلط راستے پر چل رہا ہوتا ہے اور اس دعا ان میں کچھ بیرونی اثرات اور کچھ خود اس کی اپنی عقل و بصیرت، دلوں مل جمل کر لئے گراہی سے بیزار کر دیتے ہیں اور اس وقت ہدایت کی وہی روشنی جو پہلے مدھم تھی ذقائق تیز ہو کر اس کی آنکھیں کھول دیتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مدت تک انسان ہدایت اور ضلالت کے درمیان مذبذب رہتا ہے، کبھی اور حکمت پڑھنے ہے کبھی اور حسر، قوت فیصلہ اتنی قوی نہیں ہوتی کہ بالکل کسی ایک طرف کا ہو جاتے ہیں پذیرت اسی تذبذب کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، بعض کا آخری فیصلہ ضلالت کے حق میں ہوتا ہے، اور بعض ایک طویل شکش کے بعد ہدایت الہی کا اشارہ پاپیتے ہیں مگر سب سے زیادہ خوش صحت وہ سیم الفطرت، صحیح القلب، اور سدید النظر لوگ ہوتے ہیں جو خدا کی دی ہوتی عقل، اس کی عطا کی ہوئی آنکھوں، اس کے نہنے ہوتے کافی اور اس کی وظیعت کی ہوئی قوتوں سے ٹھیک ٹھیک کام لیتے ہیں مشاہدات اور تجربات سے درست نتائج اخذ کرتے ہیں۔ آیاتِ الہی کو دیکھ کر ان سے صحیح سبقی حمل کرتے ہیں۔ باطل کی زندگی ان کو رنجانے میں ناکام ہوتی ہے۔ جھوٹ کا فریب ان کو اپنا گرویدہ نہیں بناسکتا۔ ضلالت کی کچھ را ہمیں کو دیکھتے ہی وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ آدمی کے چینے کے قابل نہیں ہیں۔ پھر جو نہی کہ وہ حق کی طرف رجوع کرتے اور اس کی طلب میں آگے بڑھتے ہیں، حق ان کے استقبال کو آتا ہے، ہدایت کا نوران کے رہنمے پھکنے لگتا ہے اور حق کو حق سمجھ لینے اور باطل کو باطل جان لینے کے بعد پھر دنیا کی کوئی قوت ان کو راہ راست سے پھر نہ اور گراہی کی طرف لگانے میں کامیاب نہیں ہوتی۔

ایک اور بات بھی اس سلسلہ میں قابلِ بیان ہے اور ضرورت ہے کہ مسلمان اس کو ذہن نہیں کر لیں۔ عام طور پر جب غیر مسلم شاہیر کی جانب سے اسلام کے متعلق کچھ اپنے خیالات کا اظہار ہوتا ہے تو مسلم بڑے فخر سے ان خیالات کو شہرت

دیتے ہیں گویا ان کا اسلام کراچیا سمجھنا اسلام کے بیسے کوئی سُرٹنکی ڈھہے۔ لیکن یہ حقیقت فراموش نہ کرنی پڑے ہے کہ اسلام کی صداقت و حقانیت اس سے بے نیاز ہے کہ کوئی اس کا اخترات کرے۔ جس طرح آفتاب کا روشن ہونا اس کا محتاج نہیں کوئی اس کو روشن کہے اور جس طرح اگر کا گرم ہونا اور پانی کا سیال ہونا اس کا محتاج نہیں کہ کوئی اس کی گرمی اور اس کے سیدان کو تسلیم کرے، اسی طرح اسلام کا برحق ہونا اس کا حاجتمند نہیں کہ کوئی اس کے برحق ہونے کو مان لے خصوصاً ایسے لوگوں کی تھیں اور مرح تو کوئی بھی وقت نہیں رکھتی جن کے دل ان کی نیابوں کا سائٹ نہیں دیتے اور جو خود اپنے اعراض و انکار سے اپنی مرح و تسلیم کی تکذیب کرتے ہیں۔ اگر حقیقت ہیں وہ اسلام کی خوبی کے معرفت ہوتے تو اس پر گیان لے آتے لیکن جب انہوں نے زبانی اخترات کے باوجود ایمان لانے سے انکار کروایا تو اپنے عقل کی نگاہ میں ان کی حیثیت بالکل اس شخص کی سی ہے جو طبیب کی صداقت کو تسلیم کرے، اس کے تجویز کردہ نسخہ کی صحت کا اخترات کرے مگر اپنی بیماری کا علاج کسی عطا ای طبیب سے کرastے۔

مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بڑے سے بڑے غیر مسلم کا اخترات بھی اسلام کے بیسے قابل فخر نہیں ہے۔ اس کے بیسے ایک ہی فخر کافی ہے۔ اور وہ اَنَّ الْيَقِينَ عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا شَأْدَرَ دَأْلَ عِرَانٌ : ۱۹ ( اور رضیعت کوئمُ إِلَّا شَأْدَرَ دَيْنَا وَ الْمَأْمَةَ : ۲۰ ) کا فخر ہے۔

# اسلام ایک علمی و عقلی مذہب

انسان نے خداونپی تلاش فوجو سے بختی طریقے یا مذاہب ایجاد کیے ہیں ان سب کو دو قسموں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک قسم ان مذاہب کی ہے جو حیل کی مبنید پرواہیوں سے پیدا ہوتے ہیں اور انسان کی اجنبی پسندی کو اپیل کرتے ہیں۔ دوسری قسم ان طریقوں کی ہے جو خواہشات اور اہواز فض سے پیدا ہوتے ہیں اور انسان کے حواس کو اپیل کرتے ہیں۔ اگرچہ ان دونوں قسم کے طریقوں میں عقل اور استعداد علمی سے کام بیاگیا ہے لیکن مذہب ان کی محرك ہے نہ مذہب کو اپیل کرتے ہیں، نہ عقلی شائع کا حصہ ان کا نہ ہے مقصود ہے۔ عقل اور استعداد علمی ان کے پاس محسن ایک آنکے طور پر ہے جن سے وہ اپنی درجنہ کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کام لیتے ہیں۔ ایک عالم بادی سے قطع نظر کر کے عالم باطنی کی طرف توجہ کرتا ہے اور علم و عقل کی تمام قوتوں کو ایسے ذراائع دیتا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے جن سے وہ نفس کی باطنی قوتوں کو ماری قیود سے آزاد کر کے مکاشفات اور لذات روحانی اور خوارقی عادت کے حصوں پر قادر ہو جاتے اس کے مقابلہ میں دوسرا عالم باطنی سے قطع نظر کر کے اپنی تمام توجہ عالم بادی کی طرف پھر دیتا ہے اور یہاں وہ علم و عقل کی ساری طاقتیوں کو ان طریقوں کے دریافت کرنے میں استعمال کرتا ہے جن سے وہ مادی اسباب وسائل سے زیادہ سے زیادہ انتفاع کر کے اپنے جسم کے لیے زیادہ آسانی اور اپنے حواس کے لیے زیادہ سے زیادہ لذتیں حاصل کر سکے۔ غرض علم و عقل ان طریقوں کے خادم ضرور ہیں، مگر بھائی خود ان کی بنی جہل اور نادانی پر ہے۔

ان کے مقابلہ میں ایک مذہب وہ ہے جو خدا نے اپنے رسولوں کے ذریعہ بھیجا ہے۔

یہ مذہب خالص علم سے پیدا ہوا ہے، سر اسر عقل کو اپیل کرتا ہے، اور اس کا حاصل مقصد انسان کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر علم کی روشنی میں لانا ہے تاکہ وہ کائنات میں اپنی اصلی حیثیت سے واقع ہو۔ موجودات کے ساتھ اپنے تعلق کی حقیقی نسبت کو سمجھے، اور علم و فہم کی روشنی میں اپنی تمام خاہری و باطنی قوتیں اور ماڈی وہ حال وسائل کو اس مقصد تک پہنچنے میں استعمال کرے جو درحقیقت انسانی زندگی کا اصلی مقصد ہے — یعنی اس دنیا میں اس خدمت کا تھیک تھیک حق ادا کرنا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بن کر اس کے پسروں کی ہے، اور آخرت میں اپنے مالک کی خوشنودی سے سرفراز ہونا جو ادائے فرض کا لازمی تیج ہے۔

یہ مذہب انسان کی کسی قوت کو بیکار نہیں کرتا بلکہ ہر ایک کو صرف کرنے کا صحیح راستہ بتاتا ہے۔ وہ انسان کی کسی خواہش کو پامال نہیں کرتا بلکہ ہر ایک کے لیے ایک جائز اور متعقول حد مقرر کر دیتا ہے۔ وہ تخلیل کو بلند پروازی سے روکتا نہیں بلکہ اس کی پرواز کے لیے ایک بہتر فضنا اور ایک صحیح سُرخ متعین کرتا ہے۔ وہ انسان کی عملی قوتیں کو ماڈی اسباب و وسائل کے اکتشاف اور ان سے انتفاع کرنے سے باز نہیں رکھتا، بلکہ اس اکتشاف و انتفاع کو صحیح مقاصد کی طرف موڑ دیتا ہے۔ وہ ہر شخص کو اسی کام میں لگاتا ہے جس کی امیت ہے کہ وہ پیدا ہوا ہے، خواہ اس کا میلان روحانیت کی طرف ہو یا ماڈیت کی طرف، لیکن ان دونوں قسم کے انسانوں کو وہ ایسے علم اور ایسے تعلق سے بہرہ ورکر دینا چاہتا ہے جس کی مدد سے وہ افراط و تفرط کو چھوڑ کر ایک صراحت متعین پر چل سکیں، انسان ہونے کی حیثیت سے اپنے فراغ کو سمجھیں اور بجا لائیں، ان کی ذات پر خدا اور مخلوقات اور خود ان کے اپنے نفس کے جو حقوق ہیں ان کو جائیں اور ادا کریں ہاؤ جانیات الی طرف جائیں تو ان میں اس قدر گم نہ ہو جائیں کہ تمام قرآن کا شفات اور لذات روحانی ہی ان کی جدوجہد کا محور ہے کہ وہ جائیں، اور ماڈیت کی طرف متوجہ ہوں تو ادھر بھی ان کا انہاک اس قدر نہ بڑھ جائے کہ وہ بالکل حتی لذت بھا اور حسجاتی آسائیں اور ماڈی کا میا بیوی ہی کو اپنا کعبہ مقصود بنایں۔

یہ سراسر علمی و عقلی مذہب ہے، اس لیے اس کا اتباع بھی علم اور عقل کے بعیر نہیں ہو سکتا۔ پہاں ہر مردم پر فقہہ اور تدبیر کی ضرورت ہے۔ جو شخص اس مذہب کی روح سے ناشناہ ہو، اس کی حکمتون سے ناواقف ہو، اس کے اصول کو نہ سمجھتا ہو، اس کی تعلیم میں غور فکر نہ کرتا ہو، وہ اس ماہ راست پر انتقامت کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا جس کی طرف یہ مذہب رہنمائی کر رہا ہے۔ اس کا عقیدہ بے قیمت ہے جیک کہ وہ زبانی اقرار سے گزر کر فکر و شعور پر عاوی نہ ہو گیا ہو۔ اس کا عمل بے اثر ہے جب تک کہ وہ علم اور فہم کی توجیح سے محروم رہ ہو جاتے۔ اس کا اتباع قانون بے معنی ہے جب تک کہ قانون کی سپرٹ اس کے جواہر سے گزر کر اس کے دل و دماغ پر چھانٹ گئی ہو۔ اگر محن تقیید کی راہ سے وہ بغیر سمجھے لو جیے اس مذہب کی صداقت پر ایمان رکھتا ہو اور اس کا اتباع کر رہا ہو، تو اس کا ایمان اور اتباع بالکل ایک ریت کے تو وہ سے کی طرح ہو گا جسے ہوا کا ہر جزو نکلا اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ جا سکتا ہے۔ ایسے جاہل کے ایمان اور اندر ہے کہ اتباع میں کوئی پائیداری نہیں ہو سکتی۔ ہرگز راہ کرنے والا اس کو صحیح مرکز سے ہٹا سکتا ہے۔ ہر خوش نہ راستہ اس کو اپنی طرف مائل کر سکتا ہے۔ ہر توہین، ہر مفرد و صند، ہر نظر بہ اس کے اختقاد کی نیادوں کو قتل نہ کر سکتا ہے ہر ہوتے نفس کی ہر لہر اور ضلالت میں عام کی ہر رواں اس کو بہا کر کہیں سے کہیں سے جا سکتی ہے۔ اگر دوست پسند ہو گا تو اختقاد اور عمل کی ہر اس مگرابی پر اصرار کرے کا جو آبا و اجداد سے اس کو میراث میں ملی ہو۔ اگر تجدود کا ذوق رکھتا ہو گا تو خواہشات نفس کو اپنا خدا بنائے کہ سراس نئے راستہ پر بھیگتا پھرے گا جسے اس کے نفس کا شیطان اس کے سامنے مرتیں بنائے پیش کروے۔ اگر کمزور طبیعت کا ہو گا تو ہر اس را ہر وکے پیچھے چل کر را ہو گا جو اسے زندگی کے راستے پر کسی حیثیت سے کامیابی کے ساتھ قطع منازل کرتا نظر آتے۔ اگر خود اپنے اجہاد سے کوئی راہ نکالنے کی اس میں صلاحیت ہوگی تو دین میں صحیح بصیرت نہ رکھنے والی قانون کے اصول سے ناواقف ہونے کی وجہ سے زندگی کے سفر میں ہر دوسرے ہے پر پہنچ کر وہ علم کے بجائے فلن و تحریکیں سے کام لے گا اور آخر کمیں

ذکر ہیں جا کر سیدھے راستے سے بھٹک ہی جاتے گا غرض اس خدائی مذہب کا صحیح اتباع اور اس اتباع میں استقامت، جہل اور نافہمی کے ساتھ ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے علم اور سمجھ بوجہ اور خور و فکر ناگزیر ہے، اور انہی چیزوں کے کمال پر کمال درجات مترتب ہوتے ہیں۔

اس مذہب کی تاریخ پر نگاہ ڈالیے تو ہمارے اس بیان کی صداقت آپ کے سامنے نمایاں ہو جاتے گی جتنے انہیاں علیہم السلام اللہ کی طرف سے آتے وہ صرف ایک قانون اور ایک کتاب ہی لے کر نہیں آتے بلکہ اس کے ساتھ حکمت بھی لاتے، تاکہ لوگ ان کی تعلیم کو سمجھیں اور علی وحیہ البصیرت اس قانون کی پیروی کریں جو ان کے فریعہ سے بھیجا گیا تھا۔ فَقَدْ أَتَيْنَا أَلَّا إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَأَنْهِكُمْ رَايْتُمْ<sup>(۱)</sup> وَيُعَذِّمُهُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ رَأَلْ عَمَانَ<sup>(۲)</sup> وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ رَصِيدٌ<sup>(۳)</sup> قَدْ  
جَعَلْنَاكُمْ بِالْحِكْمَةِ رَايْتُمْ<sup>(۴)</sup> یہ حکمت کیا چیز تھی؟ دین کی سمجھ، علم کی رشی، بصیرت کا نور، نذر کی صلاحیت، اور نفقہ کی قابلیت جب کبھی کوئی نبی آیا اس نے آپ سے پیروں کو کتاب کے ساتھ یہ چیزیں دی اور اسی کی مدد سے لوگ سیدھے راستے پر قائم رہے۔ اس کے بعد ایک دوسری حالت اور ان حصی تعلیم کا آیا جس میں حکمت غائب ہو گئی اور کتاب باقی رہ گئی۔ کچھ عرصہ تک لوگ محض کتاب کویے ہوتے اس ڈگر پر چلتے رہے جس پر ان کے اسلاف انہیں چلا گئے تھے۔ مگر اب ان میں گراہیوں کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، کیونکہ وہ چیزان میں باقی نہیں رہی تھی جیسے  
وہ کتاب کو سمجھتے اور پڑا بیت کو ضلالت سے ممتاز کر سکتے۔ رفتہ رفتہ ان کے قدم راہ راست سے ہٹلنے شروع ہوتے کسی نے ہوا تے نفس کا اتباع کیا کسی نے خلن و تھیں کی پیروی کی۔ کسی نے گمراہ قوموں کے اثرات قبول کیے۔ کسی نے جھوٹے رہنماؤں کو ارباب من دون اللہ نہیا۔ آخر کار حکمت کے ساتھ کتاب بھی رخصت ہو گئی، اور خدا کے بھیجے ہوتے دین کو منع کر کے اوہام اور خرافات اور فکر و عمل کی گراہیوں کا مجموعہ بنادیا گیا۔

اس طرح بار بار دینِ الہی کے منسخ ہونے، اور کتبب آسمانی کے گم یا محرفت ہو جانے اور امتیوں میں پدایت کے بعد صنالات کے چھپلے چلانے کی وجہ اس کے بہوا کچھ نہیں کہ دینِ الہی میں اصل چیز الفاظِ کتاب کی تلاوت اور رسم مذہب کی بجا آوری نہیں ہے، بلکہ تمام تر دار و مدار کتاب کے صحیح علم فہم پر ہے۔ جب تک لوگوں میں حکمتِ الہی اور وہ آیاتِ الہی میں تدریکرتے رہے اور انہیاں کی بتائی ہوئی راہ مستنقیم پر نورِ بصیرت کے ساتھ چلتے رہے، اس وقت تک کوئی چیز ان کو گراہ نہ کر سکی۔ اور جب یہ چیزان سے منفعت ہو گئی تو گویا ان میں بخاریوں کی استعداد پیدا ہو گئی۔ ان کے اندر بھی امراض پیدا ہوتے اور باہر سے بھی وباً جوشیم نے ان پر چند کیا یہاں تک کہ دین اور کتاب اور قانون سب کچھ ٹھوکروہ صنالات کے پڑا رہا راستوں میں بھیک کئے۔

انبیاء سابقین کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کتاب اور ایسی پدایت دے کر بھیجا گیا جس کو چھپلی کتابوں کی طرح منسخ اور محرفت ہونے کا تو کوئی خطرہ نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح صورت میں باقی رکھنے کا ایسا انتظام کر دیا ہے کہ اگر ان ان اس کو بدلتے اور مٹاتے کی کوشش بھی کر سے تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب بھی اس کتاب اور اس پدایت سے فائدہ اٹھانے، اور دین کے سیدھے راستے پر قائم رہنے اور اعتقاد و عمل کی گمراہیوں سے بچنے کا اختصار گلستانِ اسی چیز پر ہے جس پر اپنے اسے دینِ الہی کی پڑا رکھی گئی ہے، یعنی علم اور عقل۔ خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہر زمانے اور ہر حال میں بہترین رہنمائی ہے، مگر ان کے لیے جو علم اور عقل رکھتے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی پدایت کو سمجھیں، اس میں غور و خوض کریں، اس سے اکتساب فور کریں، اور زندگی کی ہر راہ میں اس نوڑکوئے کر لیں۔ رہنے والے لوگ جو نفقہ و تدریکی نعمت کھو چکے ہیں اور صرف اس لیے مسلمان ہیں کہ ان کے پاپ دادا ان کو مسلمان چھوڑ گئے ہیں، تو درحقیقت ان کے لیے دین میں کوئی استفادہ نہیں ہوہے ہر وقت مگر اسی کے خطرہ میں ہیں۔ مگر اسی ان کے اندر سے بھی چھوٹ سکتی ہے اور باہر سے بھی

حملہ کر سکتی ہے ممکن ہے کہ ان کی اپنی جہالت اور ناقہمی ان کو راہِ راست سے بھینکا دے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے گروہ پیش جو ضلالتیں پھیلی ہوئی ہیں ان میں سے کسی کے پیچے وہ بغیر جانے بو بھی گلے چلیں۔ کیونکہ ان کے پاس وہ چیز ہے سی نہیں جوان کو دین کے سیدھے رستے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رکھ سکتی ہے۔

قرآن مجید میں انسان کی گراہی کا اصل سبب صرف ایک چیز کو قرار دیا گیا ہے اور وہ آیاتِ الہی کو نہ سمجھنا ہے، چنانچہ وہ یار بار اس پر مستحبہ کرتا ہے اور رہایت شدت کے ساتھ اس کی مذمت کرتا ہے۔

(اللَّهُ كَرِيمٌ لَا يَنْعِذُ عَنْ حِلَابٍ  
كُوْنَگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ  
الصُّمُرُ الْبُكْرُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ  
رَاءُ الْأَنْفَالِ (۲۷)

ان کے پاس دل ہیں مگر ان سے سمجھتے نہیں  
ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے  
نہیں۔ ان کے پاس کافیں ہیں مگر ان سے سنتے  
نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اور  
بھی زیادہ گراہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت  
میں ٹپے ہوتے ہیں۔

اللَّهُ نے ان کے دلوں کو چیزوں پر کیونکہ  
وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھو بوجھو نہیں سمجھتے۔

ان کے دلوں میں خدا سے زیادہ تمہارا  
(یعنی بندوں کا) خوب ہے، یہ اس یہے  
کہ وہ سمجھو بوجھو کھنے والے لوگ ہیں ہی۔  
کیا وہ فرآن میں نذر بر نہیں کرتے یا ان کے

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا زَ  
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبَصِّرُونَ بِهَا وَ  
كَفَمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلِلَّهِ  
كَالْأَعْمَارِ بِلِّهُمْ أَصْنَلُهُمْ أَوْلَى  
هُمُ الْغَافِلُونَ رَاءُ الْعَرَافِ (۱۴۹)

صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ  
قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ رَاءُ التَّوْبَةِ (۱۲۰)  
لَا إِنْهُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي  
صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِيلَ بِأَنَّهُمْ  
قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔

(الْحُسْنَاءِ ۱۲۳)

أَفَلَا يَنْدَبَرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ

عَلَى قُلُوبِ أَفْقَالِهَا (مُحَمَّد: ۷۲)

أَفَلَمْ يَدَرِكُوا لِقَوْلَ

(دِيْنُ مُسْنَن: ۹۸)

دلنوں پر فغل لگے ہوتے ہیں؟  
کیا انہوں نے اس بات پر (جو ان سے کہی جا

رسی ہے) غور نہیں کیا؟

اس عدم تدبیر اور غافلیت کے نتائج دو مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔

اور وہ دونوں مگر ابھی کی بدترین صورتیں ہیں

ایک صورت یہ ہے کہ انسان بغیر سمجھے بوجھے اپنے دین و ایمان کو دوسروں پر چھپوڑ دیتا ہے۔ خواہ وہ اس کو سنجات کے رستے پرے جائیں یا ہلاکت کے رستے پر۔

اور حبیب ان سے کہا گیا کہ آؤ اس کتاب کی

طرف جو اللہ نے آثاری ہے اور رسول کی طرف

تو بے کہ پھر کسیے وہی طریقہ کافی ہے جس

پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے۔ کیا یہ

لوگ باپ والا ہی کی تقسیم کریں گے خواہ وہ

کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ راہ راست پڑھو۔

انہوں نے خدا کو چھپوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ

کو خدا بنا لیا ہے وہ کہ جس کو وہ حرام کہیں وہی

ان کے نزدیک حرام ہے خواہ اللہ نے اس کو

حلال کیا ہوا اور جس کو وہ حلال کہیں وہ ان کے لیے حلال ہے خواہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہوا۔

جب ان کے چہرے آگ میں الٹ پڑت

کیجئے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ

اوہ اس کے رسول کی بات مانی ہوتی ہے اور

کہیں گے کہ خدا یا ہم نے اپنے سرداروں اور

اپنے بڑوں کی احاطت کی اور انہوں نے ہم کو

مگراہ کر دیا۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا

أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَيَّ الرَّسُولُ قَالُوا

حَسْبُنَا مَا وَحْدَنَا عَلَيْهِمَا يَا أَيُّهُنَا أَد-

لُوكَانَ أَبَا وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا

فَلَا يَنْتَدِرُونَ - زَمَانَة: ۱۰۷

إِنَّهُمْ لَا يَحْذَرُونَ أَحْبَارَ هُمْ وَ

رُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

رَأْتُهُمْ فِي التَّوْبَة: ۳۱

حَلَالَ كَيْا ہوا اور جس کو وہ حلال کہیں وہ ان کے لیے حلال ہے خواہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہوا۔

يُوْمَ الْقِيَامَةِ وَجْهُهُمْ فِي

النَّارِ يَقِيُّوْلُونَ يَلْيَتُنَا أَطْعَنَا اللَّهُ وَأَطْعَنَا

الرَّسُولُ وَقَالُوا رَبَّنَا أَنَا أَطْعَنَا سَادَنَا

وَكُبَرَاءَنَا فَاضْلُونَا السَّبِيلَةَ -

رَاهِنَاب: ۴۴۶

دوسری صورت یہ ہے کہ انسان خدا کی بخشی ہوئی پدایت کو چھوڑ کر اپنی رائے پر اعتماد کرتا ہے۔ اس راہ میں اقل تولیقین نہیں ہوتا رجراہ راست پر چلنے کا یقینی ذریعہ ہے، بلکہ زیادہ تر مگن ہوتا ہے، دوسرے بڑا خطرہ اس میں یہ ہے کہ انسان کی عقل پر نفس کی خواہشات غالب آجائی ہیں اور اس کو اعتدال کے خلاف مستقیم سے ہٹا کر افراط و لفڑیک جانب سے جاتی ہیں جب انسان اس رستے پر مبتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص اپنے اندھیرے میں گامزن ہو، کہیں علم صحیح اور عقل سالم کی بھلی آباق سے چمک گئی تو راستہ نظر آگیا اور کچھ چل لیے، مکملًا اصل و مفہوم مشوا فتحیہ، اور شہزاد ہو کر کھڑے ہو گئے، فَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَاتُوا، یا چلے تو کسی خارزار میں جا پہنچے یا کسی گڑھے میں گر گئے۔

وَمَا يَتَّبِعُ الْكُفَّارُ هُمُ الظَّنَّا  
الظَّنَّ لَا يَعْلَمُ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔  
(ریونش : ۲۶)

اور ان میں سے اکثر بزرگان کے کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرتے۔ اور بزرگان کا حال یہ ہے کہ وہ حق و علم یقین رسم سے کچھ بھی بے نیاز نہیں کرتا۔

کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے پہنچی خوشی نفس کو اپنا خدا بنالیا ہے؟ ... کیا تو ان کرتا ہے کہ لیے لوگوں میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں؟ نہیں وہ تو اس جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بد راہ۔ اور اس سے زیادہ بد راہ اور کوئی ہر لمحہ جس نے اللہ کی پدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش نفس کی پیروی کی؟

اور اس شخص کی بات ہرگز نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور جس نے

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهَهُ هَوَاهُ  
... أَمْ تَحْسِبَ أَنَّ الْكُفَّارَ لَا يَعْلَمُونَ  
أَوْ يَعْقِلُونَ أَنْ هُمُ الْأَكْلَافُ  
هُمُ الْأَضَلُّ سَيِّئًا۔ (الفرقان : ۷۰)

وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ  
يُغَيِّرُهُدَىٰ مِنَ اللَّهِ (قصص : ۵۵)

وَلَا يُطِعُ مَنْ اعْقَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ  
ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرطًا

رکھتے ۱۸۷)

اپنی خواہشِ نفس کی پیروی اختیار کرے ہے۔  
اور جس کے کام میں اعتدال سے تجاوز ہے۔  
اور ان لوگوں کی خواہش کی پیروی نہ کرنا جو  
علم نہیں رکھتے۔

وَلَا تَتَبَعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا  
يَعْلَمُونَ۔ (جاشیہ: ۱۸۶)

یہ نتائج بیس آیاتِ الہی میں غور و خوض نہ کرنے اور تدبیر و تفقر سے کام نہ لینے کے  
جو لوگ آیات کی تلاوت کرتے ہیں مگر ان کو نہیں سمجھتے، کتاب رکھتے ہیں مگر خود اس کی  
تعلیم میں بصیرت حاصل کرتے اور اس کے احکام کو معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے  
رسول کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں مگر اس پدایت کی طرف سے اندر ہے ہیں جو رسول  
نے پیش کی ہے، اسلام کی خفائیت پر اعتماد رکھتے ہیں مگر اس کے اصول اور اس کی  
روح سے ناواقع ہیں، ان کے لیے ہر ہر قدم پر یہ خطرہ ہے کہ مگر ایسی کی ان دلوں  
صورتوں میں سے کسی صورت میں بدلنا ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ اور اس کے رسول نے  
مسلمانوں کو بار بار تاکید کی ہے کہ دین میں بصیرت پیدا کریں، اس کی تعلیم اور اس کے احکام  
کو سمجھیں، اور کم از کم ان میں سے ایک گروہ ہمپیشہ ایسا رہے جو تفہیمِ الدین حاصل  
کرنے کے لیے اپنے آپ کو وفعت کر دے تاکہ اپنے دوسرے بھائیوں کی صحیح رہنمائی  
کر سکے۔

قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ  
لِيَدَبْرُقَ الْيَتِيمَ وَلِيَنْهَا كَرَأُ لَعْنَا  
الْأَلْيَامِ۔ (رخص: ۱۲۹)

یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تجھ پر اتاری ہے،  
برکتِ والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں  
غور و خوض کریں اور جو عقل رکھتے ہیں وہ  
اس سے بحق ہیں۔

ہم نے آیات کو مفضل پیان کر دیا ہے  
ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔

اللہ نے مومنوں پر بڑا ہی احسان کیا کہ ان

لَذَّ فَصَلَّنَا الْأَيْتَ لِقَوْمٍ  
يَعْمَلُونَ۔ (العام: ۹۸)

لَقَدْ هَمَتَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

میں خود اپنی میں کا ایک رسول نجیح دیا جو ان کو اس کی آیات پڑھ کر سنتا تھا اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا تھا اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا تھا۔

اور جس شخص کو حکمت دی گئی اس کو بہت کچھ بھلائی دے دی گئی۔

پھر کیوں ان کے ہر گزہ میں سے کچھ لوگ ایسے نہ لکھ کر دین میں تفہم حاصل کرتے اور واپس جا کر اپنی قوم کو آگاہ کرتے۔

إذْبَعَثْتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ  
يَشَّهُدُوا عَلَيْهِمْ مَا يَتَدَبَّرُ وَمَيْزِكِيفُهُ وَ  
أُعْلَمُ بِهِمْ إِنَّ الْكِتَابَ قَاءِ الْحِكْمَةِ -

رَأَلْ عِرَانٌ : ۱۶۲

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ  
أُوفِيَ خَيْرًا كَثِيرًا - رَبِّقَرَه : ۱۴۹  
فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ  
رَبِّهِمْ طَائِفَةٌ لَّيْتَقْرَأُ هُوَ أَفِى الْأَتْنَى  
وَلَيُنْذِرُ فَقَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا  
إِلَيْهِمْ - دَوْبَرَه : ۱۱۲

اس باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت ہدایات فرماتی ہیں۔ مثال کے طور پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مردی سے ہے کہ:-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن رکھو اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں تفہم نہیں ہے اور اس مسلم میں کوئی بھلائی نہیں جس میں سمجھو جو جو نہیں ہے، اور اس قرآن خوانی میں کوئی بھلائی نہیں جس میں مدرب نہیں ہے۔

اللہ جس کے لیے بہتری کا املاہ فرماتا ہے اس کو دین میں تفہم عطا کرتا ہے۔

لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو عمل کے اعتبار سے بہتر ہیں پس اس طبقہ دین میں سمجھو جو

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ إِلَّا لِأَخْيَرِ فِي عِبَادَتِكُمْ لَيْسَ  
فِيهَا تَفْقِهٌ وَلَا عِلْمٌ لَيْسَ فِيهِ تَفْهِيمٌ  
وَلَا قِرَاءَةٌ لَيْسَ فِيهَا تَدْبِيرٌ -

ایک دوسری حدیث میں ہے  
مَنْ يَبْرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا  
يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ -

ایک اور حدیث میں ہے:  
أَفْضَلُ النَّاسِ أَفْضَلُهُمْ عَمَلاً  
إِذَا فَقِهُوا وَمُبَيِّنُهُمْ -

رکھتے ہوں۔

ابس وقت مسلمانوں کی سب سے ٹڑی بلکہ اصل مصیبت یہ ہے کہ ان میں تلقہ نبی الدین اور تدبیر فی الکتب والستہ نہیں ہے۔ اسی چیز کے فقدان نے ان کے اعتقادات کو مکبوط کھلا، ان کی عبادت کو بے روح، ان کی مساعی کو پراگندہ و پریشان اور ان کی زندگیوں کو بے ضابطہ و بدظلہ کر دیا ہے۔ اسلام کے شیدائی ان میں بہت ہیں، مگر اسلام کو سمجھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مرٹنے والوں کی کمی نہیں، مگر قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو پیش کیا ہے اس کی روح اور اس کے اصول کو سمجھنے والے آئے میں نہ کس کے برابر ہیں بلکہ اتنے بھی نہیں۔ یہ اسی نافہی کے نتائج ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور سمجھتے ہیں ان میں بدترین قسم کے توہینات اور مشرکانہ عقائد سے لے کر الحاد، دہریت اور کفر کی حد کو پہنچے ہوئے خیالات تک پاتے جلتے ہیں اور ان کو اس بات کا احساس تک نہیں کہ جس اسلام کی پیروی کے وہ مدعی ہیں اس میں اور ان خیالات میں کلی تباہی ہے۔ ان سے بدتر حالت اخلاقی و عملی زندگی کی ہے بت پرستانہ رسوم و رواجات سے لے کر جدید مغربی تہذیب کے بدترین ثمرات تک ہر قسم کے اطوار اس فرم میں رائج ہیں جو اپنے آپ کو اسلام کا پیروکاری کرتے ہیں۔ اور الاما شاد اللہ کسی گروہ کو یہ احساس تک نہیں کہ وہ کہاں کہاں اس فنانوں کے اصول اور قواعد سے صریح انحراف کر گئی ہے جس پر ایمان رکھنے کا اس کو دعویٰ ہے۔ ہر غلط خیال اور غلط طریقہ جو کہیں سے آتا ہے ان میں روایج پا جاتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں اس کی بھی گنجائش ہے۔ ہرگراہ کو شخص جو کسی خونش آئند طریقہ پر چل رہا ہے، یا سانی ان کا رہنما بن جاتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اس کی پیروی بھی کر سکتے ہیں۔ ہر چیز جو غیر اسلام ہے وہ بے تکلف اسلام کے ساتھ ایک ہی دماغ اور ایک ہی زندگی میں جمع کر لی جاتی ہے، کیونکہ اسلام اور غیر اسلام کا انتیاز علم و فہم پر موقوف ہے، اور اسی کا یہاں فقدان ہے۔ جو شخص مشرق اور مغرب کا فرق جانتا ہو وہ کبھی اس حماقت میں مبتلا نہیں ہو سکتا کہ مشرق کی

طرف پل رہا ہوا اور یہ سمجھے کہ مغرب کی سمت جا رہا ہوں۔ یہ فعل صرف ایک جاہل ہی کا ہو سکتا ہے، اور یہی جہالت ہم ایک نہایت قلیل جماعت کے سوا امشرق سے نہ کہ مغرب تک مسلمانوں میں عام و یکجہر رہے ہیں، خواہ وہ ان پڑھ عوام ہوں، یادِ تاریخ نبڑ علامدیا خرقہ پوش مشائخ، یا کاچوں اور یونیورسٹیوں کے تعلیمی یافتہ حضرات۔ ان سبکے خیالات اور طورِ طریقے ایک دوسرے سے بدرجہ مختلف ہیں، مگر اسلام کی حقیقت اور اسکی روح سے ناداقفہ ہونے میں یہ سب میکار ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہایت ہی حکیمانہ ارشاد ہے کہ:-

جِنْفَانٌ إِذَا أَصْلَحَ أَصْلَحَتُ الْأُمَّةَ  
وَإِذَا أَفْسَدَ أَفْسَدَتِ الْأُمَّةَ  
وَمَنْصُونٌ إِذَا صَلَحَ أَصْلَحَ  
وَمَنْ فَسَدَ أَفْسَدَ  
وَمَنْ حَمَدَ أَصْلَحَ  
وَمَنْ فَسَدَ أَفْسَدَ  
وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ  
وَالْعَلَمَاءُ

مسلمانوں کی تاریخ کا ہر باب اس ارشادِ نبوی کی صداقت پر گواہ ہے اور سب سے زیادہ آج ہم اس کی صداقت کو نیایاں دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہمارے حکماء اور علماء میں تقویٰ اور دین کا صحیح علم ہوتا تو فربت یہاں تک نہ پہنچتی، اور آج بھی اگر مسلمانوں کو اپنے رہنمایی سر آجائیں تو حالات کے اس درجہ پر جانے پر بھی اصلاح سے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔

وَتَرَجَانَ الْقَرْآنَ، شَوَّالَ شَهْرَهُ - جِنُورِيٰ سَلَمَهُ

## اسلام میں عبادت کا تصور

انسان کے نہ سبی تصورات میں عبادت کا تصور سب سے پہلا اور اہم تصور ہے بلکہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ مذہب کا بنیادی تصور عبادت ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک نوع انسانی کے جتنے مذاہب کا پتہ چلا ہے، عام اس سے کروہ انتہا درجہ کی وحشی اقوام کے خلافات و اور ہام ہوں۔ یا اعلیٰ درجہ کی مندان اقوام کے پاکیزہ معتقدات، ان میں ایک بھی عبادت کے تصور تنخیل سے خالی نہیں۔ علم الامان اور آثار قدیمی کی تلاش و جستجو کے سلسلہ میں پرانی سے پرانی تہذیب کی حامل قوموں کے جو حالات معلوم ہوتے ہیں وہ اس امر کی شہادت دیتے ہیں کہ کروہ قومیں عقل و شعور کے بالکل ابتدائی درجہ میں تھیں لیکن اس حالت میں بھی انہوں نے اپنی بساط بھر کسی نہ کسی کو ضرور مسحود بنایا ہے اور کوئی نہ کوئی طریق عبادت ضرور اختیار کیا ہے۔ قدیم قوموں کو جانتے تو بھی لکھ بھی بہت سی انسانی جماعتیں زمین کے مختلف گوشوں میں موجود ہیں جو عقلي و فدہ می اعتمدار سے قدیم ترین قوموں کی سطح پر ہیں، یا یوں کہتے کہ نوع انسانی کے بالکل ابتدائی

لئے عکس علم الامان کی تازہ ترین تحقیقات کے تو عجیب حقیقتیں نکلت ہوتی ہے کہ اولین انسان تہذیب کی حامل قوموں میں خالص توحید کا عقیدہ پایا جاتا ہے اور وہ ترک کے اثرات بھی بالکل پاک ہیں (ملا خلہ ہو کتاب علم الاقوام، مصنفہ داکٹر پرین ہرالف ایہر فلمن، شائع کروہ انہیں ترقی اردو وہی)، یہ قرآن کریم کے اس بیان کی پوری پوری تصدیق ہے کہ انسان کا اولین مذہب توحید ہے اور ترک بعد کی پیداوار ہے۔ اس تحقیقات نے انیسویں صدی کے فلسفہ مذہب کا نظریہ المٹ دیا۔

دُور کا نقشہ اپنی زندگی میں پیش کر رہی ہیں۔ ان میں مشکل ہی سے کوئی ایسی جماعت دیکھی گئی ہے جو معبود اور عبادت کے تصور سے کلیتہ خالی ہو۔ پس یہ ایک ناقابلِ انکار حقیقت ہے کہ انسان قدیم ترین وحشت و بداؤت سے لے کر جدید ترین تہذیبِ حضارت تک جتنے مدارج سے گزر رہے ان میں سے ہر درجہ میں عبادت کا تصور اس کے ساتھ ساتھ رہا ہے، گو اس کے منظاہر و اشکال میں یہ شمارِ تغیرات و اختلافات رہنا ہوتے ہیں۔

عبادت ایک فطری جذبہ غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ خیال سارے بینی آدم پر عادی ہے اور تمام زمانوں میں با وجود اخلاف احوال یکساں حادی رہا ہے؟ کیا یہ بالارادہ اختیار کیا گیا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو ساری نوع پر اس کا اس طرح حادی ہونا غیر ممکن تھا۔ کیونکہ بالارادہ اختیار کی ہوئی چیزوں میں کبھی کامل اتفاق نہیں ہو سکتا۔ انسان کی اختیار کی ہوئی چیزوں میں سے ایک بھی ایسی نہ ملے گی جس کے اندر ہر مرتبہ اور ہر دو کی تمام انسانی جماعتوں یکساں مشترک ہوں اور یہ کسی طرح منصور نہیں ہے کہ ہر زمانہ کے تمام آدمیوں نے ایک عالمگیر کافرش کر کے باہم یہ ٹھہرایا ہو کر وہ کسی کی عبادت ضرور کریں گے خواہ معبود مختلف اور طریقہ ایسے عبادت بیٹھا جائے ہوں۔ پھر جب یہ چیز اختیاری نہیں ہو سکتی تو لا محالة ماننا پڑے گا کہ عبادت کا جذبہ ان کے اندر ایک فطری جذبہ ہے۔ جس طرح انسان کو بھوک فطری طور پر ملکتی ہے اور اس کے لئے ان معلومات کے لیے کتاب نہ کو۔ کاملاً العبر بہت مفید ہو گا۔

لکھ مرتضیٰ کوہ سکتا ہے کہ ایسے افراد بہت پائے جاتے ہیں اور ایسی جماعتوں بھی موجود ہیں اور تقریباً ہر زمانہ میں موجود ہی ہیں جن کا کوئی مذهب نہیں اور جو علماً و اعتقداد اکسی کی عبادت نہیں کرتیں اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح مختلفوں کی ایک کثیر قدر اکام موجود ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ جذبہ شہوت ایک فطری جذبہ نہیں ہے اور جس طرح مجرموں اور رہبروں کے ایک ٹرے گروہ کا وجود اس تاکی دلیل نہیں کر ازدواج کی خواہیں ایک فطری خواہیں نہیں ہے، اس کا طرح ایسے افراد یا جماعتوں کا موجود ہونا بھی جن کے اندر مخصوص اسبابِ نعمت عبادت کا فطری جذبہ مردہ یا بے حس ہو چکا ہے اس دعویٰ کی دلیل نہیں بن سکتا کہ انسان میں عبادت کا جذبہ ایک فطری جذبہ نہیں ہے۔

فروکرنے کے لیے دہ غذا تلاش کرتا ہے، جس طرح اسے سردی اور گرمی فطری طور پر محسوس ہوتی ہے اور اس سے بچنے کے لیے وہ سایہ اور لباس ڈھونڈتا ہے جس طرح اداستے مانی الضمیر کی خواہش اس میں فطری طور پر پیدا ہوتی ہے اور اسے پوڑا کرنے کے لیے وہ الفاظ و اشارات بھی پہنچاتا ہے بالکل اسی طرح عبادت کا جذبہ بھی انسان میں فطرہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی تسلیں کے لیے وہ کسی مصود کو تلاش کرتا اور اس کی بندگی کرتا ہے۔

مگر جیسا کہ ہم بھوک اور سردی اور گرمی کے احساس، اور اداستے مانی الضمیر کی خواہش کے معاملہ میں دیکھتے ہیں، فطرت کا اثر زیادہ تر اس مجردواعیہ کی حد تک رہتا ہے جو ان کو غذا، سایہ، لباس اور وسیلہ اخہمار مانی الضمیر کی تلاش پر مجبور کرتا اور جسم کے ان اعتبار کو جوان کاموں سے متعلق ہیں حرکت دینے پر آجاتا ہے۔ اور اسی حد تک تمام انسانوں میں اشتراک بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے آگے فطرت کا اثر کمزور اور خود انسان کا اپنا اختیار غالب ہو جاتا ہے اور یہیں سے وہ بے شمار اختلافات شروع ہوتے ہیں، جو غذا، مکان، لباس، زبان اور اشارات و علامات کی مختلف صورتوں اور سُقتوں کے اعتبار سے ہر زمانہ کی مختلف قوموں میں پائے گئے ہیں۔ قریب تریب یہی حال عبادت کے جذبہ کا بھی ہے کہ وہ انسان کو بندگی درپتش پر اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کے بعد یہ انسان کے اپنے انتخاب پر ہے کہ اس جذبہ کی تسلیں کے لیے وہ کس کو مصود مانتا ہے اور اس کی عبادت کا کیا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اسی اختیار کی حد پر پہنچ کر مصودوں اور عبادت کے طریقوں میں وہ اختلافات شروع ہوتا ہے جو انسان کی اختیار کی ہوتی تمام چیزوں میں نظر آتا ہے۔ اگرچہ اس معاملہ میں بھی فطرت کی رہنمائی انسان کا ساتھ بالکل نہیں چھوڑ دیتی، جس طرح غذا اور لباس وغیرہ فطری مطلوبات کے انتخاب میں نہیں چھوڑتی ہے، لیکن یہ رہنمائی اتنی دھنڈی اور خفی ہوتی ہے کہ اس کا اداک کرنے کے لیے نہایت لطیف و نازک شعور کی ضرورت ہے جو بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا۔ آئیے اب ہم سرانجام کہ اس فطری راعیہ کا سرثستہ کہاں سے ملتا ہے؟

اس کی شش کام کرنے کا ہاں ہے جو انسان کو عبادت کے لیے کھینچتی ہے؟ کوئی قوتیں ہیں جو اسے میسر کی تلاش اور اس کی عبادت پر آجاتی ہیں؟ اور وہ کیا رہتا ہے جو اس تلاش میں ہم کو خود فطرت سے حاصل ہوتی ہے؟ اس کے لیے ہم کو سبے پہلے خود عبادت کی حقیقت پر ٹوکرنا چاہیے کہ اس کے بغیر ان سوالات کا حل مشکل ہے۔

عبادت کی حقیقت ایسا عبادت کا تصور دراصل ایک جامع تصور ہے جو دو ذہنی تصورات کے امتراج سے مخلص ہوتا ہے، ایک بندگی، دوسرا پرستش، بندگی کے معنی ہیں کسی بالآخرت کی ڈرامی تسلیم کر کے اس کی فرمابندی و احاطت کرتا۔ اور پرستش کے معنی ہیں کسی بالآخرت کو پاک، مقدس اور بزرگ سمجھ کر اس کے آگے میر نیاز جبرا دینا اور اسے پوچھنا۔ ان میں سے پہلا تصور عبادت کا ابتدائی اور بنیادی تصور ہے اور دوسرا تصور انتہائی اور تکمیل پر پہلا ذہن کی حیثیت رکھتا ہے اور دوسرا عمارت کی۔ اس لیے ہمیں اپنی تحقیق کی ابتداء پر تصور سے کرنی چاہیے۔

بندگی بندگی یا فرمابندی و احاطت ہمیشہ اس قوت کے مقابلہ میں کی جاتی ہے جو بندگی کرنے والے پر قهر و غلبہ اور قدرت و استیلام و رکعتی ہو، اور بندگے یا میٹھے میں اس کے حکم انس سے مستمانی کا مارا نہ ہو۔ اس کی محدود شکل قروہ ہے جو آتا اور نوکر کے درمیان ہم عموماً کوچھ بیسیں، لیکن اس سے زیادہ وسیع تصور کے لیے سب سے زیادہ واضح مثال وہ بندگی ہے جو رعایا اپنی حکومت کی کرتی ہے۔ حکومت کوئی مادی نشے نہیں ہے، نہ ایک محسوسی مشاہد چیز ہے۔ ایک نظام و ضابطہ کی بندش ہے جس کا غلبہ و استیلام لا کھوں کر فریاد آدمیوں پر حاصل ہوتا ہے۔ رعایا اس کے قانون پر طوعاً و کرئा چلتی ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں، کسان اپنے کھیتوں میں اور مسافر دودھ دار خیگھوں میں، جہاں بظاہر حکومت کا نور جلنے والی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، اس کے قوانین کی احاطت کرتے ہیں۔ اس کے حدود و اختیارات میں وہ کوئی شخص اس کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو منراپا ہے اور زیادہ شدید نافرمانی کی صورت میں اس کے تمام وہ حقوق ملک ہو جاتے ہیں جو حکومت ہونے کی حیثیت سے اس کو حاصل چھینے ہیں۔ لیکن یہ لمحہ ہے جس قدر لوگ کسی حکومت کے

حدود میں رہتے ہیں اور اس کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں ان کے متعلق ہم کہا کرتے ہیں کہ وہ فلاں حکومت کی فرمانبرداری و اطاعت کر رہے ہیں۔ لگر ہم ان الفاظ کی جگہ نہیں اصطلاح استعمال کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کی بندگی و عبادت کر رہے ہیں۔

اب اس تصور کو اور زیادہ وسیع کریں۔ پوری کائنات پر نظر ڈالیے۔ آپ دیکھیں گے کہ سارا عالم اور اس کا ایک ایک فرد ایک زبردست نظام میں جلا ہوا ہے، اور ایک قانون ہے جس پر غاک کے ایک فرد سے کہ آفتابِ عالم تا بے تک ساری کائنات طوغاو کرنا عمل کردہ ہے۔ کسی شہ کی یہ مجال نہیں کہ اس قانون کے خلاف چل سکے۔ جو چیز اس سے فردا برابر ستانی کرتی ہے، وہ فساد اور فنا کی شکار ہو جاتی ہے۔ یہ زبردست قانون جو انسان، حیوان، دخت، پھر، ہوا، پانی، اجسام ارضی اور اجرام فلکی سب پر مکیاں حادی ہے، ہماری زبان میں قانون فطرت یا قانونِ قدرت کہلاتا ہے۔ اس کے ماتحت جو کام جس چیز کے پڑو کر دیا گیا ہے وہ اس کے کرنے میں لگی ہوتی ہے۔ ہوا میں اس کے اشارے پر چلتی میں بارش اس کے حکم سے ہوتی ہے۔ پان اس کے فرماں سے بہتا ہے۔ میاں سے اس کے ارشاد سے وکت کرتے ہیں۔ غرض اس تمام کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی قانون کے ماتحت ہو رہا ہے اور ہر فرد اسی کام میں لگا ہوا ہے جس پر اس قانون نے اسے لگا دیا ہے جس چیز کو ہم زندگی، بیعا اور کون سمجھتے ہیں وہ دلائل تجویز ہے اس قانون کی اطاعت کا اور جس کو ہم موت، فنا، اور فساد سمجھتے ہیں وہ درحقیقت تجویز ہے اس قانون کی خلاف وندی کا۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر شے جو زندہ اور باتی ہے وہ اس قانون کی اطاعت کر رہی ہے اور کائناتِ عالم میں کوئی شے زندہ اور باتی نہیں رہ سکتی اگر اس کی اطاعت نہ کرے۔

لیکن جس طرح حکومت کی مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ قانون کی اطاعت دراصل قانون کی اطاعت نہیں بلکہ اس حکومت کی اطاعت ہے جس نے اپنے قبود غلبے اس قانون کو نافذ کیتے، اور حکومت کا نظم و ضبط تمام کرنے کے لیے لا محالہ ایک حاکم، ایک مرکزی فرمانروا، ایک مختار اعلیٰ سیاست کا وجود ضروری ہے، باشكل اسی

مِنْ قَانُونِ فَطْرَتِكِيَّةِ اسْفَافٍ پَرِهِ حَلْوَ مِنْ تَقْدِيمِكِيَّةِ احْتِاجَاتِ  
ہے جو اس قانون کو بنانے اور زندگی و قوت سے اس کو چالنے والی ہے، اور یہ نکتہ  
ایک فرمائروں کے دست قدرت میں ہے جس کے بغیر اتنا بڑا عالمگیر نظام ایک لمبے  
کے لیے بھی نہیں چل سکتا یہاں اگر ہم قانونی لفظ "احاحت" کو نہ ہی اصطلاح "عبادت"  
سے بدل دیں اور لفظ "حاکم" کی جگہ "اللہ" یا "خدا" کا لفظ رکھ دیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ  
ساری کائنات اور اس کی ہر چیز اشکی عبادت کر رہی ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے  
جس پر پر شے کے وجود و لبقا کا انحصار ہے۔ کائنات کی کوئی شے اور مجبوی طور پر  
ساری کائنات اللہ کی عبادت سے ایک لمبے کے لیے بھی غافل نہیں ہو سکتی، اور اگر  
غافل ہو جاتے تو ایک لمبے کے لیے بھی باقی نہیں رہ سکتی۔

قرآن مجید میں اس بندگی کو کہیں عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے، کہیں تسبیح و تقدیس  
سے کہیں وجود سے، اور کہیں قنوت سے۔ چنانچہ جگہ جگہ اس مضمون کی آیات ہیں ہیں۔  
وَمَا خَلَقْتَ إِلَّا لِتُبَارِكَ  
مَنْ نَعَمَّنَّا لَهُ انسَنَ

ہے کہ میری عبادت کریں۔

آسمانوں اور زمین میں جس قدر مخلوقات ہیں  
اور جو خدا کے پاس حاضر ہیں سب اسی کے  
ہیں اور اس کی عبادت سے مرتبی نہیں  
کرتے اور نہ تعلیم ہیں۔ رات دن اس کے  
تسبیح میں لگتے ہرستے ہیں اور کبھی اس سے  
کامی نہیں کرتے۔

آسمانوں اور زمین میں جو جیزی ہے اللہ  
کی تسبیح کر رہی ہے، اس باوشاہ کی جو پہنچ  
غالب اور صاحبِ حکمت ہے۔  
کیا تو نہیں دیکھتا کہ جس قدر مخلوق آسمانوں

إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ راقیات: ۱۵۶  
وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يُتَكَبَّرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ  
وَلَا يَسْخَنُونَ۔ سُجُودُ اللَّيْلِ وَ  
النَّهَارَ لَا يَقْتُرُونَ۔ رانیار: ۱۳۴

يَسْجُدُ اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا  
فِي الْأَرْضِ الْمَدِينَةُ الْقَدُّوسُ الْعَزِيزُ  
الْحَكِيمُ د جعہ: ۱  
الْمُرْسَلَاتُ اللَّهُ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ

اور زمین میں ہے، اور جو زندگی پر بچپن سے  
اُردہ ہے میں سب اللہ ہی کی تسبیح کر رہے ہیں  
سب اپنی نازار اور زیست کا طریقہ جاتے ہیں  
..... اور زمین کو آسمان کی حکومت اللہ ہی  
کے باقاعدہ ہے اور سب کو اسی کی طرف  
بانکھے۔

ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھاں میں ہے  
سب اسی کی تسبیح کر رہے ہیں اور کوئی چیز  
نہیں جو اس کی حمد کے لیے نہ کاتی ہو مگر  
تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔  
آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسی  
کا ہے۔ سب اسی کے حکم کے آگے جعلے  
ہوتے ہیں۔

سُورَجُ اُوْرَ چاندُ ایک حسابے چکر لگا رہے  
الْجَنْ - قَاسِمٌ، كَيْمَجَدَ (۱۰۰)۔ راجحہ (۷۰۵)

"لیکن لوگوں نے خدا کی مخلوق میں سے کسی چیز کی طرف بھی نظر نہیں کی جن  
کے ساتے دامیں اور بامیں جھکتے ہیں، مگر یا اللہ کے آنکے سر پر سجدہ میں اور  
اظہار غنیمہ کر رہے ہیں؟ اور حقیقتے جاندار اور ملائکہ آسمانوں اور زمینوں میں  
ہیں سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور اس کے حکم سے سرتاسری نہیں کرتے  
اور اپنے رب سے جو بالآخر ہے فرماتے ہیں اور جوان کو حکم دیا جانتے ہے  
وہی کرتے ہیں؟" (راحل: مہمنا، ۴۵)

"لیکن تو نہیں دیکھتا کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے  
اور جاندار اور سوچ اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت

ذَالَّهُ وَآتٍ وَالْأَرْضَ وَالْعَالَمَ وَالْطَّيْرَ طَافٍ  
وَلَمْ يَرَهُ عَلَمَهُ - لَوْلَهُ وَلَكَ شُفَّاعَهُ ..  
... كَوَافِلَهُ مُدْلُكَ السَّمَوَاتِ وَ  
الْأَرْضِ قَالَ إِنَّهُ الْمَبِيرُ -  
وَالنُّورُ (۳۲، ۴۶)

تَسْبِحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبِيعُ وَ  
الْأَرْضُ، وَمَنْ فِيْهِنَّ وَإِنْ هُنْ شَيْءٌ بِرِ  
الْأَيْمَنِ سَبِّحَ رَبَّهُ وَلَكِنْ لَا تَفْقِهُونَ  
تَسْبِحُهُ - (دینی اسرائیل: ۳۴)  
وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
كُلُّ الدُّنْدَنَاتِ مُنْزُولٌ - (والرُّوم: ۷۶)

نیک آدمی اور بیت سے وہ بھی جو اپنی نافرمانی کی وجہ سے مستحقِ عذاب  
ہو چکے ہیں، سب کے سبب اللہ کے آگے سر بجود ہیں یہ (راجح: ۱۸)  
وہ زمین لوار آسمان میں جس قدر چیزیں ہیں سب طوغا و کرہ اللہ ہی کے  
مسجدہ کر رہی ہیں۔“ (المرصد: ۱۵)

یہ عبادت، یہ بجود، یہ تسبیح، یہ قنوت، تمام جاندار اور بے جان، ذمی شعور  
اور بے شعور چیزوں پر بھی ان حادیٰ ہے، اور انسان بھی اس پر اسی طرح مجبور ہے  
جس طرح مشی کا ایک ذرہ، پانی کا ایک قطرہ اور ٹھاس کا ایک تنکا۔ انسان خواہ  
خدا کا تعالیٰ ہو یا منتظر، خدا کو سجدہ کرتا ہو یا پتھر کو، خدا کی پوچاکرنا ہو یا غیر خدا کی،  
جب وہ قانون فطرت پر چل رہا ہے اور اس قانون کے تحت ہی زندہ ہے تو لامعاً  
وہ بغیر چانے بوجھے، بلا حمد و اختیار، طوغا و کرہ خدا ہی کی عبادت کر رہا ہے، اسی  
کے سامنے سر بجود ہے اور اسی کی تسبیح میں لگتا ہو رہا ہے۔ اس کا چلن پھرنا، سونا  
جاگنا، رکھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سب اسی کی عبادت ہے۔ چاہے وہ اپنے  
اختیار سے کسی اور کی پوچاکر رہا ہو اور اپنی زبان سے کسی اور کی بندگی و اطاعت  
کر رہا ہو مگر اس کا ردِ نکار و نکٹا اسی خدا کی عبادت میں مشغول ہے جو نے اسے  
پیدا کیا ہے۔ اس کا خون اسی کی عبادت میں چکر لگا رہا ہے، اس کا قلب اسی  
کی عبادت میں متحرک ہے، اس کے اعضاء اسی کی عبادت میں کام کر رہے ہیں اور  
اس کی وہ زبان بھی جس سے وہ خدا کو جھپٹانا اور غیروں کی حمد و ثناء کرنے ہے دراصل  
اسی کی عبادت میں چل رہی ہے۔

بندگی کا صلب: اس عبادت کا صلب یا اجر خدا کی طرف سے کیا جاتا ہے؟ فیضانِ جو  
رزق اور قوت تعداد، حقیقی چیزی خدا کے قانون پر حلپی ہیں اور اس کی بندگی کرتی  
ہیں، وہ زندہ اور باقی ہر ہتھی ہیں اور انہیں وہ وسیلہ بقا عطا کیا جاتا ہے جسے ہم  
اپنی زبان میں ”رزق“ کہتے ہیں۔ اور جو چیزیں اس کے قانون سے انحراف کرتی ہیں  
ان پر فساد مسلط ہو جاتا ہے، ان کا رزق بند ہو جاتا ہے، اور وہ فیضان وجود سے

محروم ہو جاتی ہیں۔ یہ معاملہ کائنات کی ہے اور اس میں شجر و جنر، حیوان و انسان، کافر دشمن کے درمیان کوئی امتیاز نہیں۔

کوئی چیز میں پرچلتے والی الیٰ نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ اللہ ہر ایک کے ملکانے سے بھی واقع ہے اور اس کے سوپے جانے کی وجہ بھی جانتا ہے۔

لوگوں اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خاتی ہے جو زین اور احسان سے تم کو رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی مسجد نہیں پھر تم کہہ جو بھی کائے چاہیے ہو؛ وہی ہے جس نے زمین کو تپارے یہی مطیع دشمن بنا دیا۔ پس تم اس کی پہنچیوں پر چبو اور پھر اس کا رزق کھاؤ۔

کون ہے جو مخلوقات کو اقبل بار پیدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعانت کرتا ہے؟ اور کون ہے جو تم کو احسان اور زینی سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور مسجد بھی ہے؟ اگر تم پتھر ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔

کیا یہ لوگ پرندوں کو نہیں دیکھتے جو ان کے اوپر پرچیلائے اور سکیرتے ہوئے اڑ رہے ہیں؟ رعن کے سوا کوئی نہیں جو ان کو منجھے ہو سئے ہو۔ وہ ہر چیز کی دلخواہ حال کرنے والا ہے۔ اور یہ رعن کے سوا اور کون ہے

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ  
إِلَّا عَلَىٰ إِذْنِهِ رِزْدَبٌ وَلَيَعْلَمُ صُنْفَهَا  
وَمُشَدَّدٌ وَلَعْنًا۔ (رسول: ۶)

يَا يَاهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ  
اللَّهِ عَلَيْكُمْ هُنَّ مِنْ شَاكِرِينَ عَيْرَ اللَّهِ  
يَوْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ  
إِلَّا هُوَ فَإِنْ تُؤْنَكُونَ - (فاطر: ۳)  
هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ  
ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَا كَبَّهَا وَكُلُّا مِنْ  
رِزْقِهِ - (الملک: ۱۵)

آمَنَ بِيَدِهِ الْحَمَّاقُ ثُمَّ لَعِنَهُ  
وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ  
عِزَّ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بِرُهْنَهَا نَكْرُ  
إِنْ كَنْتُمْ صَادِقِينَ -

رَأَشْلَلْ: ۷۴  
أَدْلَكْ حُرْبَرَقَا إِلَى الظَّبَرِ قَوْقَمْ  
صَفَقَتْ وَلَيَقِضُّ مَا يَعْسِكُهُنَّ  
إِلَّا الرَّحْمَنُ أَنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ  
آمَنَ هُنَّا الَّذِي هُوَ حَبْدَدُكُمْ  
بِنَصْوُكُمْ مِنْ قُدُّسِ الرَّحْمَنِ، إِنْ

اَنْفِسُهُ وَالْأَلْفَىٰ عَوْرَطَ أَمْتَ  
هَذَا الَّذِي يَرْزُقُ مَنْ هَرَادُ اَمْتَدَ  
رِزْقَهُ بَلْ لَجُواْقُ عَنْوَ وَنَفُورُ  
رَالْمَكَ (۱۹۷۱)

جو تمہارا شکر نبکر تمہاری، حد کرنا پاہے، مگر  
کافر ہیں کہ دھوکے میں پڑے ہوتے ہیں اور  
اگر الشفا پناہ زق بند کر دے تو کون ہے جو  
نم کو زق دے سکتا ہے؟ ہمگی کافر کشی  
اور سرتباہی پر فتحے ہوتے ہیں۔

اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جس طرح انسان اس بندگی میں دوسری  
شیاد کے ساتھ مساوی ہے، اسی طرح اس بندگی کے اجراءوں ماضی میں بھی وہ ان کے  
ساتھ مساوی رکھا گی ہے۔ انعام کی صورتیں کافر قوچھ بھی ہیں، دراصل استعداد  
اور حاجتوں کے فرق پر مبنی ہے بلکہ صورتیں سے قطع نظر کر کے اگر حقیقت کو دیکھا جائے  
تو معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ایک درخت، ایک جانور، ایک چڑیا، ایک گھاس کی  
پتی کی احتیاج و استعداد کے مطابق اللہ اس کی دیکھ بھال، خبرگیری، امداد و اعانت  
اور رزق رسانی کر رہا ہے، اسی طرح انسان کی احتیاج و استعداد کے مطابق اس پر  
بھی اذعام فرماتا ہے۔ اس بارے میں انسان کو دوسری مخلوقات کے مقابلہ میں اگر  
کوئی فضیلت ہے تو محض وہ صورت انعام کے اعتبار سے ہے نہ کہ حقیقت انعام  
کے اعتبار سے اور صورت انعام کا حال یہ ہے کہ وہ ہر شے کی طبیعت اور حاجت  
کے عین مناسب ہے۔ ایک چوہے پر جو انعام فرمایا گیا ہے، انعام کی وہی صورت  
اس کی فطرت اور فضروت سے منسوبت رکھتی ہے۔ دوسری کوئی صورت جس کے  
بھم بہتر سمجھتے ہیں، اس کے لیے انعام نہیں منرا ہو جاتے کی۔ ایک بڑے سے بڑا  
منعم انسان جو آرام اپنی چپولوں کی یعنی پرسوس کرتا ہے، وہی آرام ایک چھوٹی سے  
چھوٹی چڑیا اپنے گھس چپوں کے گھوٹے میں محسوس کرتی ہے۔ چپولوں کی یعنی نکون  
کے گھوٹے پر لاکھ فخر کرے گر حقیقت میں گھوٹے والے کی استعداد کے مطابق اس  
کی احتیاج پوری کی گئی ہے۔ اس حقیقت سے دونوں پر خدا کا انعام میاں ہے  
پھر ہی معاملہ کافر دشکر، مومن دشکر کے ساتھ بھی یکساں ہے جو لوگ خدا کے

منکر میں اور اس کی پرستش نہیں کرتے، جو اس کے ساتھ اس کی مخلوق کو شرکیہ کرتے ہیں جو شجر و ججر کو اس کا تمثیل مقابل ٹھہر لتے ہیں، ان پر بھی رزق اور فیضان و خود اور حفاظت و خبرگیری کا انعام اسی طرح ہوتا ہے جس طرح پکے موحدوں اور خدا پرستوں پر ہوتا ہے۔ بلکہ اگر قانون فطرت کی پیر دی یا بالفاظ دیگر ”فطري عبادت“ میں ایک کافر ایک مومن سے بڑھا ہوا ہے تو اس کی عبادت کا صلہ بھی کافر کو مومن سے بہتر صورت میں عطا ہونا ہے خواہ وہ حقیقت کی نگاہ میں متارع غرور ہی کیوں نہ ہو۔ جذبہ عبادت کیوں پیدا ہوتا ہے اب یہ سوال بآسانی حل ہو چاتا ہے کہ انسان میں عبادت کا جذبہ فطري طور پر کیوں پیدا ہوتا ہے اور وہ کیوں اپنے معبود کو تلاش کرتا ہے۔ جب ساری کائنات اور اس کی ہر چیز ایک غالب و قاہر فرمازوں کی بندگی کر رہی ہے، اور جبکہ خود انسان کا اپنا بھی ایک ایک روشنگاہ اس کی عبادت میں لگا ہوا ہے، وہ تمام عناصر جن سے انسان کا جسم مرکب ہے اس کے آگے سر بخود میں، جسم انسانی میں ان عنصر کی ترکیب اسی کے فرمان سے ہوئی ہے اور انسان کا دجود ہر آن اس کی بندگی ہی پر منحصر ہے، تو آپ سے آپ بندگی و عبودیت انسان کی سرشنست میں داخل ہو گئی ہے۔ گو وہ اس صاحب حکومت کو نہیں دیکھتا جبکہ وہ بندہ ہے، نہ دنیوی حکومتوں کی طرح اس خدائی حکومت کے عامل اور نمائندے اس کے سامنے آتے ہیں، مگرچون کدو وہ بندہ ہی پیدا ہوا ہے، اور بلا ارادہ ہر وقت بندگی کر رہا ہے اور اس کے مالک کی حکومت نے ہر طرف سے — اندر سے بھی اور باہر سے بھی — اس کو اور اس کے گرد پیش کی تمام چیزوں کو جکڑ رکھا ہے، اسی لیے فطري طور پر اس کے اندر نیاز مندی، نیائش و گرائش، پرستش و عبودیت کا ایک گمراہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کا دل بے اختیار کسی معبود کو تلاش کرتا ہے کہ اس کی حمد و ثناء کرے۔ اس کی بڑائیاں کرے، اس کے آگے اپنی بندگی و عقیدت کی نذر پیش کرے، اس سے اپنی حاجتوں میں مدد مانگے، اور ہر آفت سے اس کے دم میں پناہ ڈھینڈے۔ یہی سرشنست ہے جس نے ابتداء سے آفرینش سے انسان کو تلاشی

مجبور پر مجبور کیا ہے۔ اسی تحریک پر اس نے ہمیشہ پرستش کی کرنی نہ کرنی شکل اختیار کی ہے اور یہی وہ عنصر ہے جس سے نوہبیت کی پیدائش ہوتی ہے۔

تلائیں مجبور میں فطرت کی رہنمائی ایک جیسا کہ ہم تجھے پہلے بیان کیا ہے، فطرت نے ہر معاملہ میں انسان کے اندر ایک مجرد طلب، ایک سادہ خواہش، ایک عالمگیر پیش کر دیا کہ اس کو چھوڑ دیا ہے کہ اپنے مطلب کو خود تلاش کرے گویا یوں سمجھجئے کہ فطرت انسان سے آنکھ پھولی کھیلتی ہے۔ ایک نامعلوم چیز کی طلب پر اس کو اکساتی ہے اور پردازے کے پیچے چھپ جاتی ہے تاکہ وہ اپنی عقل پر نظر دے کر اپنے حواس سے کام لے کر معلوم کرے کہ اس کے دل میں جس چیز کی لمحن گئی ہوئی ہے، اس کی فطرت جو چیز بانگ رہی ہے، وہ کیا ہے اور کہاں ہے۔ اور کس طرح اس کو جمل کیا جاتے یہی وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان کو مشکلات پیش آتی ہیں اور اس نے اپنی عقلی استعداد، اپنی قوت، فکر و تمیز کی رسائی اور اپنے ذوق و وجدان کی صفت کے مطابق اپنے بیے وہ مختلف راستے نکالے ہیں جو آج نوع انسانی کے تدن و معاشرت کی گوناگونی میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس تلاش و تجویز اور اختیار و انتخاب میں فطرت نے کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے۔ مگر یہی طرح وہ ہر بر قدم پر جیوانات کی رہنمائی کرتی ہے، اس طرح انسان کی رہنمائی نہیں کرتی۔ انسان کو وہ نہایت لطیف اشاروں میں ہدایت دیتی ہے، نہایت خفیت و روشنی و رکھاتی ہے جس کا اولاً محولی عقل و بصیرت والے لوگ نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے اکثر ایسا ہوا ہے کہ انسان کا اختیار تمیزی صبح راستہ کی تلاش میں ناکام ہوا اور ہرگز نفس اس کو غلط راستوں پر بھیکاہے گئی۔

مثال کے طور پر غذا کی خواہش پیدا کرنے سے فطرت کا نشا توڑہ تھا کہ انسان ایسا مواد اپنے جسم کو مہیا کرے جس سے وہ زندہ رہ سکے اور تجھیں شُدہ اجزاء کا بدل اس کر سکتا رہے۔ مگر بہت سے لوگ اس خود کی برائیت زیستی کی خفیثت کو نہ سمجھتے تلاش غذا برائی کرنے کے لیے جو زائر کی چائی فطرت نے اس کے کام و دہن میں لگادی تھی

اُس کو وہ اصل مقصد سمجھ بیٹھے اور ہر ہوتے نفس ان کو نہ سین بڑاتے خود دن کی غلط فہمی میں متلاکر کے فطرت کے اصل غشا سے دُوست ہٹلے گئی۔ اسی طرح بیاس اور مکان کی طلب و اصل موسمی اثرات سے جسم کو محظوظ رکھنے کے لیے پیدا کی گئی تھی۔ مگر ہوتے نفس نے اس کو بھرک اور تنفاص خرا و ملہار شان و ترقع کا ذرعہ بنالیا، اور انسان فطرت کے مشادر سے تجاوز کر کے انواع و اقسام کے نفیس بیاس اور عالیشان محل بننے لگا جو آخر کار خود اسی کے لیے مفترت رسائی تابت ہوتے یہی سال ان تمام داعیات فطرت کا ہوا ہے جنہوں نے انسان میں مختلف چیزوں کی طلب پیدا کی، اور انسان نے فطرت کے مشادر کو نہ سمجھ کر، یا بسا اوقات سمجھنے کے باوجود نظر انداز کر کے، اپنے اختیار سے اس طلب کو پورا کرنے کے لیے وہ مختلف ڈھنگ اور طریقے نکال لیے جو فطرت کے اصل مقصد سے زائد اور بہت سے معاملات میں اس کے خلاف تھے۔ پھر یہ چیزیں الگوں سے چھلوں تک تندن و تہذیب، رسم و رواج اور آداب اطوار بین کر پہنچیں جن کی گرفت نے بعد کی انسانی نسلوں کو ایسا حکیم کر فطرت کی رہنمائی کو سمجھنا تو درکار، ان کے لیے اپنے اختیار تمیزی کو استعمال کرنے کی آزادی بھی باقی نہ رہی، اور اسلام کے طرقوں نے مقدس قوانین بن کر ان کو اندھی تقدیر کے راستے پر ڈال دیا۔ حالانکہ فطرت جس طرح پہنچے انسان کو لطیف اشارے اور خوبی ہدایتی دے رہی تھی، اسی طرح آج بھی دے رہی ہے اور ہمیشہ دیتی رہے گی، جنہیں عقلِ سلیم تصور سے یا بہت اجتہاد سے ہر وقت سمجھ سکتی ہے۔

معبوود کی طرف ہادی فطرت کے اشارے ا تلاشِ معبوود کی فطری خواہش کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا ہے۔ جب انسان نے عبادت کے جذبہ سے یہیں ہو کر اپنے لیے کسی معبوود کو ڈھونڈنا شروع کیا تو فطرت اپنے اسی لطیف انداز میں اس کو معبوودِ حقیقی کے آتے پتے دیتے گی کہ تیرامصود وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے جو تجھے باہتر ہے، جس کی قدرت کے سامنے تو عاجز ہے، جو ہر چیز پر غالب ہے جو تجھے اور ہر جاندار کو رفتہ رفتہ ہے جو اپنے حسن و جمال اور خوبی و علائقی کی

بنابرہ طرح تیری درج دستاویز کا مستحق ہے، جس کا فوراً افتاب و مہتاب اور ستاروں کو روشنی دیتا ہے، جس کا جمال اپنے جلوں سے آبھی جوں کی صورتوں کو بیرونی اور پیغمبار اور بیہدا فریب حسن بخش ہے، جس کا جلال پانی کی محیج، ہوا کے طوفان، زمین کی لرزش، پہاڑی سر بلندی، شیر کی درندگی اور رہائش کی گزندگی میں اپنی شوکت کا انہصار کرتا ہے، جس کی ربویت ماں کے یعنی میں محبت و شفقت بن کر، گاتے کے تھن میں دودھ بن کر، پھر کے کلچے میں پانی بن کر ظہور کرتی ہے یہ بیانیت اشارے بہرہ مانے میں مختلف سمجھو بوجھ کے لوگوں کو دیتے ہوتے، اور ہر ایک نے اپنی بساط کے مطابق اتوں پتوں سے اس پہلی کو بوجھنے کی کوشش کی۔ جب انسان اپنی اپنائی فطری حالت (State of Nature) میں تھا تو وہ ان اشاروں کو صاف سمجھتا تھا اور اس ایک ہی معبود کے آگے جھکتا تھا جس کی طرف یہ اشارے ہو رہے تھے۔ مگر جب وہ اس حالت سے آگے بڑھا اور استدلال نکل کی راہ پر چلتے رکھا تو اس کی سرگردانیوں کا آغاز ہو گی۔

انسان کی سرگردانیاں کسی نے ان صفات کے معبود کو زمین پر تلاش کیا اپنے پیارے دنیاوں، وختوں، اور لفظ و ضرر پنچانے والے جانوروں پر فریفہ ہو گی، منقی اعضا، بیویوں، آبیتھن کو پوچھنے لگا، آگ کے سامنے دھونی سا بیٹھا، ہوا کے آگے سر بسجود ہوا، وہر قی مانا کو عقیدت کا خروج دینے لگا۔ غرض اس کی نظر اس پاس ہی کے مناظر میں آبجھ کر رہ گئی۔

کسی کی نظر اس سے آگے بڑھی۔ وہ اپنی معبودوں سے مطلوب نہ ہوا۔ اس نے دیکھا کہ یہ سب چیزیں تو اسی کی طرح کسی اور کی بندگی میں بتلا ہیں، وہ اپنے وجود تھا کے لیے بھی غیر کی محتاج ہیں، ان کے پاس کیا رکھا ہے جس کے لیے ہم استعانت کا ہاتھ بڑھائیں اور عقیدت کی پشتائی جھکائیں۔ آخر اس نجہنہ میں کوچھوڑ کر آسمان پر اپنے معبود کو تلاش کیا۔ سورج کو دیکھا، چاند پر نظر فراہی، اجرام خلکیہ کی چوک دیکھی اور کہا کہ یہ ہیں جیسا کہ میں نہیں۔

گرجو اس سے زیادہ باریک بین تھا اس کو آسمان والوں کا حال بھی نہیں اول  
نے کچھ زیادہ مختلف لنظر نہ کیا۔ اس نے کہا یہ لاکھ میلہ تر و بڑھی، روشن اور  
سودن گر ہی۔ لیکن اپنے اختیار سے کیا کر سکتے ہیں؟ ایک مقرر قانون، ایک ملکے  
بندھے نظام کے تحت گردش کیے جا رہے ہیں۔ سودن کو بایس ہمہ عظمت و بزرگی  
آج تک یہ مجال نہ ہوتی کہ مشرق کے بھارت کے کسی بعد مغرب سے نکل آتا یا اپنے مقام سے ایک  
ہی اپنے سرک جاتا۔ چنانکہ اس قابل نہ ہوا کہ جو دن اس کے ہلال بننے کا تھا اس  
دن پر بن کر نکلتا۔ اسی طرح کوئی احمد سیارہ بھی اپنی مقرر گردش سے یک سرسر  
تجاویز نہ کر سکتا۔ اس بندگی بیجا گی، بھلی ہوتی غلامی کو دیکھو کہ اس جو یادتے معمود  
نے آسمان سے بھی مٹنہ موڑ لیا، تمام مادی و حیاتی چیزوں کو ناقابل پرستش فرار دیا،  
اور اپنے معیود کی تلاش میں معانی مجردہ (Abstract Ideas) اور روحانیات  
کی طرف پیشیدہ می کی، فور کا پروانہ بننا۔ دولت کی دیوی کا فلسفیہ ہوتا، محبت کے  
دیوتا پر ترجحا، خن کی دیوی کا گردیدہ ہوتا، قوت کے دیوتا کو سجدہ کیا، مدبرات  
عالم (World Rulers) کے ہیلک تجویز کیے اور ان کی عبادت اختیار کی اور جو  
اور عقول (Logos) اور ملائکہ کو موجود بنایا اور سمجھا کہ یہی عبادت کے لائق ہیں۔  
اس طرح کائنات کی ہر وہ چیز جس کے اندر مختلف قابلیتوں کے لوگوں کو  
اپنی اپنی فکر کی رسمائی اور نظر کی استعداد کے مطابق بزرگی، ربویت، نعمت بخشی، قدرت،  
خُشن و جمال، تہر و جمال، اور خالقیت کی جھلک نظر آئی، اس کے آگے جوک گئے اور  
حضرت کے دیستے ہوئے سوراخ پر جو شخص قبیلی دو رجاء کا، گیا، اور شہرگی، مگر جو لوگ  
زیادہ صبح درجن ان زیادہ طبیعت اور اک اور زیادہ سلیم عقل رکھتے تھے، اور فطرت کے  
بنائے ہوئے نشانات پر جھیک جھیک سفر کر رہے تھے وہ ان ارضی و سماءی مجموعہ  
اور روحانی و خیالی دیوتاؤں میں سے ایک نے بھی مطمئن شہر ہوتے، بیچ کی منازل میں گے  
ایک پر بھی نہ مخبر ہے اور بڑھتے بڑھتے اس منزل پر بیچ گئے جہاں انہیں کائنات کی  
تمام مادی، روحانی، فہمنی، علمی اور سفلی قوتوں کی اور کی گرفت میں جکڑی ہوتی، کسی

لندکے بندگی میں مشغول، کسی اور کے نگئے جملکی ہر فی، کسی اوسکی تیزی پڑھتی ہوئی نظر آگئی۔  
یہاں انہوں نے اپنے دل کے کافروں سے یہ آواز سنی۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونَ۔  
یہوے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم میری ہی  
عبادت کرو۔ (ابی حیان: ۲۵)

یہ اسی معبود کی آواز تھی جس کی تلاش میں دہچکے تھے۔ طالب کو قریب پا کر  
مظہوب خود پکارا تھا۔ اس نے آپ ہی آگے ڈرھو کر اپنا پتہ بتا دیا۔ یہاں پیغام کو سفر  
ختم ہو گیا، منزل مقصود مل گئی، اور ڈھونڈنے والے مسلم ہو گئے۔ پیغمبر کی حقیقت پہنچنے  
سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس آخری ہدایت کر پائے کے بعد پھر کوئی مزید تلاش و چحو کے  
لیے بے چین نہ ہوا۔ بے چینی، بے قراری، بے اطمینانی جو کچھ بھی تھی یقین کی منزلوں میں تھی  
آخری منزل پر پہنچ کر ہر دل نے گواہی دی کہ جس کو ڈھونڈ رہے تھے وہ ہی ہے۔ اب  
کسی تلاش و چحو کی حاجت نہیں۔ الْاَيَّذُ لِرِبِّ اللَّهِ تَعَظِّمُ عَذَابُهُ۔ (ارہد: ۲۸)

انسان اپنے معبود کی تلاش میں جب تک خدا نے واحد تک نہ پہنچا مبے چین رہا،  
غیر مسلم رہا، اس کے دل میں تلاش کی بے کلی اور چتوکی کھٹک برابر چکیاں ہیں رہی مگر  
جب خدا نے واحد کو اس نے پالی تو اس کا دل مسلم ہو گیا۔ پھر کسمی اس نے تلاش معبود کی۔

لہ آج مل مذہب پر لمحنے والے مصنفوں کا بوجہاں زیادہ تر تاریخی ارتقاء کے لکھری کی طرف ہے۔ وہ  
کہتے ہیں کہ انسان نے ابتدا شرک کی اونٹی شکلوں سے کی تھی۔ جوں جوں شور ڈھنڈتا گی معبودوں کا  
معیار اونچا ہوتا گی اور اس کی تعداد گھستی چل گئی، یہاں تک کہ ترقی کر کے انسان توحید  
تک پہنچا۔ لیکن تاریخ خود اس تاریخی نظر کا ابطال کرتی ہے۔ مسیح سے ڈھائی ہزار برس  
پہلے حضرت ابراہیم خالص توحید کے پرستار تھے اور مسیح سے دو ہزار برس بعد آج بھی ذرع انان  
میں کر ڈھنڈا اور می شرک کے پرستار موجود ہیں۔ کیا یہ تاریخی ارتقاء کا ثبوت ہے، حقیقت یہ  
کہ اونٹی ترین شرک سے لیکر مبند ترین توحید تک عبادت اور عقیدت کی تمام اقسام پہنچانے  
میں پانچ گئی ہیں اور آج تک پانچ چان ہیں۔ تقدیت و اصل مختلف انسانوں کے حقیقی واقعیت میں  
مدارج میں ہے، نہ کہ تاریخی ترتیب میں۔

بے چینی محسوس نہ کی۔

خدالتے واحدہ پر حقیقی معیود ہے] اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے کیا وجہ ہے کہ تلاشِ محبود کا یہ سفر خدا کے سوا کسی غیر ختم نہیں ہوا اور خدا کا پیغام کرائی ختم ہوا کہ پھر کسی اور کسی جستحول میں پیدا ہی نہ ہوئی؟ غور کرنے سے اس کی ایک ہی وجہ سمجھیں آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو جو فطری جذبہ پر پرستش پر مجبور کرتا ہے، اس کا اصل مقصد خدلتے واحدہ کی پرستش ہے۔ جب تک وہ اپنے اس محبود حقیقی کو نہیں پیغام جاتا، ملکن نہیں ہوتا اور نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ مغل زندگی نامناسبی، یا تدبیب اور سہٹ و حرمی، یا آباد و اجداد کی اندر حی تقدید بعض افراد کو یہ سے اطمینانی محسوس نہ ہونے والے۔

جیسا کہ ہم اور کچھ چکے ہیں، انسان کے اندر پرستش کا فطری جذبہ پیدا ہی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے گرد پیش کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی بندگی میں مشغول ہے۔ ایسی حالت میں جب ایک ظلم و جہول انسان خدا سے نوا اقتضہ ہو تو غیر خدا کی پرستش کے لیے جگتا ہے تو اس کے گرد پیش کا کوئی عنصر، حقیقی کہ خدا اس کے پیشے جسم کا بھی کوئی جزو اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ وہ جن پاؤں سے اپنے خود ساختہ مسجد کی طرف بڑھتا ہے وہ خدا کی عبادت میں چلتے ہیں۔ جن ہاتھوں سے اس کے آگے نہ ریش کرتا ہے وہ خدا کی بندگی میں حرکت کرتے ہیں جس پیشافی سے اس کو سجدہ کرتا ہے وہ خدا کے بعد میں بھی ہوتی ہوتی ہے۔ جس زبان سے اس کی بُراُی بیان کرتا ہے وہ خدا کی تقدیمی تجوید میں مشغول ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں اس کی یہ ساری پرستش، یہ تمام نیاش و گرانش ایک جھوٹ، ایک افتراء، ایک بہتان، ایک صریح جعل ہوتی ہے جس کے بظلان پر کائنات کا ہر ذرہ گواہی دیتا ہے، اور خود انسان کی نظرت اپنی لطیف و غیر محسوس آواز میں بار بار اسے منبیج کرتی ہے کہ یہ تو کس دھوکے میں ڈر گیا ہے؟ کیا تجھے بندے کی بندگی، پرستاکی پرستش، فرمانبردار کی فرمانبرداری کرتے شرم نہیں آتی اُپت تکم

پرستش اور بندگی کی کیجا تی اپرستش در اصل بندگی کی فرع ہے اور اپنی صین فطرت کے آفکنار نے اپنی اصل کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ جب انسان اپنے جہل اور بے خبری کی بنابر فرع کو اصل سے جدا کرتا ہے — بندگی ایک کی کرتا ہے اور پرستش دوسرے کی — تو یہ تفریق میرا سرفطرت کے خلاف واقع ہوتی ہے اور ایک نہایت خوب غیر محسوس تھت الشوری بے الہیانی پیدا ہو جاتی ہے۔ بخلاف اس کے جب نادانی کا پردہ دمیان سے اٹھ جاتا ہے — انسان کو اس حقیقت کا علم ہوتا ہے کہ موجود ہی ہے جو مالک اور خالق اور پروردگار ہے۔ — تو بندگی اور پرستش دونوں دلکشا ہو جاتی ہیں، فرع اصل سے مل جاتی ہے، بیٹھی اپنی ماں کی آغوش میں پنچ جاتی ہے اور اس وصال سے وہ لطفت وہ مرا، وہ الہیان قلب حاصل ہوتا ہے جو بھروسہ فراق کی حالت میں مفقود تھا۔

خلافت و نیابت الہی بندگی اور پرستش کی یہی مواصلت ہے جسی سے انسان کو دوسری مخلوقات پر شرف حاصل ہوتا ہے، احمد وہ اس مرتبہ پرہیز کرتا ہے جسے خدا نے اپنی خلافت و نیابت قرار دیا ہے پچھلی تقریر پر چراکی لنظر فرمائیے۔ عرض کر چکا ہوں کہ خدا کی بندگی تو انسان آپ سے آپ بلا حمد و اختیار، بغیر جانے بو بھے کر ہی رہا ہے، اور ٹھیک اسی طرح کر رہا ہے جس طرح لا یعقل حیوان میں شور و خستہ بیہے جان پھر کر رہے ہیں۔ اس حیثیت سے اس میں اندزو سری مخلوقات میں کوئی فرق نہیں۔ اور اس بندگ کا جو انعام ہے یعنی فیضان و حود اور عطا و رزق، اس میں بھی وہ فی الحقیقت دوسری مخلوقات سے ممتاز نہیں ہے۔ فرق و امتیاز اور بتیری و شرف جو کچھ ہے، اس امر میں ہے کہ دوسری موجو ذات کے رفاقت جو عقل و شور، جو آنادی ارادہ و اختیار، اور جو قوت علیہ انسان کو دی گئی ہے اس سے کام لے کر وہ اس کی پہچانے جس کا وہ بندہ ہے، اور بلا اختیار بھی اسی کی عبادت اور پرستش کرے جس کی وہ بلا اختیار بندگی کر رہا ہے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا اور اپنی عقل اور قوت علیہ سے اپنے مالک کی معرفت حاصل نہ کی، اور اپنے اختیار کے حدود

میں اس کو چھپو کر دوسروں کی عبادت اور پرستش شروع کر دی تو شرفت کیسا، وہ تو  
جانوروں سے بھی بدتر ہو گی۔ **لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُصْبِحُونَ  
بِهَا وَلَهُمْ أَذْانٌ لَا يَتَسْمَعُونَ** یعنی، اولیٰ اک کا لامعاً میں ہم افضل اولیٰ اک  
**وَهُمُ الْغَافِلُونَ** - راجعات: ۱۹)

بجا تے خود عقل اور قوت علمی میں کوئی شرفت اور برتری نہیں ہے۔ یہ تو محض  
حصوں شرفت کے یہیے ایک آرہ ہے اور اس آرہ نے انسان کو یہ استعداد پہنچا دی  
ہے کہ اس سے ٹھیک ٹھیک کام سے کردہ بندگی اضطراری کے حیوانی مقام سے  
ترقی کر کے عبادت اختیاری کے انسانی مقام پر پہنچ سکے۔ لیکن اگر انسان نے اس  
آرہ غلط کام لیا، اور اس کو چھپو کر جس کا وہ بندہ ہے ان کی عبادت، اختیار کی جن کا  
نی التحقیقت وہ بندہ نہیں ہے تو وہ حیوانی مقام سے بھی نیچے اتر گیا۔ حیوان مگر اہ تو  
نہ تھا، یہ مگر اہ ہوا۔ حیوان منکر تر نہ تھا، یہ منکر ہوا۔ حیوان کافر و مشرک، تر نہ تھا، یہ  
کافر و مشرک ہو گیا۔ حیوان جس مقام پر پیدا کیا گیا تھا اسی مقام پر وہ رہا۔ اور  
حیوان ہونے کی حیثیت سے یہ بھی اسی مقام پر ہے، مگر انہاں ہونے کی حیثیت سے  
جو ترقی اس کو کرنی چاہیے تھی وہ اس نے نہ کی، بلکہ اُن ترزل کی طرف چلا گی ترقی کے  
یہیے اس کو جو عقل کا آرہ دیا گیا تھا اس کو اس نے انسانی ترقی کے یہیے استعمال نہ کی  
بلکہ حیوانیت میں ترقی کرنے کے یہیے استعمال کیا۔ اس نے فرمدی ہیں بنائی کہ حیوان جتنی  
دُود کی چیز دیکھو سکتا ہے اس سے زیادہ دُود کی چیز دیکھو سکے۔ اس نے ریڈ یو  
ر بجاو کیا کہ حیوان جتنی دُود کی آواز سن سکتا ہے اس سے زیادہ دُود کی آواز پہنچ  
سکے، اس نے ریل اور موڑ بنایا کہ حیوان جس قدر قطع مسافت کر سکتا ہے اس سے  
زیادہ یہ کر سکے۔ اس نے ہوا تی جہاز بنایا کہ اُنے میں پرندوں سے بازی ہے جائے۔

یہ ان مسجدین میں انسان کی اپنی ہماری نفس بھی شامل ہے۔ جو شخص خدائی بندگی نہیں کرتا  
وہ اُن لوگوں اور صورتی معبودوں کی بندگی کرتا ہے، یا زرعی صفت انسانوں کی، یا پھر انی خواہشات کی۔

اس نے بھری جہاز بنانے کے تیرنے میں مچھیوں کو مات کر دے۔ اس نے آلاتِ حرب بند کر دیئے میں وزموں پر سبقت لے جاتے۔ اس نے عیش و عشرت کے سامان فراہم کیے کہ جانوروں سے زیادہ پر لطف زندگی بسکرے۔ مگر کیا ان ترقیات کے باوجود یہ مقامِ حیوانی سے کچھ بھی بلند ہوا؟ عقل و علم کے قدر یہ سے عالمِ مادی میں چلتے تصرفات پر کہہ ہاہے وہ سبکے سب اہم فرائیں فطرت کے ماتحت تو میں جن کے تحت عقل و علم کے بغیر حیوانات ایک محدود پیمانے پر ایسے ہی تصرفات کرتے ہیں۔ پس یہ تو ہی بندگی اضطراری کا مقام ہوا جس میں حیوان ہے۔ فرق صرت آنا ہے کہ حیوان نے کتر درجہ کی بندگی کی، مکتر درجہ کا نزق پایا۔ اس نے عقل و علم کی قوت سے اعلیٰ درجہ کی بندگی کی۔ اعلیٰ درجہ کے نزق کا مستحق ہوا۔ حیوان کو گھاس ملی تھی۔ اس کو توس اور سکھنی ملا۔ حیوان کو صونت اولتا تھا۔ اس کو تفہیں کپڑے ملے۔ حیوان کو گھونسے میں جگہ دی جاتی تھی۔ اس کو نیکھلوں اور کوٹھیوں میں ٹھیرا بایا گیا۔ حیوان کو پہلی دوڑنا پڑتا تھا اس کو موڑ دے دی گئی۔ یہ اس کی حیوانی بندگی اور اس کی اضطراری عبادت کا کافی انعام ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ ترقی کا جو آں اس کو دیا گیا تھا اس سے اس نے ترقی کیا کی؟ ترقی کے معنی تو یہ ہے کہ حیوان ہونے کی حیثیت سے جس کو یہ اختیار سجدہ کر رہا ہے، انسان ہونے کی حیثیت سے اختیاری سجدہ بھی اسی کو کرتا۔ حیوان ہونے کی حیثیت سے جس کے حکمِ تکونی (Natural Law) کی اعتماد کر رہا ہے، انسان ہونے کی حیثیت سے اسی کے حکمِ شرعی (Moral Law) کی اطاعت بھی کرتا۔ اگر یہ ترقی اس نے کی تو یہ شکر یہ حیوانات اور تمام موجودات پر شرف لے گیا، اس نے بالفعل وہ خلاقت حاصل کر لی جس کی قوت واستعداد اس کو دی گئی تھی، اس نے تمام موجودات سے ٹھرک کر اپنے خالق کی بندگی و عبادت کی، اس یہی تمام موجودات عالم سے زیادہ اجر کا مستحق ہو گیا۔ لیکن اگر یہ ترقی اس نے نہ کی اور آنہ تر قی کے غلط استعمال سے آٹا تنزل کی پتھیوں میں اُتر گی تو بلاشبہ شکر و ریب تمام اسافل سے اسفل اور تمام اراذل سے ارزل بن گیا۔

اس نے خود اپنی حاقدت سے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنایا۔ یہی حقیقت ہے جس کو سورہ تین میں بیان کیا گیا ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ  
تَقْوِيمٍ، ثُمَّرَدَذَنَاهُ أَسْبَلَ سَاقِلَيْنَ،  
إِلَّا الَّذِينَ أَهْنَوْا وَعَمِلُوا الْفَحْشَاتِ  
نَلَهُمْ رَأْجُورٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔

(السین: ۷)

ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اس کو تمام ادنیٰ درجہ والوں سے بھی ادنیٰ درجہ میں پھر دیا۔ بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کیے یہ نہایت اجر ہے۔

یہ اجمالی ان تفصیلات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو اور پر بیان ہوتی ہیں۔ بہترین ساخت سے مراد ترقی کی درجہ قوت واستعداد ہے جو انسان کو زمین کی تمام مخلوقات سے بڑھ کر دی گئی ہے۔ مگر محسن بہترین ساخت پر ہونا بالفعل ترقی نہیں ہے۔ ترقی کا اختصار اس پر ہے کہ انسان اس قوت واستعداد سے کام لیکر اپنے خالق کی معرفت حاصل کرے جس کے انتہائی مرتبے کا نام "ایمان" ہے اور اس کے حکم شرعی کے تحت وسیا میں کام کرے جس کو "عمل صالح" سے تعبیر کی گیا ہے جس نے یہ نہ کیا وہ ادنیٰ درجہ کی مخلوقات سے بھی فرو تر درجہ میں گر گیا۔ اور جس نے یہ ترقی کر لی وہ "اجر غیر ممنون" کا مستحق ہو گیا۔ یعنی ایسا اجر جو کبھی بند ہونے والا نہیں ہے، جو دنیا کی اس زندگی سے لیکر آخرت کی زندگی تک بلا نہایت چلتا ہے۔ بندگی اضطراری کے صدر میں جو اجر ملے ہے وہ تو منقطع ہو جاتا ہے بس ایک اجل مقرر تک ہی زندگی عطا کی جاتی ہے اور ایک حد

لے یہ بحث نہایت غور و تأمل کی مستحق ہے اس مسئلے میں بعض لوگوں نے سخت ٹھوکر کھائی ہے وہ خدا کے قانون طبیعی یا حکم نکونی کی اطاعت ہی کو اصل عبادت سمجھتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ جو شخص یا گروہ اس عبادت کا حق ادا کر دے وہی عابد اور صالح اور ان تمام وعدوں کا مستحق ہے جو قرآن میں صالحین سے کیے گئے ہیں۔ حالانکہ انسان سے جو عبادت مطلوب ہے وہ محض حکم نکونی کی اطاعت ہی نہیں بلکہ حکم شرعی کی اطاعت بھی ہے۔

خاص تک ہی رزق دیا جاتا ہے۔ مگر عبادت اختیاری کے صلہ میں وہ عیش نصیب ہوتا ہے جو خلل سے پاک ہے، وہ رزق میسر آتا ہے جس کے بند ہونے کا کوئی خوف نہیں۔ عبادت کا پورا مفہوم اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں عبادت کا صحیح اور مکمل مفہوم واضح طور پر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اور جو کچھ کہا گیا ہے اس کے مطابق معلوم ہو چکا ہے کہ عبادت کے اجزاء میعنی دو ہیں جن کی ترکیب سے عبادت کا مفہوم مکمل ہوتا ہے، ایک زندگی یعنی قانون فطرت کی ٹھیک ٹھیک پیروی اور اس سے منحرف نہ ہونا۔ دوسرے پرمنش جو اپنی تکمیل کے لیے دو چیزوں کی محتاج ہے۔

(۱) اپنے حقیقی معیود یعنی خدا تے واحد کی ایسی موجودت جو بالکل خالص ہو، جس میں شرک کاشاث مبتہ تک نہ ہو، جس میں کفر و انکار اور تسلیک دریب کی ذرہ برابر آمیزش نہ ہو۔ جس میں خدا کے سوا کسی کا خوف نہ ہو، کسی کے انعام کی طمع نہ ہو، کسی پر اعتماد توکل نہ ہو۔ کسی کی طرف الہیت و ربوبیت کو منسوب نہ کیا جاتے، کسی کو نافع و ضار نہ سمجھا جاتے، کسی سے عبدیت کا تسلی و ایستہ نہ کیا جاتے۔ اسی کا نام ”ایمان“ ہے۔

(۲) اپنی زندگی کے اختیاری شعبہ میں اس مجدد کے حکم شرعی کی اسی طرح احتات کرنا جس طرح اضطراری شعبہ میں اس کے حکم تکوینی کی احوالت کی جاتی ہے ہناکہ ساری زندگی ایک ہی فرمازدا، ایک ہی حکومت اور ایک ہی قانون کی تابع فرمان ہو کر ہم وہیم آہنگ ہو جاتے اور اس میں کسی حدیثت سے بھی دوسری آہنگ اور نامہواری باقی نہ رہے۔ اسی کو ”عمل صالح“ کہتے ہیں۔

غلط کہتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ عبادت صرف تسبیح و مصلی اور خاتقاۃ تک محدود ہے۔ مومن صالح صرف اسی وقت اللہ کا عبادت گزارنی ہوتا جب وہ دن میں پانچ وقت نماز پڑھتا ہے، اور بارہ ہجینوں میں ایک ہجینہ کے روزے کے رکھتا ہے اور سال میں ایک وقت زکوٰۃ دیتا ہے اور عمر بھر میں ایک مرتبہ حج کرتا ہے، بلکہ درحقیقت اس کی ساری زندگی عبادت ہی عبادت ہے جب وہ کار و بار میں حرام کے فائدوں کو چھوڑ کر حلال روزی پر قناعت کرتا ہے تو کیا وہ عبادت نہیں کرتا جب

وہ معاملات میں ظلم اور جھوٹ اور دعا سے پرہیز کر کے انصاف اور راستبازی سے کام لیتا ہے تو کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ جب وہ خلق خدا کی خدمت اور خداروں کی حق رسانی کے لیے کم سبب ہوتا ہے تو کیا اس کی ہر حرکت یعنی عبادت نہیں ہوتی؟ جب وہ اپنے افعال و اقوال میں خدا کے قانون کی پیروی کرتا اور اس کی حدود کا الحاظ رکھتا ہے تو کیا اس کا ہر قول فعل عبادت میں شمار نہ ہو گا؟ پس حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیروی اور اس کی شریعت کے اتباع میں انسان دین اور دنیا کا جو کام بھی کرتا ہے وہ سراسر عبادت ہے، حتیٰ کہ بازاروں میں اس کی خرید و فروخت اور اپنے اہل و عیال میں اس کی معاشرت اور اپنے فالص دنیوی اشغال میں اس کا انہماں بھی عبادت ہے مگر یہ عبادت کا ادنیٰ مرتبہ ہے۔ اس عبادت کی مثال ایسی ہے جیسے عیت کے عالم افراد اپنے پادشاہ کے قانون کی پیروی اور اس کے فرمانیں کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس سے بڑا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماہک کا فوکر بن جلتے اور اس کے فرمانیں کی نہ صرف خود پیروی کرے بلکہ دوسروں پر بھی ان کو نافذ کرنے کی کوشش کرے، اس کے احکام پر نہ صرف خود عامل ہو بلکہ دنیا میں ان کے اجراء کے لیے بھی جدوجہد کرے، اس کی حکومت میں نہ صرف خود امن اور وفاداری اور اطاعت کیشی کے ساتھ رہے بلکہ اپنے دل و دماغ اور دست و بازو کی قوتیں امن کے قیام میں، بگڑی ہوئی رعایا کی اصلاح میں اور باغی و سرکش بندوں کی سرکوبی میں بھی صرف کرے اور اس خدمت میں اپنا تن من و حن سب کچھ شارکر دے۔

وَكَذَلِكَ جَعَدْنَا لَكُمْ لِحَمَّةً وَمَطَأً  
لِتَشْكُونُوا شَهَدَةً وَأَعْلَمَ النَّاسِ وَ  
يَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَقَرْءًا  
هُوَ أَوْرَدَ سَوْلَتَ قَمْ پُرگَاهَ ۔

لہیجنی اپنی زبانی، اخلاق سے، کردار سے، اپنی زندگی کے پورے روپیہ سے اور پھر اپنی قربانیوں سے، مختتوں سے، کوششوں سے اور جفا کشیوں سے اسلام کی صداقت پر گواہی دو۔ ایک طرف ساری دنیا کے مسائے نوں عملگے اسلام کا مظاہر بھی کرو اور سری طرف اسلام کی راہ میں یا فٹا فٹا کر کے یہ بھی ثابت کرو کہ تم اتفاقی اس دین پر ایمان لٹائے ہو، اور تمہارے نزدیک یہ ایسی صداقت ہے جس پر تن من و حن سب کچھ شارکی جا سکتے ہے۔

هُوَ شَكِّرُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلٍ  
وَفِي هَذَا يَكُونُ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ  
وَتَكُونُو أَشْهَدَ أَمْ عَلَى النَّاسِ فَاقْبِمُوا  
الصَّلَاةَ وَإِذَا الزَّكُورَةَ وَاعْتَصِمُوا  
بِاللَّهِ - (الْجَمَعُ: ۷۸)

اسی نے تھا انام پہلے بھی مسلم رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی ہمکہ ہم پر گواہ ہے اور تم لوگوں پر گواہ ہو پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے رستے پر مجھے رہو۔

الَّذِينَ أَنْتَ مَكْنُهُمْ فِي الْأَرْضِ  
أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَإِذَا الزَّكُورَةَ وَأَمْرُوا  
بِالْمُعْرُوفِ وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ - (الْجَمَعُ: ۷۹) حکم کریں گے اور بدھی سے روکیں گے۔

یہ ہے اس عبادت کی حقیقت جس کے متعلق لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ محض نمازو زدہ اور تسبیح و تہلیل کا نام ہے اور دنیا کے معاملات سے اس کو کچھ سروکار نہیں، حالانکہ دراصل صوم و صلوٰۃ اور حج و زکوٰۃ اور ذکر و تسبیح انسان کو اس طوری عبادت کے لیے مستعد کرنے والی تمریزات (Training Courses) ہیں جو انسان کی زندگی کو حیوانی زندگی کے ادنیٰ مقام سے اٹھا کر انسانی تنگی سکندر ترین مقام پرے جاتی ہیں اس کے اضطراب و اختیار و نوں میں اپنے مالک کا میطیع و فرمانبردار بندہ بتا دیتی ہیں، اور اسے بادشاہِ حقیقی کی سلطنت کا ایسا ملازم بناتی ہیں کہ اس کی خدمت وہ اپنے جسم و جان کی ساری قوتیوں کے ساتھ اپنی زندگی کے ہر لمحہ میں کرتا ہے۔ جب انسان عبادت سے اس فتنہ پر پہنچ جاتا ہے تو اس کو وہ ثرف حاصل ہوتا ہے جس میں کائنات کی کوئی مخلوق اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ ملائکہ تک اس کے مقام سے فروز ہوتے ہیں۔ وہ دنیا میں بالفعل خدا کا خلیفہ ہوتا ہے۔ اس کو خدا کے سوا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ذات نہیں دی جاتی۔ اس کی گرد میں خدا کی غلامی کے سوا کسی کی غلامی کا طوق نہیں ہوتا۔ اس کے پاؤں میں خدا کی زنجیر کے سوا کسی کی زنجیر نہیں ہوتی۔ اس کا سر خدا کے حکم کے سوا کسی کے حکم کے آگے نہیں جھکتا۔ وہ خدا کا غلام اور سب کا آتا ہوتا ہے۔ وہ خدا کا ملکوم اور سب کا حاکم ہوتا ہے۔ اس کو خدا کی طرف سے اس کی

زمیں پر حکومت کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ فرعون و مفرود کی طرح یا غی اور غاصب نہیں ہوتا بلکہ شاہی فرمان سے زمین پر خدا کا نامہ ہوتا ہے اور حق کے ساتھ فرمان روایت کرتا ہے۔

تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو لقیئاً زمین میں خلیفہ بنایا گا جس طرح ان سے پہلے کے لوگوں کو بنایا چکا ہے اور ضروران کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مضبوطی کے راتھ قائم کر لیا۔ اور بالیقین ان کی حالت خوت کو امن سے بدل دیکھا یہ وہ میری عیالت کریں اور میرا تھوڑی کسی کو شرکیب نہ کریں۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيُسْتَخْلِفَنَّهُمْ  
فِي الْأَرْضِ كَمَا أَسْتَخْلَفَ النَّاسَ  
مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَمَا كَيْدَنَّ لَهُمْ دِيْنُ  
الَّذِي أَرْتَصَنَ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ  
بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَ نَحْنَ وَلَا  
يُشْرِكُونَ بِنِي شَيْئًا۔ (النور: ۵۵)

یہ قوریٰ نیا کا انعام ہے۔ اور آخرت کا انعام کیا ہے؟ یہ کہ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اعلیٰ کی اور اللہ سے ڈرا اور اس کے غرض سے بچا تو ایسے ہی لوگ کا میاپ ہیں۔ وہ لوگ جن کو کوئی تجارت اور کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی، جو ورنہ ہیں اس دن سے جب وائل الٹ جائیں گے اور آنکھیں پھر جائیں گے۔ ان کو امید ہے کہ اللہ ان کے اعمال کا ہنر سے بہتر بدل دیکھا اور اپنے فضل سے اس پر فریض ہناز کر لے گا۔

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ  
يَخْشَى اللَّهَ وَيَتَقَبَّلُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الْفَارِزُونَ۔ (النور: ۵۲)

رِجَالٌ لَا تَنْهَاهُمْ تَبَعَّدُهُمْ وَلَا يَبْعَدُ  
عَنْهُمْ ذِكْرُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَارُ  
الذِكْرِ لِمَنْ يَخَافُونَ كَمَا سَقَلَبَ فِيهِ  
الْفَحْوُبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمْ إِذَا  
آخِرَةَ مَا عَمِلُوا وَيُزِيدَ هُمُّهُمْ  
ذَلِكُلِّهُ۔ (النور: ۳۸)

عبدت کا غلط مفہوم افسوس کے عبادت کے اس صحیح اور حقیقی مفہوم کو مسلمان بھول گئے۔ انہوں نے چند مخصوص اعمال کا نام عبادت رکھ دیا اور سمجھے کہ بس انہی اعمال کو انجام دینا عبادت ہے اور انہی کو انجام دے کر عبادت کا ختنہ ادا کیا جاسکتا ہے۔ اس عظیم اشان ناطق فہمی نے عوام اور خواص دونوں کو وحوم کے میں ڈال دیا۔ عوام نے اپنے اوقات میں سے چند لمحے خدا کی عبادت کے لیے مختص کر کے باقی تمام اوقات کو اس سے آزاد کر دیا۔ قانونِ الہی کی رفعات میں سے ایک ایک رفعہ کی خلاف درزی کی، حدودِ اللہ میں سے ایک ایک حد کو توڑا، جھوٹ پوئے، غیبت کی، بد عہد بیان کیں، حرام کے مال کھاتے، حق راروں کے حق مارے، کمزوروں پر ظلم کیا، نفس کی بندگی میں دل، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں سب کو نافرمانی کے لیے وقفہ کر دیا، مگر پا پنج وقت کی نماز پڑھ لی، زبان اور حلق کی حد تک قرآن کی تلاوت کر لی، سال میں چھینٹہ بھر کے روزے سے رکھ دیے، اپنے مال میں سے کچھ خیرات کر دی، ایک مرتبہ حج بھی کر آتے اور سمجھے کہ ہم خدا کے عبادت گزار بندے ہیں۔ کیا اسی کا نام خدا کی عبادت ہے؟ کہ اس کے سجدے سے سراٹھا نے ہی ہر معبد باطل کے آگے جھک جائے، اس کے سوا ہر زندہ اور مردہ کو حاجت رو اتناو، ہر اس بندے کو خدا بنا لو جس میں تم کو نقصان پہنچانے یا نفع دیئے کی ذرہ برابر بھی قوتِ نظر آتے، روٹی کے ایک ڈکڑے کے لیے کفار و مشرکین تک کے آگے ہاتھ جوڑو اور ان کے پاؤں چومو، انہی کو رازق سمجھو، انہی کو عزت اور ذلت دیئے والا سمجھو، انہی کے قانون کو قانونِ سمجھو اس لیے کہ وہ طاقت رکھتے ہیں اور خدا کے قانون کو بے تکلف توڑ دو اس لیے کہ تمہارے زخم باطل میں وہ اپنے قانون کو نافذ کرنے کی قوت نہیں رکھتا، کیا یہ تمہارا اسلام ہے؟ یہی تمہارے ایمان کی شان ہے؛ اسی پر تمہیں گان ہے کہ تم خدا کی عبادت کرتے ہو؛ اگر یہی اسلام اور ایمان ہے اور یہی اللہ کی عبادت ہے تو پھر وہ کیا چیز ہے جس نے قم کو دنیا میں دلیل دخوار کر رکھا ہے؟ کیا چیز ہے جو تم سے خدا کے سوا ہر در کی گدائی کر رہی ہے؟ کس چیز نے تمہاری گردلوں میں غلامی اور ذلت کے طوف ڈال

رکھے ہیں؟

خواص نے اس کے بر عکس دوسرا استد اختیار کیا۔ وہ تسبیح و مصلیٰ کے کرجوں میں بیٹھ جائے۔ خدا کے بندے سے گراہی میں مبتلا ہیں، دنیا میں ظلم پھیل رہا ہے۔ حق کی روشنی پر باطل کی ظلمت چھاتی جا رہی ہے، خدا کی زمین پر ظالموں اور باعیشوں کا قبضہ ہو رہا ہے، الہی قوانین کے بجائے شیطانی قوانین کی بندگی خدا کے بندوں سے کرانے جا رہی ہے، مگر یہ میں کہ نفل پر نفل پڑھ رہے ہیں، تسبیح کے وانوں کو گردش دے رہے ہیں، ہو حق کے نعمتے لکھا رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں مگر محض ثوابِ تلاوت کی خاطر حدیث پڑھتے ہیں مگر صرف تبرکا، سیرت پاک اور اسوہ صحابہ پر وعظ فرماتے ہیں مگر قصہ گوئی کا لطف الحسنے کے سوا کچھ مقصود نہیں، دعوتِ الی الخیر اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور جہاد فی سبیل اللہ کا سبق نہ ان کو قرآن میں ملتا ہے، نہ حدیث میں، نہ سیرت پاک میں، نہ اسوہ صحابہ میں، کیا یہ عبادت ہے؟ کیا یہی عبادت ہے کہ بدی کا طوفان تھا اسے سامنے اٹھا رہا ہوا اور تم آنکھیں بند کیے ہوئے مراقبہ میں مشغول رہو؟ کیا عبادت اسی کو کہتے ہیں کہ گراہی کا سیلاپ تھا اسے ججزہ کی دلیل اور دل سے ٹکرا رہا ہوا اور تم دروازہ بند کر کے نفل پر نفل پڑھے جاؤ؟ کیا عبادت اسی کا نام ہے کہ کفار چاروں ہنگ عالم میں شیطانی فتوحات کے ڈنکے بجا تے پھریں، دنیا میں انہیں کا علم پھیلیے، انہی کی حکومت کا فرمایہ، انہی کا قانون رو ج پاتے۔ انہی کی تواریخے، انہی کے آنکے بندے نہ خدا کی گردنبیں جھکیں اور تم خدا کی زمین اور خدا کی مخلوق کو ان کے لیے چھوڑ کر نہایں پڑھنے روزے رکھنے اور ذکر و شغل کرنے میں منہماں ہو جاؤ؛ اگر عبادت یہی ہے جو تم کر رہے ہو، اور اللہ کی عبادت کا حق اسی طرح ادا ہو ماہے تو پھر یہ کیا ہے کہ عبادت نہ کرو اور زمین کی حکومت و فرمانروائی دوسروں کو ملے؟ کی معاذ اللہ خدا کا وہ وعدہ جھوٹا ہے جو اس نے قرآن میں تم سے کیا تھا کہ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مُنْكِرٌ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيَنَّهُمُ الَّذِي أَرْتَضَنِي لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ إِخْرَاجِهِمْ أَمْنًا يَعْدِلُونَ

وَلَا يُشِرِّكُونَ بِنِ شَيْئًا رَانْفُور: ۵۵) اگر خدا اپنے وعدے میں سچا ہے، اور اگر یہ واقعہ ہے کہ تمہاری اس عبادت کے باوجود نہ تم کو زین کی خلافت حاصل ہے، نہ تمہارے دین کو تلکن نصیب ہے، نہ تم کو خوف کے بدیے میں امن ملیر آتا ہے، تو تم کو سمجھنا چاہیے کہ تم اور تمہاری ساری قوم عبادت گزار نہیں بلکہ تارک عبادت ہے اور اسی ترک عبادت کا ویال ہے، جس نے تم کو دنیا میں ذلیل کر رکھا ہے۔

”دریجات القرآن“ ریچ اشنی سٹھن جولائی ۱۹۷۵ء

# جہاد فی سدیل اللہ

عمرًا فقط "جہاد" کا ترجمہ انگریزی زبان میں "Mقدس جنگ" کیا جاتا ہے اور اس کی تشریح و تفسیر مذہبیتے دراز سے کچھ اس انداز میں کی جاتی رہی ہے کہ اب یہ لفظ "جو شہنشہوں" کا ہم معنی ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کے سنتے ہی آدمی کی آنکھوں میں کچھ اس طرح کا نقشہ پھر نے لگتا ہے کہ مذہبی دیوانوں کا ایک گروہ شنگی تواریخ ماتھیں یہے۔ ڈاٹھیاں چڑھاتے، خونخوار آنکھوں کے ساتھ اللہ اکبر کے نامے لکھنا ہٹا چلا آرہا ہے، جہاں کسی کافر کو پاتا ہے پکڑ لیتا ہے اور تلوار اس کی گردان پر ھٹک کرتا ہے کہ بول لا الہ الا اللہ و رَبِّهِ سُرْتَن سے جُدَا کر دیا جاتا ہے۔ ماہرین نے ہماری یہ تصویر بڑی قلمکاریوں کے ساتھ بناتی ہے اور اس کے نیچے موٹے حروف میں لکھ دیا ہے کہ

بُوْتَنْ خُوْ آتَنْ ہے اس قوم کے انسانوں سے

لطف یہ ہے کہ اس تصویر کے بدلے والے ہمارے وہ ہر بان ہیں جو خود کئی صدیوں سے انتہا درجہ کی غیر مقدس جنگ (UNHOLY WAR) میں مشغول ہیں۔ ان کی اپنی تصویر یہ ہے کہ دولت و اقتدار کے بھجوکے ہر فرم کے اسلوب سے مسلح ہو کر قرآن کی طرح ساری دنیا پر پڑے ہیں اور ہر طرف تجارت کی منڈیاں، خام پیداوار کے ذخیرے، نوا آبادیاں بدلنے کے قابل زمینیں اور معدنیات کی کالیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں تاکہ اپنے نفس کی کمی نہ بخٹھے طالی آگ کے لیے ایزدھن فراہم کریں ان کی جنگ خدا کی راہ میں نہیں بلکہ پیٹ کی راہ میں ہے، ہر میں اور نفس اماڑہ کی راہ میں ہے۔ ان کے نزدیک کسی قوم پر حملہ کرنے کے لیے بن یہ کافی وجہ جواز ہے کہ

اس کی زمین میں کامیں ہیں، یا اجنبیس کافی پیدا ہوتی ہیں، یا ان کے کارخانوں کا مال و بان اچھی طرح کھپا یا جا سکتا ہے، یا اپنی زائد آبادی کو وہاں آسانی کے ساتھ بسا یا جا سکتا ہے، یا اور کچھ نہیں تو اس قوم کا یہ گناہ بھی کوئی معمولی گناہ نہیں کر دہ کسی ایسے ملک کے راستہ میں رہتی ہے جس پر یہ پہلے قبضہ کر چکے ہیں یا اب قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے تجویچہ کیا وہ زمانہ ماضی کا قصہ ہے، اور ان کے کا نہ مے حال کے واقعات ہیں جو شب و روز دنیا کی آنکھوں کے سامنے گز رہے ہیں۔ ایشیا، افریقیہ، یورپ، امریکیہ غرض کر کر زمین کا کو نساحۃ ایسا بخارہ گیا ہے جو ان کی اس خیر مقدس جنگ سے لالہ نماز نہیں ہو چکا ہے مگر ان کی مہارت قابلِ داد ہے۔ انہوں نے ہماری تصویر اتنی بھیانک اور اتنی بڑی بنائی کہ خود ان کی تصویر اس کے پیچے چھپے گئی۔ اور ہماری سادہ لوحی بھی قابلِ داد ہے جب ہم نے غوروں کی بنائی ہوئی اپنی یہ تصویر دیکھی تو ایسے دہشت زدہ ہوتے کہ ہمیں اس تصویر کے پیچے جھانک کر خود صورتوں کی صورت دیکھنے کا ہوش ہی نہ آیا اور لگے معذرت کرنے کے حضور بحدا ہم جنگ و فتال کیا جائیں، ہم تو جھکشوں اور پادریوں کی طرح پُرانی میلٹیخ لوگ ہیں، چند نہ ہبی عقائد کی تردید کرنا اور ان کی جگہ کچھ دوسرا سے عقائد تسلیم کر لینا، بس یہ ہمارا کام ہے، ہمیں تلوار سے کیا واسطہ؟ البتہ اتنا قصور کی بھار ہم سے خود ہوا ہے کہ جب کوئی مارنے آیا تو ہم نے بھی بُلوب میں ہاتھ اٹھا دیا۔ سواب ہم اس سے بھی توبہ کر چکے ہیں۔ حضور کی ہمایت کے لیے تکوار والے جہاد کو "سرکاری طور پر" منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اب تو چہاڑ فقط زبان و قلم کی کوشش کا نام ہے۔ توبہ اور بندوق چلانا سرکار کا کام ہے اور زبان و قلم چلانا ہمارا کام۔

جہاد کے متعلق غلط فہمی کے اسباب اخیر یہ تو سیاسی چالوں کی بات ہے مگر خاص علمی حیثیت سے جب ہم ان اسباب کا تجزیہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے "جہاد فی سبیل اللہ" کی کوشش کو سمجھنا غیر مسلموں اور خود مسلمانوں کے لیے دشوار ہو گیا ہے تو ہمیں دو بڑی اور بنیادی غلط فہمیوں کا سارغ ملتا ہے:-

پہنی غلط فہمی یہ ہے کہ اسلام کو ان معنوں میں محس ایک مذہب سمجھا جائی گی جن میں فقط مذہب عموماً برلا جاتا ہے۔

دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان معنوں میں محس ایک قوم سمجھا جائی گی جن میں یہ فقط عموماً مستعمل ہوتا ہے۔

ان دو غلط فہمیوں نے صرف ایک جہاد ہی کے مسئلہ کو نہیں بلکہ مجموعی جمیعت سے پورے اسلام کے نقشہ کو بدل ڈالا ہے اور مسلمانوں کی پوزیشن کل طور پر غلط کر کے رکھ دی ہے۔

مذہب کے معنی عام اصطلاح کے اختبار سے بجز اس کے اور کیا ہیں کروہ چند عقائد اور چند عبادات اور مراسم کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے مذہب کے مذہب کو دو ایک یا ٹوپٹ معاملہ ہی ہونا چاہیے۔ آپ کو اختیار ہے کہ جو عقیدہ چاہیں رکھیں، اور آپ کا ضمیر جس کی عبادت کرنے پر راضی ہو اس کو جس طرح چاہیں پکاریں زیاد سے زیادہ اگر کوئی جوش اور سرگرمی آپ کے اندر اس مذہب کے پیسے موجود ہے تو آپ دنیا بھر میں اپنے عقائد کی تبلیغ کرتے پھریتے، اور دوسرے عقائد والوں سے مناظرے بیجھتے۔ اس کے پیسے تواریخ میں پڑنے کا کوئی موقع ہے؟ کیا آپ لوگوں کو بار بار اپنا ہم عقیدہ بنانا چاہتے ہیں؟ یہ سوال لازمی طور پر پیدا ہوتا ہے جبکہ آپ اسلام کو عام اصطلاح کی رو سے ایک "مذہب" قرار دے لیں، اور یہ پوزیشن اگر واقعی اسلام کی ہو تو جہاد کے پیسے تحقیقت میں کوئی وجہ جوانشابت نہیں کی جاسکتی۔

اسی طرح قوم کے معنی اس کے سوا کیا ہیں کروہ ایک منجانس گروہ اشخاص

منسٹر کے کوئی دوست سے باہم ممتحن اور دوسرے گردہوں سے ممتاز ہو گیا ہو۔ اس معنی میں جو گروہ ایک قوم ہو وہ دو ہی وجہ سے تواریخ میں آور انہیں سُنکت ہے، یا تو اس جائز حقوق چھیننے کے پیسے کرنی اس پر حملہ کرے، جاودہ خود دوسرا دن کے جائز حقوق چھیننے کے پیسے حملہ آور ہو۔ پہلی صورت میں تو خیر تواریخ میں کے پیسے کوچھ نہ ہو۔

اخلاقی جواز موجود بھی نہیں ہے وہ اگرچہ بعض دھرمتوں کے نزد مکہ یا بھی ناجائز ہے، بلکہ دوسری صورت کو تو بعض ڈائیٹریور کے سوا کوئی بھی جائز نہیں کہہ سکتا، حتیٰ کہ برطانیہ اور فرانس جیسی وسیع سلطنتوں کے مدیرین بھی اس کو جائز کہنے کی حراثت نہیں کر سکتے۔

جہاد کی حقیقت اپس اگر اسلام ایکت مذہب "اور مسلمان ایکت قوم" ہے تو جہاد کی ساری معنویت جس کی بنابری سے افضل العبادات کہا گیا ہے، سرے سے ختم جو جاتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کسی "مذہب" کا اور مسلمان کسی قوم کا نہیں ہے بلکہ واقعی اسلام ایک اقلایی نظریہ و مسلک ہے جو تمام دنیا کے اجتماعی نظم (Social Order) کو بدل کر اپنے نظریہ و مسلک کے مطابق تعمیر کرنا چاہتا

ہے اور ان اس میں الاقوامی انقلابی جہاد (International Revolutionary Party) کا نام ہے جسے اسلام پر مطلوبہ انقلابی پروگرام کو عمل میں لانے کے لیے منظہم کرتا ہے، اور جہاد اس انقلابی جہاد (Revolutionary Struggle) میں اپنی صرف طاقت کا نام ہے تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عمل میں لائی جائے۔

تمام انقلابی مسلکوں کی طرح اسلام بھی عامر مژون افاظ کو چھوڑ کر اپنی ایک خاص اصطلاحی زبان (Terminology) اختیار کرتا ہے تاکہ اس کے انقلابی تصورات عامر تصورات سے ممتاز ہو سکیں۔ لفظ جہاد بھی اسی مخصوص اصطلاحی زبان سے تعلق رکھتا ہے اسلام نے حرب اور سی فوجیت کے درمیان عربی الفاظ جو جنگ (Jehad) کے فہری کو ادا کرتے ہیں، فصیح اترک کر دیتے اور ان کی جگہ "جہاد" کا لفظ استعمال کیا جو (Struggle) کا ہم معنی ہے بلکہ اس سے زیادہ مبالغہ رکھتا ہے۔ انگریزی میں اس کا صحیح مفہوم پوں دا کیا جاسکتا ہے:

("To exert one's utmost Endeavour in furthering a cause")

"ایسی تمام طاقتیں کسی مقصد کی تحریک میں صرف کر دینا"

سوال یہ ہے کہ پرانے الفاظ کو چھوڑ کر یہ نیا لفظ کیوں اختیار کیا گی؟ اس کا جواب بخواں کے اور کچھ نہیں کہ "جنگ" کا لفظ قوموں اور سلطنتوں کی ان لڑائیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا اور آج تک ہوتا رہا ہے، جو اشخاص یا چماعتوں کی نفسانی اغراض کے لیے کی جاتی ہیں۔ ان لڑائیوں کے مقاصد مخصوص یا شخصی یا اجتماعی مقاصد ہوتے ہیں جن کے اندر کسی نظریہ اور کسی اصول کی حمایت کا شاتر نہیں ہوتا۔ اسلام کی رہنمائی کے اس نوعیت کی نہیں ہے اس لیے وہ سرے سے اس لفظ کو ہی ترک کر دیتا ہے۔ اس کے پیش نظر ایک قوم کا مفاد یا دوسری قوم کا نقصان نہیں ہے۔ وہ اس سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا کہ زمین پر ایک سلطنت کا قیضہ رہے یا دوسری سلطنت کا۔ اس کو دلچسپی جس چیز سے ہے وہ مخصوص انسانیت کی فلاح ہے۔ اس فلاح کے لیے وہ اپنا ایک خاص نظریہ اور ایک عمل مسلک رکھتا ہے۔ اس نظریہ اور مسلک کے خلاف جہاں جس چیز کی حکومت بھی ہے اسلام اس کو مٹانا چاہتا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ کوئی قوم ہوا اور کوئی علک ہو۔ اس کا مدعایاً پسے نظریہ اور مسلک کی حکومت قائم کرنا ہے بلکہ اس کے کہ کون اس کا جنڈا لے کر اٹھتا ہے اور کس کی حکمرانی پر اس کی ضرب پڑتی ہے۔ وہ زمین مانگتا ہے — زمین کا ایک حصہ نہیں بلکہ پورا کرہ زمین — اس لیے نہیں کہ ایک قوم یا بہت سی قوموں کے ہاتھ سے نکل کر زمین کی حکومت کسی خاص قوم کے ہاتھ میں آ جاتے، بلکہ صرف اس لیے کہ انسانیت کی فلاح کا جو نظریہ اور پروگرام اس کے پاس ہے اس سے تمام نوع انسانی مرتبت ہو۔ اس غرض کے لیے وہ تمام ان طاقتیوں سے کام لیتا چاہتا ہے جو انقلاب پر پا کرنے کے لیے کامگیر ہو سکتی ہیں اور ان سلطنتوں کے استعمال کا ایک جامع نامہ "جہاد" رکھتا ہے۔ زبان و فلم کے ذریعے تو گوں کے نظم نظر کو بدنا اور ان کے اندر فرمی انقلاب پیدا کرنا بھی جہاد ہے۔ تواریخ کے ذریعے پڑتے خالماں نظام زندگی کو بدل دینا اور دنیا عادلانہ نظام مرتب کرنا بھی جہاد ہے، اور اس راہ میں مال صرف کرنا اور حجم سے دوڑ دھوپ کرنا بھی جہاد ہے۔

فی سبیل اللہ کی لازمی قید لیکن اسلام کا جہاد زر "جہاد" نہیں ہے بلکہ "جہادی سبیل اللہ"

ہے اور فی سبیل اللہ کی قید اس کے ساتھ ایک لازمی قید ہے۔ یہ فی سبیل اللہ کا فقط بھی اسلام کی اسی مخصوص اصطلاحی زبان سے تعلق رکھتا ہے جس کی طرف ابھی میں اشارہ کرچکا ہوں۔ اس کا فقطی ترجمہ ہے ”راہِ خدا ہیں“۔ اس ترجمہ سے لوگ غلط فہمی میں پڑ گئے۔ اور یہ سمجھ بیٹھتے کہ زبردستی لوگوں کو اسلام کے ذہنی عقائد کا پیر و بنانا ”جہاد فی سبیل اللہ“ ہے، کیونکہ لوگوں کے نگ دماغوں میں ”راہِ خدا“ کا کوئی مفہوم اس کے سوا نہیں محسوس کیا مگر اسلام کی زبان میں اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ہر وہ کام جو اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے کیا جاتے اور جس کے کرنے والے کا مقصد اس سے خود کوئی دنیوی فائدہ اٹھانا نہ ہو، بلکہ محض خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، اسلام ایسے کام کو ”فی سبیل اللہ“ قرار دیتا ہے مثلاً کے طور پر اگر آپ خیرات دیتے ہیں اس نیت سے کہ اسی دنیا میں مادی یا اخلاقی طور پر اس خیرات کا کوئی فائدہ آپ کی طرف پڑ کر آتے تو یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ اور اگر خیرات سے آپ کی نیت یہ ہے کہ ایک غریب انسان کی مدد کر کے آپ خدا کی خوشنودی حاصل کریں تو یہ فی سبیل اللہ ہے۔ پس یہ اصطلاح مخصوص ہے ایسے نیک کاموں کے لیے جو کامل خلوص کے ساتھ ہر قسم کی نفسانی اغراض سے پاک ہو کر اس نظر پر کیے جاتیں کہ انسان کا دوسرا انسانوں کی فلاح کے لیے کام کرنا خدا کی خوشنودی کا موجب ہے اور انسان کی زندگی کا نصب العین مالک کائنات کی خوشنودی حاصل کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔

”جہاد“ کے لیے بھی ”فی سبیل اللہ“ کی قید اسی غرض کے لیے لگائی گئی ہے۔ اس کا بطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یا گروہ جب نظام حکومت میں انقلاب برپا کرنے اور اسلامی نظر پر کے مطابق نیا نظام مرتب کرنے کے لیے جدوجہد کرنے اُٹھے، تو اس قیام اور اس سربازی و جان شاری میں اس کی اپنی کوئی نفسانی غرض نہ ہونی چاہیے اس کا یہ مقصد ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ قبصہ کو ہٹا کر خود قبصہ جلتے، اپنی ذات کے لیے مال دو دلت یا شہرت یا ناموی یا عزت و رجاء حاصل کرنے کا شامبہ تک اس کی جدوجہد کے مقاصد میں شامل نہ ہونا چاہیے اس کی تمام قرآنیوں اور ساری محدثوں کا تعارض یہ ہونا چاہیے کہ بندگان خدا کے درمیان

ایک عادلانہ نظام زندگی قائم کیا جائے اور اس کے معاوضہ میں خدا کی خوشنودی کے سوا اور کچھ اس کو مطلوب نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے:-

الَّذِيْكَ اَهْمَنُوا بِعِقَابِنَوْنَ فِي سَبِيلِ  
مَا يَمْنَأُونَ لَوْلَمْ خَدَّا كَرَاهَ مِنْ ثُرَّتَهُ مِنْ اَرْجُو  
اللهِ وَالَّذِيْتَ كَفَرُوا بِعِقَابِنَوْنَ فِي  
سَبِيلِ الطَّاعُوتِ (النساء: ۲۶)

طاغوت کا مصدرومغیان ہے جس کے معنی حد سے گزر جانے کے ہیں۔ دریا جب اپنی حد سے گزر جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں طغیانی آگئی ہے۔ اسی طرح جب آدمی اپنی جائز حد سے گزر کر اس غرض کے لیے اپنی طاقت استعمال کرتا ہے کہ انسانوں کا خدا بن جاتے یا اپنے مناسب حصہ سے زیادہ فوائد حاصل کرے تو یہ طاغوت کی راہ میں ٹرتا ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں راہ خدا کی جنگ وہ ہے جس کا مقصد صرف یہ ہو کہ خدا کا قانونِ عدل دنیا میں قائم ہو، طریقے والا خود بھی اس کی پابندی کر سے اور دوسروں سے بھی اس کی پابندی کر ستے چنانچہ قرآن کہتا ہے:

نَلْكَ الدَّارُ الْأَخْرَى تُنْجِعُهُمَا  
لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ  
وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ -  
القصص: ۸۳)

حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا «راہ خدا کی جنگ سے کیا مراد ہے؟ ایک شخص مال کے لیے جنگ کرتا ہے۔ دوسرा شخص بپادری کی شہرت حاصل کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے۔ تیسرا سے شخص کو کسی سے عداوت ہوتی ہے یا قومی محیت کا جوش ہوتا ہے اس لیے جنگ کرتا ہے۔ ان میں سے کس کی جنگ فی سبیل اللہ ہے؟» آنحضرت نے جواب دیا۔ کسی کی بھی نہیں۔ فی سبیل اللہ تو صرف اس شخص کی جنگ ہے جو خدا کا بول بالا کرنے کے سوا کوئی مقصد نہیں رکھتا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ «اگر کسی شخص نے جنگ کی اور اس کے دل میں وہی باندھنے

کی ایک رسمی حاصل کرنے کی نیت ہوئی تو اس کا اجر ضائع ہو گی۔ اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اس کی خوشنودی کے لیے ہو، کسی شخصی یا جماعتی غرض کے لیے نہ ہو۔ پس جہاد کے لیے فی سبیل اللہ کی قید اسلامی نقطہ نظر سے خاص اہمیت رکھتی ہے۔ مجد و جہاد تو دنیا میں سب ہی جاندار کرتے ہیں۔ ہر ایک اپنے مقصد کی تحصیل کے لیے اپنا پورا زور صرف کر رہا ہے۔ لیکن "مسلمان" جس انقلابی جماعت کا نام ہے اس کے انقلابی نظریات میں سے ایک اہم ترین نظریہ بلکہ نبیادی نظریہ یہ ہے کہ اپنی جان مال کھپاؤ، دنیا کی ساری سرکش طاقتیوں سے لڑو، اپنے جسم و روح کی ساری طاقتیں خرچ کر دو، نہ اس لیے کہ دوسرے سرکشوں کو ٹھاکر تم ان کی جگد لے لو، بلکہ صرف اس لیے کہ دنیا سے سرکشی و طغیانِ مٹ جاستے اور خدا کا فاقانون دنیا میں نافذ ہو۔

جہاد کے اس مفہوم اور فی سبیل اللہ کی اصلی معنویت کو مختصر آبیان کر دینے کے بعد اس دعوتِ انقلاب کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں جو اسلام سے کہا جائے ہے۔ تاکہ آسانی کے ساتھ یہ سمجھا جاسکے کہ اس دعوت کے لیے جہاد کی حاجت کیا ہے اور اس کی غایبت (Objective) کیا ہے۔

اسلام کی دعوتِ انقلاب [اسلام کی دعوتِ انقلاب کا خلاصہ یہ ہے:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۝ أَمَّا إِنْسَانٌ فَإِذَا أَنْتَرَتْ أَنْفُسَهُ مَا كَانَ مَعَهُ فَمَا يَرَى إِلَّا مَا كَانَ مَعَهُ ۝ بَلَى إِنَّمَا يَرَى مَا كَانَ مَعَهُ ۝

الَّذِي خَلَقَكُمْ ۝ (بقرہ: ۲۲)

اسلام مزدوری، یا زینداری یا کاشتکاری یا کارخانہ داری کو نہیں پکارتا بلکہ تمام انسانوں کو پکارتا ہے۔ اس کا خطاب انسان بنے بھیت انسان ہے اور وہ صرف یہ کہتا ہے کہ اگر تم خدا کے سوا کسی کی بندگی، اطاعت، فرمانبرداری کرتے ہو تو اسے چھوڑو، اور اگر خود تمہارے اندر خدائی کا داعی ہے تو اسے بھی نکال دو کہ

لے یہ ایک اور مقام ہے جہاں لوگوں نے عظیم الشان مٹھو کر کھائی ہے۔ انہوں نے مجد و جہاد اور جہاد فی سبیل اللہ کے فرق کو نظر انداز کر دیا جس کی وجہ سے قومی استقلال و اشکنوار کی کوشش اور اعلاءِ کلّتہ اللہ کی کوشش میں کوئی وجوہ امتیاز باقی نہ رہی۔

دوسری سے اپنی بندگی کرنے اور دوسراں کا سر پس آگے جھکوانے کا حق بھی تم میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے، تم سب کو ایک خدا کی بندگی قبول کرنی چاہیے اور اس بندگی میں سب کو ایک سطح پر آجانا چاہیے۔

اوَّلُهُمْ اَوْ تَعَالَى مَكْلِمَةٌ سَوَّاً وَ بَيْتَنَا  
جُو سچارے اور تمہارے درمیان یکساخ  
وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں  
اوْ خَدَا وَنَدِيٍّ مِّنْ كُسْيٍ كُو خدا کا شرکیہ نہ پھرہی  
اوْ سَبِّهِمْ مِّنْ سے کوئی کسی کو خدا کے بحدتے امر  
نہی کا مالک بھی نہ بناتے۔

تَعَالَوَا إِلَى مَكْلِمَةٍ سَوَّاً وَ بَيْتَنَا  
وَ لَا يَبْيَتْكُمْ إِلَّا دُعَيْدَ الْأَدْلَهُ وَ لَا  
نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَ لَا يَنْخُذَ بَعْضَنَا  
بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ -

دآل عمران: ۴۴

یہ عالمگیر اور کلی القلاں کی دعوت تھی۔ اس نے پکار کر کہا کہ ان الحکمُ الْاَدِلَّهُ حکومت سواستے خدا کے اور کسی کی نہیں ہے، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ بذات خود انسانوں کا حکم لے بن جلتے اور اپنے اختیار سے جس چیز کا چاہے ہے حکم دے اور جس چیز سے چاہے رکھ دے کسی انسان کو بالذات امر و نہی کا مالک سمجھنا دراصل خدائی میں اسے شرکیہ کرنا ہے اور یہی بناتے فساد ہے۔ اللہ نے انسان کو جس صبح فطرت پر پیدا کیا ہے اور زندگی بسر کرنے کا جو سیدھا راستہ بتایا ہے اس سے انسان کے بیٹھنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ لوگ خدا کو بھول جائیں اور نتیجہ خود اپنی حقیقت کو بھی فراموش کرویں۔ اس کا نتیجہ لازمی طور پر یہی ہوتا ہے کہ ایک طرف بعض اشخاص یا خاندان یا طبقے خدائی کا کھلا یا چھپا داعیہ ہے کہ اس طبقے میں اور اپنی طاقت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر لوگوں کو اپنا بند بنالیتتے ہیں اور دوسری طرف اسی خدا فراموشی و خود فراموشی کا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کا ایک حصہ ان طاقتوروں کی خداوندی مان لیتا ہے اور ان کے اس حق کو تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ حکم کریں اور وہ اس حکم کے آگے سر جھکا دیں۔ یہی دنیا میں ظلم و فساد اور ناجائز انتفاع کی (Exploitation) بنیاد ہے، اور اسلام پہلی ضرب اسی پر لگاتا ہے۔ وہ ہانکے پکارے کہتا ہے:

ان لوگوں کا حکم ہرگز نہ مانو جو اپنی صد جائزے  
گز رکھتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں  
اور اصلاح نہیں کرتے۔

اس شخص کی اطاعت ہرگز نہ کر جس کے دل کو  
ہم نے اپنی یاد سے فافل کر دیا ہے اور جو  
اپنی خواہشاتِ نفس کا بندہ بن گیا ہے اور جو  
جس کا کام افراط و تفرط پر مبنی ہے۔

خدا کی لعنت ہوان خالموں پر جو خدا کے نئے  
ہوتے زندگی کے جید حصے راستے میں کاٹ دیں  
ویسیغونہما عوچا۔ (الاعراف: ۶۵، ۶۶)

وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ عَآزِبَاتُ مُنْقَرِفَوْنَ حَيْرًا أَمْرَ اللَّهُ الْوَاحِدُ  
الْعَظَّامُ؟ یہ بہت سے چھوٹے ٹوکے خدا جن کی بندگی میں تم پے جا رہے ہو ان کی  
بندگی قبول ہے، یا اس ایک خدا کی جو سبے زبردست ہے؟ اگر اس خدا تے واحد  
کی بندگی قبول نہ کر دے گے تو ان چھوٹے اور جھوٹے خداوں کی آقائی سے تمہیں کبھی نجات  
نہ مل سکے گی، یہ کسی نہ کسی طور سے تم پر تسلط پائیں گے، اور فساد پر پا کر کے رہیں گے:-  
یہ با شاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اس کے  
نظام حیات کو تہ و بالا کر دلتے ہیں اور اس کے  
غزتہ والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور ان کا یہ  
فتیرہ ہے۔

اور جب وہ اقتدار پال دیتا ہے تو زمین میں  
فساد پھیلاتا ہے کھنیتوں کو خراب اور نسلوں  
کو تباہ کرتا ہے اور اللہ فساد کر پسند نہیں  
کرتا۔

لَا نُطِيعُوا آمُرَ الْمُسْرِفِينَ  
الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ  
لَا يُصْلِحُونَ۔ (والشعراء: ۱۵۱، ۱۵۲)

لَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلَنَا قَلْبَهُ عَنْ  
ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَرَاءً وَكَانَ أَمْرُهُ  
فُرُطًا۔ (راکھیف: ۲۸)

أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ  
الَّذِينَ يَصْدُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  
وَيَعْوِزُونَهَا عَوْجًا۔ (الاعراف: ۶۷، ۶۸)

إِنَّ الْمَلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً  
أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْنَاقَ أَهْلِهَا  
أَذِلَّةً وَكَذَّالِكَ يَفْعَلُونَ۔ (رامنل: ۳۲۶)

وَإِذَا تَوَلَّ شَعْنَى فِي الْأَرْضِ  
يُفْسِدُ فِيهَا وَيُهُدِّدُ الْحَرَثَ وَ  
النَّسْلَ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ  
رَبَّرِرَه: ۴۰۵)

یہاں پوری تفصیل کام موقع نہیں مختصر امیں یہ بات آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہو  
کہ اسلام کی دعوتِ توحید و خدا پرستی مخصوص اس معنی میں ایک مذہبی عقیدہ کی دعوت نہ تھی  
جس میں اور دوسرے مذہبی عقائد کی دعوت ہوا کرتی ہے، بلکہ حقیقت میں یہ ایک  
اجماعی انقلاب (Social Revolution) کی دعوت تھی۔ اس کی ضرب بلا واسطہ  
ان طبقوں پر پڑتی ہے جنہوں نے مذہبی زنگ میں پروری بن کر، یا سیاسی زنگ میں باوٹ  
اور تمیں اور حکمران گروہ بن کر، یا معاشی زنگ میں ہماجن اور زمیندار اور اجارہ دار بن کر  
عامتوں اس کو اپنا پانڈہ بنایا تھا۔ یہ کہیں علاشیہ اور بائیث ممن دُرُونِ اللہ بنبے ہوئے  
تھے، دنیا سے اپنے پیدائشی امتیاقی حقوق کی بنابر احیا عت دندگی کا مرطابہ کرتے  
تھے اور صفات کہتے تھے کہ مَا نَكَدْ مِنْ إِلَهٌ غَيْرُّنِی اور آنار تکرر الاعْنَى اور آنَا أُخْيٰ  
وَأُمِيَّتُ اور مَنْ أَشَدَّ مِنَّا قُوَّةً۔ اور کسی جگہ انہوں نے عامتوں اس کی چہالت  
کو استعمال ————— کرنے کے لیے توں اور ہیکلوں کی شکل میں مصنوعی خدا بنا  
رکھے تھے جن کی آڑ پکڑ کر یہ اپنے خداوندی حقوق بندگاں خدا سے تسلیم کر لتے تھے یہی کفرو  
شرک اور بُت پرستی کے خلاف اسلام کی دعوت، اور خدا سے واحد کی بندگی و عبودیت  
کے لیے اسلام کی تبلیغ براؤ راست حکومت اور اس کو سہارا دینے والے یا اس کے سہارے  
چلنے والے طبقوں کی اغراض سے متصادم ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے جب کبھی کسی نبی نے  
یَا تُوْمَا عَبْدُوْ اللَّهِ مَا نَكَدْ مِنْ إِلَهٌ غَيْرُّنِی کی صدابندگی، حکومت وقت فوراً اس کے  
 مقابلے میں آنکھی ہر قی مہوتگام ناجائز انتقام کرنے والے طبقے اس کی مخالفت پر کہتے  
ہو گئے، کیونکہ یہ مخصوص ایک مابعد اطیبی قضیہ (Metaphysical Proposition)  
کا بیان نہ تھا، بلکہ ایک اجتماعی انقلاب کا اعلان تھا، اور اس میں پہلی آواز منتہی ہی سیاسی  
شورش کی بو سونگھ لی جاتی تھی۔

اسلامی دعوتِ انقلاب کی خصوصیت اس میں شک نہیں کہ انبیاء و علیہم السلام بے  
سب انقلابی بیڈر تھے، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے انقلابی بیڈر  
ہیں۔ لیکن جو چیز دنیا کے عام انقلابیوں اور ان خدا پرست انقلابی بیڈروں کے درمیان

واضح خطا اغیار کھینچتی ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے انقلابی لوگ خواہ کرنے ہی نکلتی  
کیوں نہ ہوں، عدل اور تو سط کے صحیح مقام کو نہیں پاسکتے۔ وہ یا تو خود مظلوم طبقوں  
میں سے اٹھتے ہیں، یا ان کی حیات کا جذبہ لے کر اٹھتے ہیں، اور پھر سارے معاملات  
کو انہی طبقوں کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کا قدر تی تیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی  
نظر غیر چاندرا نہ اور خالص انسانیت کی نظر نہیں ہوتی بلکہ ایک طبقہ کی طرف غصہ  
و نفرت کا اور دوسرا طبقہ کی طرف حیات کا جذبہ لیے ہوتے ہوتی ہے۔ وہ  
ظلہ کا ایسا علاج سمجھتے ہیں جو تیجہ ایک جوانی ظلم ہوتا ہے۔ ان کے لیے انتقام حمد  
اور عداوت کے جذبات سے پاک ہو کر ایک ایسا معتدل اور متوازن اجتماعی نظام تجویز  
کرنا ممکن نہیں ہوتا جس میں مجموعی طور پر تمام انسانوں کی فلاح ہو۔ بخلاف اس کے انہیں  
عیلہم السلام خواہ کرنے ہی تھے گئے ہوں اور کتنا بھی ان پر اور ان کے ساتھیوں پر ظلم کی  
گیا ہو، ان کی انقلابی تحریک میں کبھی ان کے شخصی جذبات کا اثر آنے نہیں پایا۔ وہ براہ  
براست خدا کی ہدایت کے تحت کام کرتے تھے، اور خدا چونکہ انسانی جذبات سے  
منزہ ہے، کسی انسانی طبقہ سے اس کا خصوصی شرطہ نہیں، نہ کسی دوسرے انسانی  
طبقہ سے اس کو کوئی شکایت یا عداوت ہے، اس لیے خدا کی ہدایت کے تحت انہی  
عیلہم السلام تمام معاملات کو نیے لگ اضافات کے ساتھ اس نظر سے دیکھتے ہی  
کہ تمام انسانوں کی مجموعی فلاح و بہبود کس چیز میں ہے اور کس طرح ایک ایسا نظام  
بنایا جائے جس میں ہر شخص اپنی جائز حدود کے اندر رہ سکے، اپنے جائز حقوق سے ملنے  
ہو سکے، اور افراد کے باہمی روابط، نیز فرد اور جماعت کے باہمی تعلق میں کامل نوازن  
قام کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں عیلہم السلام کی انقلابی تحریک کبھی طبقاتی نزع اع  
ماں نہیں تبدیل نہ ہونے پائی۔ انہیں نے اجتماعی تعمیر نو  
(Social Reconstruction)  
پرستگاروں، بلکہ اس کے لیے عدل کا ایسا طریقہ اختیار کیا جس میں تمام انسانوں کے  
لیے ترقی اور مادی و روحانی سعادت کے یکساں امکانات ملکے گئے تھے۔

جہاد کی ضرورت اور اس کی غایت اس مختصر متعالہ میں میرے لیے اس اجتماعی نظام (Social Order) کی تفصیلات پیش کرنا خلکل ہے جو اسلام نے تجویز کیا ہے۔ تفصیل کا موقعہ الشاعر اللہ علیہ الرحمۃ الرحمیۃ آئے گا۔ یہاں اپنے موضوع کی حد میں رہتے ہوئے جس بات کو مجھے واضح کرنا تھا وہ صرف یہ تھی کہ اسلام مخصوص ایک مذہبی عقیدہ اور چند عبادات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک جامع سسٹم ہے جو دنیا سے زندگی کے تمام ظالماں اور مفسدات کو مٹانا چاہتا ہے اور ان کی وجہ پر اپنا ایک اصلاحی پروگرام نافذ کرنا چاہتا ہے جس کو وہ انسانیت کی فلاح و ہبود کے لیے رہے ہے بہتر سمجھتا ہے۔

اس تحریب و تعمیر اور القاب و اصلاح کے لیے وہ کسی ایک قوم یا گروہ کو نہیں بلکہ تمام انسانوں کو دعوت دیتا ہے۔ وہ خود ان ظالم طبقوں اور ناجائز نفع کرنے والے گروہوں، ختنی کر باوشا ہوں اور رہیوں کو بھی پکارتا ہے کہ آس جائز حد کے اندر رہنا قبول کر لو جو تمہارے خاتم نے تمہارے لیے مقرر کی ہے۔ اگر قم عدل اور حق کے نظام کو قبول کر لوگ تو تمہارے لیے امن اور سلامتی ہے یہاں کسی انسان سے دشمنی نہیں ہے، بلکہ دشمنی جو کچھ بھی ہے فلم سے ہے، فاد سے ہے، بد اخلاقی سے ہے، اس بات سے ہے کہ کوئی شخص اپنی فطری حد سے تجاوز کر کے وہ کچھ حاصل کرنا چاہے جو فطرت اللہ کے لحاظ سے اس کا نہیں ہے۔ یہ دعوت جو لوگ بھی قبول کر لیں وہ خواہ کسی طبقہ، کسی نسل، کسی قوم اور کسی ملک کے ہوں، یہاں حقوق اور مساویانہ حیثیت سے اسلامی جماعت کے رکن بن جاتے ہیں، اور اس طرح وہ بین الاقوامی القابی پارٹی تیار ہوتی ہے جسے قرآن "حزب اللہ" کے نام سے یاد کرتا ہے، اور جس کا دوسرا نام "اسلامی جماعت" یا "امت مُسلمہ" ہے۔

یہ پارٹی وجود میں آتے ہی اپنے مقصد وجود کی تفصیل کے لیے جہاد شروع کر دیتی ہے۔ اس کے عین وجود کا انتصار یہی ہے کہ یہ غیر اسلامی نظام کی حکمرانی کو

مذکور کی کوشش کرے اور اس کے مقابلہ میں تمدن و اجتماع کے اس معتدل و متوازن صنایع کی حکومت قائم کر سے جے قرآن ایک عالیٰ نفظ "کلۃ اللہ" سے تعبیر کرتا ہے اگر یہ پارٹی حکومت کو بدلتے اور اسلامی نظام حکومت قائم کرنے کی کوشش نہ کرے تو اس کے وجود میں آئے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کسی اور مقصد کے لیے بنائی ہی نہیں گئی ہے، اور اس جہاد کے سوا اس کی بستی کا اور کوئی مصروف ہی نہیں۔ قرآن اس کی پیدائش کا ایک ہی مقصد بیان کرتا ہے اور وہ یہ ہے:

كُنْتُمْ خَيْرًا مِّنْ أُخْرَ جَمِيعٍ  
تُمْ وَهُبَّتِينَ هَتَّتْ هُوَ جَمِيعٌ نُورٌ إِنَّا نَحْنُ  
لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَا بِالْمَعْرُوفِ وَنَنْهَا  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَا تُمْنُونَ بِإِلَهٍ إِلَّا إِنَّمَا  
يَعْلَمُ بِهِ إِنَّمَا يَعْلَمُ بِهِ إِنَّمَا يَعْلَمُ بِهِ إِنَّمَا يَعْلَمُ بِهِ إِنَّمَا

یہ نہ ہی تبیین کرنے والے واعظین (Preachers) اور مبشرین (Missionaries) کی جماعت نہیں ہے بلکہ خدائی فوجداروں کی جماعت ہے رِبِّنَّكُوْنُوْا شَهَدَ اَنَّ عَلَى النَّاسِ (البقرہ: ۲۳) اور اس کا مہم یہ ہے دنیا سے ظلم، فتنہ، فساد، بد اخلاقی، طغیان اور ناجائز اتفاق کو زور مخادعے، ازیابیت میں دُوْنِ اللہ کی خدائی کو ختم کر دے، اور بدی کی جگہ نیکی قائم کرے۔ قَاتِلُوْهُمْ حَتَّیٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَلَا يُؤْنَدُونَ الدِّيَنُ يَلِلَّهِ (البقرہ: ۱۹۷) الاَقْفَلُوْهُ تَكُونُ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَهَادُوْمَ كَبِيرٌ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدُىٰ فَرِدَيْنَ الْحَقَّ يُبَيِّنُهُ عَلَى الدِّيَنِ كُلِّهِ وَلَا يُؤْكِدُ  
الْمُشْرِكُوْنَ۔ لہذا اس پارٹی کے لیے حکومت کے اقتدار پر قبضہ کیے بغیر کوئی چارہ

ملکہ ان سے جنگ کرو یا ان تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور اطاعت صرف خواکے لیے ہو جائے۔ ملکہ اگر قم ایسا نہ کر دے تو زمین میں فتنہ ہو گا اور بڑا فساد ہو پا رہے گا:

تَهْ دُوْهُ خَدَّا بَرِیٰ ہے جس نے اپنے رسول کو دنیا میں زندگی پسرا کرنے کا سیدھا راستہ اور حق کی اطاعت کا صحیح ضابطہ پیکر بھیج دیا ہے تاکہ تمام اطاعتیں کو مٹا کر اسی ایک اطاعت کو سب پر غالب کر دے خواہ دہ لوگ اس پر راضی نہ ہوں جو خداوندی میں دوسریں کو شرکی پھبرتے ہیں۔

نہیں ہے، کیونکہ مفسد ان نظام تھوڑے ایک فاسد حکومت کے بل پر ہی قائم ہوتا ہے اور ایک صالح نظام تھوڑے اس وقت تک کسی طرح قائم یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ حکومت مفسدین سے مسلوب ہو کر مفسدین کے ہاتھ میں نہ آ جائے۔

دنیا کی اصلاح سے قطع نظر اس جماعت کے لیے خود اپنے مسلک پر عالم ہٹا بھی غیر ممکن ہے اگر حکومت کا نظام کسی دوسرے مسلک پر قائم ہو۔ کوئی پارٹی جو کسی سسٹم کو برحق سمجھتی ہو کسی دوسرے سسٹم کی حکومت میں اپنے مسلک کے مطابق زندگی بسرا نہیں کر سکتی۔ ایک اشتراکی مسلک کا ادمی اگر انگلستان یا امریکہ میں رہ کر اشتراکیت کے مطابق زندگی بسرا کرنا چاہے تو کسی طرح اپنے اس ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام کا ضدابطہ حیات حکومت کی طاقت سے بغیر اس پر مستطیل ہو گا اور وہ اس کی قہر مانی سے کسی طرح بچ نہ سکے گا۔ اسی طور پر ایک مسلمان بھی اگر کسی غیر اسلامی حکومت میں رہ کر اسلامی اصول پر زندگی بسرا کرنا چاہے تو اس کا کامیاب ہونا بھی محال ہے۔ جن فوائد کو وہ باطل سمجھتا ہے، جن شکشوں کو وہ حرام سمجھتا ہے، جن معاملات کو وہ ناجائز سمجھتا ہے، جس طرز زندگی کو وہ فاسد سمجھتا ہے جس طرقی قیلیم کو وہ ہلک سمجھتا ہے وہ سب کے سب اس پر، اس کے لھر مبارپ، اس کی اولاد پر اس طرح مستطیل ہو جائیں گے کہ وہ کسی طرح ان کی گرفت سے بچ کر نہ نکل سکے گا۔ پہنچا جو شخص یا گروہ کسی مسلک پر اعتقاد رکھتا ہو وہ اپنے اعتقاد کے نظری اقتضاء ہی سے اس امر پر مجبور ہوتا ہے کہ مسلک مخالفت کی حکومت کو مٹا کر اور خود اپنے مسلک کی حرمت قائم کرنے کی کوشش کرے۔ کیونکہ اس کے بغیر وہ اپنے مسلک پر عمل کر ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ اس کوشش سے غفلت پرتا ہے تو اس کا صریح مطلب یہ ہے کہ وہ درحقیقت اپنے عقائدی میں جھوٹا ہے۔

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذْنَتَ لَهُمْ «آتَيْتَ نَبِيًّا إِنَّمَا تَهْمِينَ مِعَاذَ كَرَمَةَ تَمَنَّى»  
ان لوگوں کو جہاد کی شرکت سے علیحدہ رہنے  
وَتَعْلَمَ أَنَّكُنْ بَيْتَ كَمْ - لَا يَسْتَأْذِنُكَ  
کی اجازت کیوں نہیں دی ہے حالانکہ جہادی

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
أَتْبِعُوا هُدًى وَأَبْا مَا مَوَالِهِمْ وَأَنْفَسِهِمْ۔  
..... إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا  
يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔

رَأْيُ التَّوْبَةِ (۲۷۰)

وہ کسوٹی ہے جس سے تم پر کھل سکتا ہے کہ اپنے ایمان میں پچے کون ہیں اور جھوٹے کون، جو لوگ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہیں کر سکتے کہ انہیں اپنے مال اور جان کے ساتھ چھاد کرنے سے مغدور رکھا جائے ۔ ۔ ۔ ایسی درخواست صرف دیکھ کرتے ہیں جو نہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اور نہ یوم آخر پر۔

ان الفاظ میں قرآن نے صاف اور صریح فتویٰ دے دیا ہے کہ اپنے اعتقاد (Convictions) میں کسی جماعت کے صادق ہونے کا واحد معیار ہی ہے کہ وہ جس مسلک پر اعتقاد رکھتی ہو اس کو حکمران بننے کے لیے جان و مال سے جھاؤ کرے۔ اگر تم اپنے اور مسلک مخالف کی حکومت کو گوارا کرتے ہو تو یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ تم اپنے اعتقاد میں جھوٹے ہو، اور اس کا فطری نتیجہ ہی ہے اور یہی ہو سکتا ہے کہ آخر کار اسلام کے مسلک پر تہار انعام ہباد عقیدہ بھی باقی نہ رہے گا ابتداء میں تم مسلک مخالف کی حکومت کو بکراہت کو ارادگے، پھر رفتہ رفتہ تہارے دل اس سے مانوس ہوتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ کراہت رغبت سے بدی جائے گا اور آخر میں نوبت اس حد تک پہنچے گی کہ مسلک مخالف کی حکومت قائم ہونے اور قائم رہنے میں تم خود دگار بنو گے، اپنی جان و مال سے جھاؤ اس لیے کردیجے کہ مسلک اسلام کے بجائے مسلک غیر اسلام قائم ہو یا قائم رہے، تہاری اپنی طائفیں مسلک اسلام کے قیام کی فرائحت میں صرف ہونے لگیں گی، اور یہاں پہنچ کر تم میں اور کافروں میں اسلام کے مذاقہ نہ دعویٰ، ایک بدترین جھوٹ، ایک پُر فریب نام کے سوا کوئی فرق نہ رہے گا۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نتیجہ کو صاف صاف بیان فرمادیا ہے:

فَإِنَّمَا يُنْهَىٰ نَفْسٌ بِمَا دَرَأَ لِنَاسَ مِنْ

اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان

ہے، یا تو تمہیں ایسا کرنا پڑیا کہ نیکی کا حکم کرو اور بدی سے روکو، اور بدکار کا ہاتھ پکڑ لو اور اسے حق کی طرف بزور موڑ دو، یا پھر انہوں نے فازن فطرت کا یہ تجھے ظاہر ہو کر ہے کا کہ بڑھائیں کے دلوں کا اثر تھا سے دلوں پر بھی پڑ جائے اور ان کی طرح تم بھی ملعون ہو کر رہو۔

بِالْمَعْرُوفِ وَلِنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ  
لَا يَخْدُثَ بَيْدَ الْمُسْبِيِّ وَلَا تُأْطِرْنَاهُ عَلَى  
الْحُقْقَاطْرَاءِ أَوْ لِيَضُرِّبَ اللَّهُ قُلُوبَ  
بَعْضِكُمْ عَلَى لَعْنَتِ أَوْ لِيَلْعَنْكُمْ كَمَا  
لَعَنَهُمْ۔

**عالمگیر انقلاب** اس بحث سے آپ پریبیات واضح ہو گئی ہوں گے کہ اسلامی جہاد کا مقصد (Objective) غیر اسلامی نظام کی حکومت کو مٹا کر اسلامی حکومت قائم کرتا ہے۔ اسلام یہ انقلاب صرف ایک ملک یا چند ملکوں میں نہیں بلکہ تمام دنیا میں برپا کرنا چاہتا ہے۔ اگرچہ ابتداءً مسلم پارٹی کے ایکان کا فرض یہی ہے کہ جہاں جہاں وہ پہنچنے ہوں وہاں کے نظام حکومت میں انقلاب پیدا کریں۔ لیکن ان کی آخری منظار مقصود ایک عالمگیر انقلاب (World Revolution) کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کوئی انقلابی مسلک جو قومیت کے بجائے انسانیت کی فلاجع کے اصول لے کر اٹھا ہو، اپنے انقلابی مطلع نظر کو کبھی ایک ملک یا ایک قوم کے دائرے میں محدود نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اپنی فطرت کے عین اقتضاء ہی سے مجبور ہے کہ عالمگیر انقلاب کو اپنا مطلع نظر بناتے۔ حق جغرافی حدود کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر کسی دریا یا پہاڑ کے اس پار بھی حق ہی ہوں تو اس پار بھی حق سی ہوں۔ نوع انسانی کے کسی حصہ کو بھی مجھ سے محروم نہ رہنا چاہیے۔ انسان جہاں بھی خلک و ستم کا اور افراط و تفریط کا تختہ مشق بناؤ ہو اسے۔ اس کی مدد کے لیے پہنچنا میرا فرض ہے۔ اسی تحلیل کو قرآن ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

وَمَا لَكُمْ لَا يُفَاعِلُونَ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ  
وَالنِّسَاءِ وَالْوُلَدَاتِ الَّذِينَ يَعْوَلُونَ

تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی راہ میں ان مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں رہتے جنہیں کمزور پا کر دیا گیا ہے اور جو حامیں

رَبَّنَا أَخْرُجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْبَةِ مَا نَكِنْتَنَا بِنَحْنٍ إِنَّا هُنَّا عَلَيْكَ أَهْدِيْاً۔ (النَّاسٌ: ۵۷) جس کے کار فرما ظالم میں۔

علاوہ برسیں قومی و ملکی تقییات کے باوجود انسانی تعلقات دروازی پھری عالمگیری اپنے اندر رکھتے ہیں کہ کوئی ایک حکومت اپنے اصول و مسلک کے مطابق پوری طرح عمل نہیں کر سکتی جب تک کہ ہمایہ ممالک میں بھی وہی اصول و مسلک راجح نہ ہو جائے۔ لہذا مسلم پارٹی کے لیے اصلاح عمومی اور تحفظ خودی، دونوں کی خاطر پیناگزیر ہے کہ کسی ایک خطہ میں اسلامی نظام کی حکومت قائم کرنے پر اتنا نہ کرے بلکہ جہاں تک اس کی قومی ساختہ دیں، اس نظام کو تمام اطراف عالم میں دیکھ کرنے کی کوشش کرے وہ ایک طرف اپنے افکار و نظریات کو دنیا میں پھیلاتے گی اور تمام ممالک کے باشندوں کو دعوت دیگی کہ اس مسلک کو قبول کریں جس میں ان کے لیے خیقی فلاح مضمون ہے۔ دوسری طرف اگر اس میں طاقت ہو گی تو وہ رکر غیر اسلامی حکومتوں کو مٹادے گی اور ان کی جگہ اسلامی حکومت قائم کریں۔ یہی پالیسی تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد خلائق راشدین نے عمل کیا۔ عرب، جہاں مسلم پارٹی پیدا ہوئی تھی، سبے پہلے اسی کو اسلامی حکومت کے زیر نگیں کیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف کے ممالک کو اپنے اصول و مسلک کی طرف دعوت دی، مگر اس کا انتظار نہ کیا کہ یہ دعوت قبول کی جاتی ہے یا نہیں، بلکہ قوت حاصل کرتے ہی رومی سلطنت سے تصادم شروع کر دیا۔ آنحضرت کے بعد جب حضرت ابو بکرؓ پارٹی کے یڈر ہوئے تو انہوں نے روم اور ایران دونوں کی غیر اسلامی حکومت پر حملہ کر دیا اور پھر حضرت عمرؓ نے اس حملہ کو کامیابی کے آخری مرحلہ تک پہنچا دیا۔ مصر و شام اور روم و ایران کے عوام اول اول اس کو عرب کی امپریسٹ پالیسی سمجھے۔ انہوں نے خیال کیا کہ جس طرح پہلے ایک قوم دوسری قوموں کو غلام بنانے کے لیے نکلا کرتی تھی اسی طرح اب بھی ایک قوم اسی غرض کے لیے نکلی ہے۔ اس غلط فہمی کی بناء پر لوگ قیصر و کسری کے محبت نہ

تھے مسلمان سے رُٹنے کے لیے نکلے۔ مگر جب ان پر مسلم پارٹی کے انتہائی مسلک کا حال  
کھلا، جب انہیں علوم پرداز کریم جنفی کا رانہ قوم پرستی (Aggressive Nationalism)  
کے علیحداً اور نہیں ہیں بلکہ قومی اغراض ہے یا کہ ہیں اور محض ایک عادلانہ نظام قائم کرنے  
آئے ہیں، اور ان کا مقصد ان خالق طبقوں کی خداوندی کو ختم کرنا ہے جو قیصریت  
و کسریت کی پناہ میں ہم کو تباہ و برپا کر رہے ہیں، قوانین کی اخلاقی ہمدردی میں مسلم  
پارٹی کی طرف جبکہ جنیں، وہ قیصر و کسری کے جھنڈے سے امگ ہوتے چلے  
گئے اور اگر مارے پہنچے سے فوج میں بھرتی ہو کر رُٹنے آئے بھی تو بے دلی سے  
رُٹنے یہی سبب ہے اُن جیز فتوحات کا جواب ابتدائی و درمیں مسلمانوں کو  
حاصل ہوئیں، اور یہی سبب ہے اس کا کہ اسلامی حکومت قائم ہونے کے بعد جب  
ان مسلمانوں کے باشندوں نے اسلامی نظم اجتماعی کو عملہ کام کرتے ہوئے دیکھا تو  
وہ خود فوج و فوج اس بین الاقوامی پارٹی میں شرکیں ہوتے چلے گئے اور خود اس  
مسلسل کے علیحداً اپنے کر آگے بڑھتے تاکہ دوسرا سے ملکوں میں بھی اس کو چھپا دیں۔  
جارحانہ اور مدافعانہ کی تقسیم غیر متعلق ہے] یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس پر جبکہ پ

غور کریں گے تو یہ بات پاسانی آپ کی سمجھو میں آ جائے گی کہ جنگ کی تقسیم جارحانہ  
(Offensive) اور مدافعانہ (Defensive) کی اصطلاحوں میں کی گئی ہے اس کا  
اطلاق سرے سے اسلامی جہاد پر ہوتا ہی نہیں۔ تقسیم صرف قومی اور ملکی ٹرائیوں  
پر بھی منطبق ہو سکتی ہے کیونکہ اصطلاح "حملہ" اور "مدافعت" کے الفاظ ایک ملک یا  
ایک قوم کی نسبت سے ہی بولے جاتے ہیں۔ مگر جب ایک بین الاقوامی پارٹی ایک  
جهانی تنظیریہ مسلمان کوئے کر آٹھتے، اور تمام قوموں کو انسانی حیثیت سے اس مسلمان  
کی طرف بلاستے اور ہر قوم کے آدمیوں کو مساویانہ حیثیت سے اپنی پارٹی میں شرکیں  
کرے، اور محض مسلمان مخالفت کی حکومت کو مٹا کر اپنے مسلمان کی حکومت قائم کرنے  
کے لیے جدوجہد کرے، تو ایسی حالت میں اصطلاحی حملہ اور اصطلاحی مدافعت کا  
قطعہ کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر اصطلاح سے قطع نظر کر لی جائے تو

بھی اسلامی جہاد پر جارحانہ اور مدافعانہ کی تقسیم منطبق نہیں ہوتی۔ اسلامی جہاد بیک وقت جارحانہ بھی ہے اور مدافعانہ بھی۔ جارحانہ اس لیے کہ مسلم پارٹی مسک مخالفت کی حکمرانی پر حملہ کرتی ہے اور مدافعانہ اس لیے ہے کہ وہ خود اپنے مسک پر عامل ہونے کے لیے حکومت کی طاقت حاصل کرنے پر مجبور ہے۔ پارٹی ہونے کی حیثیت سے اس کا کوئی بھر نہیں کہ وہ اس کی مدافعت کرے۔ اس کے پاس محض اپنے اصول میں جن کی وہ حمایت کرتی ہے۔ اسی طرح مخالفت پارٹی کے بھی بھر پر وہ حملہ نہیں کرتی بلکہ اس کے اصولوں پر حملہ کرتی ہے اور اس حملہ کا مدعا یہ نہیں ہے کہ اس سے زبردستی اس کے اصول چھڑاتے جائیں، بلکہ مدعا صرف یہ ہے کہ اس کے اصولوں سے حکومت کی طاقت چھین لی جائے۔

ذمیوں کی حیثیت میں سے یہ سوال بھی حل ہو جاتا ہے کہ اسلامی نظام حکومت میں ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے جو کسی دوسرے عقیدہ و مسک کے تبعیح ہوں اسلام کا جہاد لوگوں کے عقیدہ و مسک اور ان کے طریقی عبادت یا قوانین معاشرت سے تعریض نہیں کرتا۔ وہ ان کو پوری آزادی دیتا ہے کہ جس عقیدہ پر چاہیں فائم رہیں اور جس مسک پر چاہیں چلیں۔ البنت وہ ان کے اس حق کو تسلیم کرنے بے انکار کرتا ہے کہ ایسے کسی طریقہ پر حکومت کا نظام چلاتیں جو اسلام کی نگاہ میں غاید ہے۔ نیز وہ ان کے اس حق کو بھی نہیں مانتا کہ وہ معاملات کے ان طریقوں کو اسلامی نظام حکومت میں جاری رکھیں جو اسلام کے نزدیک اجتماعی فلاح کے لیے چکراں میں۔ مثلاً وہ حکومت کا نظام ہاتھ میں لیتے ہی سُودی کاروبار کی تمام صورتوں کو مسدود کر دے گا۔ جو شے کی ہرگز اجازت نہ دیگا۔ خرید و فروخت اور مالی لین دین کی ان تمام شکلوں کو روک دیگا جو اسلامی قانون میں حرام ہیں قبیلہ خانوں اور فواحش کے اڈوں کی کلیتہ بند کر دے گا۔ غیر مسلم عورتوں کو متسرکے کم کے کم حدود کی پابندی کرنے پر مجبور کر دے گا اور انہیں ترشیح جا پکت کے ساتھ پھر نے سے روک دے گا، بنیما پر احتساب قائم کرے گا اور تمام غیر اخلاقی عنابر کو اس کے

نکال دے سکا۔ کسی گروہ کو مخلوط تعلیم کی اجازت نہ دیگا۔ اس قسم کے اور بہت سے امور میں جن میں ایک اسلامی نظام حکومت نہ صرف اجتماعی فلاح و بہبود کی خاطر بلکہ اپنے تحفظ (Defence) کی خاطر بھی ان تینی معاملات کی اجازت نہ دیگا جو غیر مسلموں کے مسلمانوں میں چاہے ناجائز نہ ہوں، مگر اسلام کی نکاح میں موجب فساد و بلا کرت ہیں۔

اس باب میں اگر کوئی شخص اسلام پر ناروا داری کا اذام عائد کرے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے کسی انقلابی و اصلاحی مسلمانے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ آشی ردا داری نہیں برقراری ہے جتنی اسلام برپتا ہے۔ دوسری جگہ تو اپنے دیکھنے کے غیر مسلم والوں کے لیے زندگی ووجہ کر دی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ وطن چھوڑ کر نکل جانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ لیکن اسلام غیر مسلم والوں کو پورے امن کے ساتھ ہر قسم کی ترقی کرنے کا موقع دیتا ہے، اور ان کے ساتھ ایسی فیاضی کا برپتا ہوتا ہے جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔

اپنے مذہم کا شہر ایسا ہے پسخ کر مجھے پھر اس بات کا اعتماد کرتا چاہیے کہ اسلام کی نظر میں جہاد و صرف وہی ہے جو شخص فی سبیل اللہ ہو، اور اس جہاد کے نتیجہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہو تو مسلمانوں کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ قیصر و کسری کو ٹھیک کر خود ان کی جگہ لے لیں مسلمان اس لیے نہیں ٹھیک اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں ٹھیک کہ اس کی ذاتی حکومت قائم ہو جائے، اور وہ خدا کے بندوں کو اپنا بندہ بنائے اور ناجائز طور پر لوگوں کی کاٹھی مختشوں کا روپیہ وصول کر کے اپنے لیے زمین میں جنتیں بنانے لگے۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں بلکہ جہاد فی سبیل الطاغوت ہے، اور ایسی حکومت کو اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ اسلام کا جہاد تو ایک خشک اور بے فره محنت ہے جس میں جان، سلطہ اس کی تازہ ترین مثال روس کا انقلاب اشتراکی ہے جس کی تاریخ خللم و خوزی میں اپنا نظیر نہیں رکھتی۔

مال اور خواہشاتِ نفس کی قربانی کے سوا اور کچھ نہیں۔ اگر یہ جہاد کا میاب ہو تو  
تیجہ میں حکومت مل جاتے تو سچے مسلمان حکمران پر ذمہ دار یوں کا اس قدر بخاری  
بوجھے عائد ہو جاتا ہے کہ اس غریب کے لیے راقوں کی نیزد اور ون کی آسائش  
میک حرام ہو جاتی ہے۔ مگر اس کے معاوضہ میں وہ حکومت و اقتدار کی ان لذتوں  
میں سے کوئی لذت بھی حاصل نہیں کر سکتا جن کی خاطر دنیا میں عموماً حکومت حاصل  
کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسلام کا فرمانروانہ توزیعیت کے عام افراد سے  
متاز کوئی بالآخرستی ہے، نہ وہ عظمت و فضیلت کے تخت پر بلیچھ سکتا ہے، نہ  
اپنے آنکے کسی سے گروں جھکو سکتا ہے، نہ قانونِ شریعت کے خلاف ایک پتہ  
ہلا سکتا ہے، نہ اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ اپنے کسی غریب زیاد وسیت یا خود اپنی  
ذات کو کسی ادنیٰ سے ادنیٰ ہتی کے جائز مطالیہ سے بچا سکے، نہ وہ حق کے  
خلاف ایک جید سے سکتا ہے اور نہ پتہ چہہ بھر زمین پر قبضہ کر سکتا ہے، ایک متوسط  
درجہ کے مسلمان کو زندگی ببر کرنے کے لیے حصہ نخواہ کافی ہو سکتی ہے اس سے  
زیادہ بیت المال سے ایک پاکی بینا بھی اس کے لیے حرام ہے۔ وہ غریب نہ  
عالیشان قصر بنو سکتا ہے، نہ خدم و حشم رکھ سکتا ہے، نہ عیش و محشرت کے  
سامان فراہم کر سکتا ہے۔ اس پر ہر وقت یہ خوف غالب رہتا ہے کہ ایک  
دن اس کے اعمال کا سخت حساب لیا جائے گا اور اگر حرام کا ایک پیسہ، جہر سے  
لی ہوئی زمین کا ایک پتہ، سکیر و فرعونیت کا ایک شتمہ، ظلم و لیے الفضائی کا ایک  
دھبہ اور خواہشاتِ نفسانی کی بندگی کا ایک شاہر بھی اس کے حساب میں غل  
آیا تو اسے سخت سزا ہجتی ہوگی۔ اگر کوئی شخص حقیقت میں دنیا کا لامبی ہو تو  
اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہ ہوگا اگر اسلامی قانون کے نامہ کے  
حکومت کا بار بسنجانے پر آمادہ ہو، کیونکہ اسلامی حکومت کے فرمانرواء سے  
بازار کے ایک معمولی روکاندار کی پوزیشن زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ وہ دن کو  
خیفہ سے زیادہ کاتا ہے اور رات کو آرام سے پاؤں پھیلای کر سوتا ہے، خلیفہ

بیچارے کے کوئے اس کے برابر آمدی نصیب اور نہ رات کو بیین سے سونا ہی نصیب۔  
 یہ بینا وی فرق ہے اسلامی حکومت اور غیر اسلامی حکومت میں غیر اسلامی حکومت میں حکمران گروہ  
 اپنی خدا و مددی قائم کرتا ہے اور اپنی ذات کے لیے ملک کے دستائل و ذرائع  
 استعمال کرتا ہے۔ بخلاف اس کے اسلامی حکومت میں حکمران گروہ مجرد خدمت  
 کرتا ہے اور عامہ باشندوں سے ٹڑھ کر اپنی ذات کے لیے کچھ حاصل نہیں کرتا۔  
 اسلامی حکومت کی سول سرسوں کو جو تاخواہیں ملتی تھیں، ان کا مقابل آج کل کی یادخود  
 اس دور کی اپیسریٹ طاقتلوں کی سول سرسوں کے مشاہر دل سے کر کے دیکھیں  
 آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کی جہاں کتابی اور اپیسریٹزم کی عالمگیری میں  
 ردحی و جوہری فرق ہے۔ اسلامی حکومت میں خراسان، عراق، شام اور مصر  
 کے گورنوں کی تاخواہیں آپ کے معمولی انسپکٹروں کی تاخواہیوں سے بھی کم تھیں  
 خدیفہ اول حضرت ابو بکر صدیقی صرف سورہ پے ہمیں پر اتنی بڑی سلطنت  
 کا انتظام کرتے تھے۔ حضرت عمر بن کلی تاخواہ ڈریڑھ سورہ پے سے زیادہ نہ تھی  
 دراں حاکیکیہ بیت المال و دنیا کی دو عظیم الشان سلطنتوں کے چھوڑے ہوئے  
 خزانوں سے بھر پور ہوتا۔ اگرچہ ظاہر میں اپیسریٹزم بھی ملک فتح کرتا ہے  
 اور اسلام بھی۔ مگر دونوں کے جوہر میں زمین و آسمان کابل ہے۔  
 پرواہز ہے دونوں کی اسی ایک فضاییں

کر گس کا جہاں اور ہے شاہیں کا جہاں اور

یہ ہے اس جہاد کی حقیقت جس کے متعلق آپ بہت کچھ سنتے رہے ہیں۔  
 اب اگر آپ مجھ سے دریافت کریں کہ کچھ اسلام اور مسلم جماعت اور جہاد کا وہ  
 تصور جو تم پیش کر رہے ہو کہاں غائب ہو گیا، اور کیوں دنیا بھر کے مسلمانوں  
 میں کہیں بھی اس کا شابتہ تک نہیں پایا جاتا، تو میں عرض کروں گا کہ یہ سوال مجھ سے  
 نہ کیجیے بلکہ ان لوگوں سے کیجیے جنہوں نے مسلمانوں کی توجہ ان کے اصلی مشن سے  
 ہٹا کر تعمید گندہوں اور عملیات اور مراقبوں اور ریاضتوں کی طرف پھیر دی۔

جنہوں نے نجات اور فلاح اور حصولِ مقاصد کے لیے شارط کٹ تجویز کیے تاکہ مجاہدے اور جانشناختی کے بغیر سب کچھ تسبیح پھرانے یا کسی صاحبِ قبر کی عنایات حاصل کر لیئے ہی سے میسر آجائے جنہوں نے اسلام کے کلیات اور اصول اور مقاصد سب کو پیش کرتا رکیب گوشوں میں پھینک دیا اور مسلمانوں کے ذہن کو امین بالجہرا درفعہ پیدا کر لیا اور ایصالِ ثواب و زیارتِ قبور اور اسی قسم کے بیشمار جزئیات میں ایسا پھنسایا کہ وہ اپنے آپ کو ادا پانے مقصدِ تخلیق کو اور اسلام کی حقیقت کو فلسفی بھجوں گئے۔ اگر اس سے بھی آپ کی تشخیص ہو تو پھر یہ سوال ان امرا اور اصحابِ افتخار کے سامنے پیش کیجئے جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانتے کا دعوے تکرستے ہیں مگر قرآن کے قانون اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا اس سے زیادہ کوئی حق اپنے اور تسلیم نہیں کرتے کہ کبھی ختمِ قرآن کراویں اور کبھی حید میلان کے جلسے کراویں اور کبھی اللہ میان کو نعوذ باللہ ان کی شاعری کی دادوے دیا کریں۔ رہا اس قانون اور ہدایت کو عملاناً نافذ کرنا، تو یہ حضرات اپنے آپ کر اس سے بری الذمہ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ حقیقت ان کا نفس ان پابندیوں کو قبول کرنے اور ان ذمہ داریوں کا بوجھ سنبھالنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے جو اسلام ان پر عائد کرتا ہے۔ یہ بڑی سنتی نجات کے طالب ہیں۔

ترجمان القرآن ربیع الاول شہر ۱۳۹۷ھ

# آزادی کا اسلامی صور

ایک صاحب تحریر فرماتے ہیں:

”سورہ احزاب میں حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہما کا جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کے مسئلہ میں ایک اہم شبہ پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا آمسیٹ علیک رَوْحَجَكَ وَاثِقٌ (حزب) (اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں رہنے دے اور اللہ سے ڈر) مگر حضرت زینب نے اس حکم نبوی کی خلاف مذکوری کی اور حضرت زینب کو طلاق نہیں دی۔ اس فعل کے خلاف حکم ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں اور قرآن کے انداز بیان میں حراثت یا کنیتہ الیسی کوئی بات بھی نہیں پائی جاتی جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کی اس سترگاہ کو ادنیٰ درج بھی نہ پسند کیا ہو، بلکہ بیان واقعہ کی ابتدا میں ان کا ذکر لائی ہے آنحضرت اللہ علیہ السلام (حزب: ۲۷) جس پڑھنے لئے حکم کیا کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی کے حکم کی خلاف درزی بھی کی جاسکتی ہے اور بنی کا قول اگر ثابت بھی ہو جاتے کہ بنی ہی کا قول ہے تب بھی وہ اس طرح واجب الاطاعت نہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کافر ان واجب الاطاعت ہے“

سوال میں کوئی ہیچیدگی نہیں۔ چند لفظوں میں شبہ کو فتح کیا جاسکت تھا۔ لیکن دو اصل شبہ جہاں سے پیدا ہوتا ہے وہاں متعدد خلط فہمیوں کا نتیجہ ہے۔ اور ان خلط فہمیوں کا سلسلہ دو تک پہنچا ہوتا ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس شبہ کو فتح کرنے کے ساتھ اس کی اصل اور اس کے فروع کی طرف بھی کچھ اشارات کر دیجئے جائیں۔

قرآن حکیم تمام آسمان کتابوں سے زیادہ صراحت کے ساتھ اس امر کا اعلان کرتا ہے کہ حاکم مطلق بجز اللہ کے اور کوئی نہیں، اِنَّ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِۚ صرف اسی کو یہ حق ہے کہ جیسا چاہے حکم دے، اَنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ<sup>۱</sup>۔ وہی ایک ایسا حاکم ہے جس کے احکام میں کسی چون وچرا کی کنجائش نہیں لَا يَسْتَدِعُ عَمَّا يَفْعَلُ۔ اطاعت اسی کی فرض ہے اور اس لیے فرض ہے کہ انسان اپنی عین خلقت کے محافظے اس کا بندہ ہے اور دراصل صرف اسی کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ  
الْجِنَّةَ وَالْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ<sup>۲</sup>۔ اس کے سوا انسان کسی کا مخلوق ہے نہ بندہ نہ پروردہ، اس لیے دراصل کسی انسان پر کسی دوسرے انسان کی اطاعت فرض نہیں یَعْوَذُنَّ هَلْ تَأْمِنُ أَلَا مَرِimْ شَيْءٍ عَرْ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كَلَّهُ يَعْلَمُ۔ کسی انسان کرنہ تو دوسرے انسان پر حاکمیت مطلقاً (Absolute Authority) حاصل ہے اور نہ کسی انسان پر یہ واجب کیا گیا ہے کہ خدا کے سوا کسی اور کے حکم کی اطاعت کرے محض اس بنا پر کہ وہ اس خاص شخص کا حکم ہے۔

قرآن کے نزول کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان کی گردن سے غیر اللہ کی اطاعت کا مکارہ نکال دے اور اللہ یعنی مطابع حقیقی (Real Sovereign) کا بندہ بنانے کے بعد اس کو راستے اور ضمیر کی پوری آزادی عطا کرے۔ چنانچہ انسانی غلامی کے خلاف سب سے بڑھ کر جس کتاب نے خداویگا ہے وہ قرآن ہی ہے۔ یہ کتاب کسی انسان کا یہ حق تسلیم نہیں کرتی کہ بطور خود اس کے حال کیسے ہوتے کو حلال اور اس کے حرام کیسے ہوتے کہ حرام سمجھا جائے اور اس کے حکم اور اس کی مانعت کی اس طرح اعتماد کی جائے کہ گیا وہ اپنے مکوموں کے لیے بمنزلہ خدا ہے۔ اس قدر کی اطاعت اور

لے خدا کے سوا کسی کے لیے حکم نہیں۔ (انعام: ۵) ۳۰۷ اللہ جو چاہے حکم دے۔ (مايد: ۴)

اس کے کام میں سوال نہیں کیا جاسکتا۔ (نبیاء: ۲۲)

لگہ میں نے جن اور انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ (الذاريات: ۶۷)

وہ دو پوچھتے ہیں کہ حکم میں چار بھی کچھ حصہ ہے؟ کپڑوں کی پورا کا پورا اللہ کے لیے ہے۔ (عمران: ۵۵)

محمدی کو قرآن شرک کا ایک شعبہ قرار دینا ہے اور جو لوگ اپنے علماء و شائخ کو، پندتوں اور پروتھیوں کو، اور دنیوی حاکموں کو ارباب من دُون اللہ (Gods other than God) بنایتے ہیں، انہیں مشرک خہرا تا ہے۔ یہ نظر انہیں جب کسی انسان کی ایسی اطاعت کرے گا، تو لا محالہ اس کی آہ میں الوبت کا تصور اور عبودتیت کا جذبہ ہی کار فرمائے گا۔ ایک انسان دوسرے انسان کے مقابلہ میں اپنے دل اور دماغ اور روح اور جسم کی آزادی سے کھلیتہ و متبردار ہوتا ہی اس وقت ہے جب وہ اس کو یا تو خطاء سے بری اور عیوب و تعلاق سے پاک اور جزو کل کا عالم سمجھ لیتا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ وہ ذاتی حق کی بنابر امر و نہی کا مالک ہے اور اسے حکومت کا طبیعی حق حاصل ہے، یا یہ گمان کرتا ہے کہ وہی دراصل نفع اور نقصان پہنچانے والا اور رزق دینے اور رزق روکنے والا ہے۔ خدا کے سوا کسی دوسری ہستی کو ان صفات کا حامل سمجھنا ہی شرک اور غلامی کی جڑ ہے۔ اور توحید۔ جس کا لازمی تجیہ آزادی ہے۔ یہ ہے کہ خدا کے سوا تما چیزوں کو ان صفات سے خالی سمجھا جاتے اور ان کے حق حکمرانی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جاتے۔

یہ مقدمہ ذہن لشیں کر دینے کے بعد، اب اس امر کی تحقیق کیجیے کہ نبی کی اعلیٰ جو اسلام میں فرض کی گئی ہے، اور جس پر دین کا مدار ہے، یہ کس حیثیت سے ہے یہ اطاعت اس حیثیت سے ہرگز نہیں ہے کہ نبی وہ خاص شخص مثلاً ابن عمران، یا ابن مریم، یا ابن عبد اللہ ہے، اور یہ شخص خاص ہونے کی بنابر اس کو حکم دینے اور منع کرنے کا، حلال کرنے اور حرام بھیرنے کا حق حاصل ہے۔ اگر ایسا ہو تو معاویہ نبی خود بھی ارباب من دُون اللہ میں سے ایک ہو جاتے گا، اور اس طرح خود اسی کے ہاتھوں وہ مقصر فوت ہو کر رہے گا جس کے لیے وہ نبی بنائے بھیجا گیا ہے۔ قرآن نے اس مسئلہ کو نہایت واضح اخلاق میں صاف کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ذاتی حیثیت میں تو نبی دیبا ہی ایک بشر ہو قل بیبحان تی ہل

كُنْتَ إِلَّا بِسُوْلًا رَّسُولَ اللَّهِ ابْرَاهِيمَ وَقَاتَ لَهُمْ رَسُولُهُمْ عَلَيْهِ الْأَبْشُرُ مُشَكِّرٌ - (ابراهیم: ۱۱)

البنت نبی ہونے کی حیثیت سے اس میں اور تم میں عظیم اشان فرق ہے۔ اس کو خدا کی طرف سے جب ببوت عطا کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ "حکم" بھی عطا ہوتا ہے۔

**أُولُئِكَ الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ فَالْتَّقْوَةُ تِبْيَانٌ وَالْفَاعِمُ**: حکم کے مخوب میں قیمت فیصلہ (rule : n. m.) اور اقتدار حکومت (Authority) ورنوں شامل ہیں۔

پس نبی کو جو اقتدار حاصل ہے وہ ذاتی اقتدار نہیں بلکہ تفویض کردہ اقتدار ہے۔ اس لیے اس کی اطاعت دراصل خدا ہی کی اطاعت ہے، مَنْ يَطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ رَبَّنَا، (۱۰) یہ سچا ہے اس لیے جو اس کے کو خدا کی طرف سے اس کے احکام نافذ کرے اور تم ان احکام کی اطاعت کرو، وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا يُبَيَّنَ مَا ذُنِّنَ اللَّهُ شَهِيدٌ (النساء: ۶۷) اس حیثیت میں سکل حکم خدا کا حکم ہے اور کسی کو اس میں چون وچرا کرنے کا حق نہیں، وَمَنْ يُشَاتِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فَوَلِهِ مَا تَوَلَّ وَنُصِّلُهُ جَهَنَّمَ وَمَاهَشَ مُصِيرًا (النحل: ۱۱۵) عمل تو درکنار اگر دل میں بھی اس کی نافرمانی کا خیال آجائے تو قطعاً ایمان سلب ہو جاتا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا كُوُمِنُونَ حَتَّى يُجَيِّمُوكَ فِيمَا شَجَرْتُمْ هُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُونَا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجٌ جَمِيْماً قَضَيْتَ وَلَيَسْتَمُوا لَهُمْ - اور اس نے فرمائی (النہار: ۶۵)

لہ آئے نبی ان سے کہو کہ پاک ہے میرا رب۔ کیا میں اس کے سوال بھی کچھ ہوں کہ ایک انسان ہوں چے چیزیں زیادا گایا؛ ملہ اور ان سے ان کے پیغمبر وہی کہا کہ ہم تمہارے ہی جیسے انسان ہیں گے یہ پیغمبر دہ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکم اور ببوت عطا کی۔ لہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی طلاق کی۔ لہ ہم نے جو نبی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اتنے کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ لہ جو شخص ہدایت کے راست پر جا بانیکے بعد نبی سے جو گزار کرے اور اسی طرفی اختیار کرے جو ایمان لانے والوں کے طلاق سے مختلف ہو تو جو حصہ مڑیا ہے اسی طرف ٹوڑ دیجئے اور اسے جنم میں جنم دیجئے اور وہ بہت سی جائے قدر ہے۔ لہ خدا کی قسم وہ ہرگز نہیں نہ ہونگے جنک کہ آپ کے اختلافات میں تجوہ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کریں اور جو کچھ فیصلہ کرے اس پر اپنے دل میں بھی کوئی ملکی محسوس نہ کریں بلکہ اس کے آگے تسلیم ختم کر دیں۔

لَا تَقْبِلْ أَيْدِيَ خُرَانٍ وَمَهْرَادِيٍّ هُوَ يَوْمَ الظِّلَّةِ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ كَوْتَشْوَىٰ بِحِجْرِ الْأَكْرَبِ فَلَهُ (النَّارُ: ۲۲)

جیسا کہ اوپر اشارہ کیا گیا یہ اطاعت اور کامل پرورگی جس پر دین والیمان کا لام رکھا گیا ہے اور جس کے متعلق صاف کہدا یا گیا ہے کہ ہدایت سربرتری کی اطاعت پر منحصر ہے ۔ (وَإِنْ تُطِيعُونَا هَتَّدُ وَإِنْ هُنَّا مَنْ هُنْ) اس کا مرجع نبی کی انسانی اور شخصی حیثیت میں ہے کسی نبی کو اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ لوگوں کو خدا کے بجائے اپنا غلام اور اپنا بندہ بناتے، بلکہ صرف اس لیے بھیجا ہے کہ وہ ان کو خدا کا تابع فرمان بناتے،  
 مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يَؤْتِيهِ اللَّهُ أَنْكِتَهُ وَالْحُكْمُ وَالْغَيْوَةُ ثُمَّ يَقُولُ إِنَّا بِكُوْنِكُوْنَهُ عَبَادًا تِيْمِنْ دُوْنَ اللَّهِ وَلَكُنْ كُوْنُوْرَ بَارَ بَارِتِيْنَهُ وَلَلْعَرَانِ: ۹) وہ اس لیے نہیں کیا کہ لوگوں کو  
 اپنی ذاتی خواہشات کی پروردی پر مجبور کرتے، اپنی شخصی عظمت و بزرگی کا سکران پر جاتے اور ان کو اپنے شخصی اقتدار کے شکنہ میں کس کراس قدر بے بس کروئے کہ وہ اس کی راستے کے مقابلہ میں خود کو تی راتے رکھنے کے حق سے بالکل مستبدار ہو جائیں اور اپنے دل و دماغ کو اس کے سامنے معطل کر دیں۔ یہ تو وہی غیر اللہ کی بندگی ہوئی جس کو منانے کے لیے نبی بھیجا جاتا ہے۔ انسان کی گردان میں جتنے طبق انسان نے ڈالے ہیں ان سب کو کاٹ دینا ہی تو نبی کی بعثت کا مقصد ہے، وَلَيَضُعَ عَنْهُمْ حُكْمٌ وَلَلَّا يُنَلِّلَ اللَّقِيْتَ كَاتَشَ عَلَيْهِمْ دَلَهُ (روم: ۶۵) انسان نے انسان کیتے فرائض اور حقوق مقرر کئے اور جائز نہ ترا جائز کی من مانی حدیں ٹھہرانے کے جن اختیارات پر قبضہ کر رکھا تھا ان کو

لہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، قیامت کے روز ان پر الیٰ صیبت پڑے گی کہ وہ پاہیں گے کر زمین اپنے پاٹ دی جاتے ہیں کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ جب احمد اس کو کتب اور حکم اور بوتے بخششے تو وہ لوگوں سے کہہ کر تم خدا کے بخلتے میرے بندے بن جاؤ نہیں، بلکہ وہ کہے گا کہ تم خدا کے بندے ہو۔ یہ اور یہ نبی ان پر سے وہ بوجھ آتا تھا ہے جو ان پر لے رہے ہوئے تھے اور ان بندھنوں کو تلوڑتا ہے جن میں وہ بندھے ہوتے تھے۔

سلب کرنے ہی کے لیے تر نبی امور کیا جاتے ہے فَلَمَّا تَقْوَىٰ لَهُ مَا تَصْنَعُ فَأُسْتَكْمَدْ  
الکذبُ هذَا حَلَالٌ وَهذَا حَرَامٌ (الخیل: ۵) انسانی حکم فحیل کے سامنے سر جھکانے  
کی جو زلت انسان نے اختیار کر لی تھی اس سے بحاثت دلانے ہی کے لیے تر نبوت  
قائم کی جاتی ہے، فَلَا يَجِدُ بَعْضُنَا بَعْضًا آرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ (آل عمران: ۶۲)  
پھر کہون کہ جائز ہو سکتا ہے کہ نبی انکی گردنوں سے دوسروں کا طوق آتا کر اپنا طوق ڈال دے اور  
تخیل و تحریم کے اختیارات دوسروں سے چین کو خود اپنے قبضہ میں کر لے اور استبداد  
کی مند سے دوسروں کو ٹھاکر خود اس پرستکن ہو جاتے۔ اس نے تو پیور و نصاری کو  
اسی پر ملامت کی تھی کہ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَوْ بَابَيْنَ دُونِ اللَّهِ  
(التوبہ: ۱۳) پھر وہ کیسے کہتا کہ اب تم خدا کو چھوڑ کر مجھ کو رب بنا لو اور میری  
خواہشاتِ نفس کی پائی کر د

اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بار بار اس حقیقت کا اعلہا کر لتا ہے کہ وہ  
اطاعت جو مون پر فرض کی گئی ہے، جو اصل ایمان ہے، اور جس سے کسی مون کو  
ست رہا کیا معنی یہ سرہم انجرات کا بھی حق نہیں، وہ دراصل نبی محیثیت انسان کی طاقت  
نہیں ہے بلکہ نبی محیثیت نبی کی اطاعت ہے۔ یعنی اس علم، اس ہدایت، اس حکم اور  
اس قانون کی اطاعت جسے اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے اس کے بندوں تک پہنچاتا ہے۔  
پس درحقیقت اسلام جس اطاعت کی بندش نہیں انسان کو باندھتا ہے، وہ دراصل  
انسان کی اطاعت نہیں بلکہ خدا کی اطاعت ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ  
بَلْ تَكُونُ مِنَ النَّاسِ بَلَّا أَرَأَكَ اللَّهُ  
لِتُعْلَمَ بَلْ مِنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔

لہ تم کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی زبانی سے جس چیز کو چاہو حلال کرو اور جسے چاہو منوع ٹھہراو۔  
لہ ہم میں سے کوئی انسان کسی دوسرا سے انسان کو اللہ کے بھارتے اپنا خدا نہ بناتے۔  
لہ انہوں نے اپنے علما اور مشائخ کو اللہ کے بھارتے اپنا خدا بنالیا۔

فیصلہ کر دجو افسوس نے تم کو دکھایا ہے۔

النہام : ۱۰۵

وَمَنْ لَهُ حِكْمَةٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
اُدْرِجُوا فَأُشْرُكُكُمْ بِمَا لَمْ يُؤْمِنُوا  
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ (النَّمَاءَ ۹۵)

اس آیت میں جس طرح دوسرے انسان بندھے ہوتے ہیں اسی طرح خود نبی

بیچشت انسان بھی بندھا ہوا ہے:-

میں تو صرف اسی چیز کی پیری کرتا ہوں

إِنَّ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ

جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔

الانعام : ۱۵۰

یہ اور ایسی ہی بہت سی آیات اس امر پر واضح دلالت کرتی ہیں کہ اطاعت دراصل صرف حق تعالیٰ شان کی ہے، اور اسلام آیا ہی اس لیے ہے کہ غیر اللہ کی بندگی اور انسان پر انسان کی خداوندی کا قلع قمع کر دے۔ اسلام میں کسی انسان کی اطاعت بیچشت انسان ہونے کے نہیں ہے۔ نبی کی اطاعت ہے تو اس بنا پر ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو "حکم" عطا کیا گیا ہے۔ حکام کی اطاعت ہے تو اس بنا پر کردہ اللہ اور رسول کے احکام کو نافذ کرنے والے ہیں۔ علماء کی اطاعت ہے تو اس بنا پر کردہ خدا اور رسول کے امر و نہی اور اس کے متفرد کیے ہوتے حدود سے آگاہ کرنے والے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی شخص خدا کا حکم پیش کرے تو مسلمان پر واجب ہے کہ اس کے آگے سر جھکا دے۔ وہ اس میں ہرگز چون وچرا کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اس کو خود کے مقابلہ میں کوئی حریت فکر اور آزادی رائے حاصل نہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان خدا کا نہیں، خود اپنا کوئی خیال پیش کرے۔ تو مسلمان پر اس کی اطاعت فرض نہیں۔ وہ آزادی کے ساتھ خود سوچنے اور رائے قائم کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اس کو آزاد نہ اتفاق کرنے کا بھی اختیار ہے اور آزادانہ اختلاف کرنے کا بھی۔ اس معاملہ میں عالم اور حکام تو درکنار، خود نبی کی ذاتی رائے سے بھی اختلاف کرنے میں کوئی چیز مانع نہیں ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ایک حصہ یہ تھا کہ خدا کی اطاعت فرمائرواری

کا قلاوہ انسان کی گردن میں ڈال دیں۔ اور دوسرا حصہ یہ تھا کہ انسان کی اطاعت نے  
 فرمائی تھی کہ اس کی گردن سے اتار بچنے لیکن۔ یہ دونوں کام آپ کے مقصد  
 بعثت میں شامل تھے اور دونوں کی اہمیت یکساں تھی۔ پہلے کام کی تکمیل کے لیے  
 ضروری تھا کہ جب ہونے کی حیثیت سے آپ تمام مسلمانوں کو اپنی کامل اور غیر مشروط  
 اطاعت پر مجبور کریں۔ یکونکہ آپ کی اطاعت ہی پر خدا کی اطاعت موقوف تھی۔  
 اس کے مقابلہ میں دوسرے کام کی تکمیل کے لیے یہ بھی اتنا ہی ضروری تھا کہ سب سے  
 پہلے آپ خود اپنے عمل اور اپنے برداشت سے یہ حقیقت مسلمانوں کے ذہن نشین کر دیں کہ  
 کسی انسان کی ہتھی کہ خود محمد بن عبداللہ حیثیت انسان کی اطاعت بھی ان پر واجب  
 نہیں ہے اور ان کی روایت انسان کی بندگی سے قطعی آزادی میں۔ یہ دراصل ایک نہایت  
 نازک کام تھا۔ ایک ہی ذات میں حیثیت بیوت اور حیثیت بشریت، دونوں جمع ہتھیں  
 اور ان کو کسی واضح خط انتیاز کے ساتھ رکھنے کی وجہ سے جدرا نہیں کیا جاسکتا تھا۔  
 مگر اللہ کے رسول پاک نے اللہ کی بخشی ہوئی حکمت سے اس کام کو بہترین طریق پر بخواہی  
 دیا۔ آپ نے ایک طرف نبی ہونے کی حیثیت سے اپنی ایسی اطاعت کرانی کرتا ہی بخ  
 عالم میں کبھی کسی امیر کی ایسی اطاعت نہیں کی گئی۔ اور دوسری طرف انسان ہونے کی  
 حیثیت سے آپ نے اپنے جان شارطیہ کو ایسی آزادی راستے عطا کی کہ دنیا کے  
 کسی بڑے سے بڑے جمہوریت پسندیدار نے بھی اپنے ماختوں کو ایسی آزادی نہیں بخشی۔  
 اگر کوئی شخص اس امر پر غور کرے کہ نبی ہونے کی حیثیت سے آپ کو اپنے پیروں کو کتنا  
 بڑا اقتدار حاصل تھا اور مسلمان کتنی گہری عقیدت آپ کے ساتھ رکھتے تھے اور پھر دیکھے  
 کہ اتنا زبردست اقتدار رکھنے کے باوجود آپ کس طرح معاشرت اور معاملات میں  
 ہمیشہ اور ہر وقت اپنی پیغمبرانہ حیثیت اور انسانی حیثیت کو الگ الگ رکھتے تھے،  
 اور پیغمبرانہ حیثیت میں اپنی بے چون و چرا اطاعت کرانے کے ساتھ انسانی حیثیت  
 میں لوگوں کو کتنی مکمل آزادی راستے عطا فرماتے اور خود اپنی ذاتی آراء سے اختلاف  
 کرنے میں کس طرح ان کی بہت افزائی کرتے تھے، تو اسے ماننا پڑے گا کہ پیر کاں وصی

کا فیصلہ نفس، یہ حیرت انیک قوت اور الیکی مکمل بصیرت صرف ایک بنی ہبی کو علیم  
آسکتی ہے۔ اس مقام پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بنی کی شخصی حیثیت الگ ہونے کے  
باوجود اس کی پیغمبرانہ حیثیت میں گرم ہو جاتی ہے۔ بنی اپنی شخصی حیثیت میں بھی پیغمبری  
کے فرائض انجام دیتا ہے۔ وہ جب اپنی شخصی حیثیت میں کام کرتا ہے تو اس وقت  
وہ اپنے پیروں میں آزادی فکر کی روح پھونکتا ہے، صحیح جمہوری اصولوں پر ان  
کی تحریک کرتا ہے، انہیں سکھاتا ہے کہ انسان کے مقابلہ میں ان کو کس طرح آزادی  
راتے استعمال کرنی چاہیے، اور انہیں بتاتا ہے کہ آزادی راتے کا حق ان کو انسان  
کے مقابلہ میں حاصل ہے حتیٰ کہ اس انسان کامل، اس عظیم الشان شخصیت کے مقابلہ  
میں بھی وہ راتے کی پوری آزادی رکھتے ہیں جس کو وہ خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے  
بلند ترین اقتدار کا درجہ دینے پر مجبور ہیں۔ بنی کے سوا کسی دوسرے کو لوگوں پر ایسا  
مکمل اقتدار نصیب ہو تو وہ ضرور ان کو اپنا بندہ بنالے اور ان پر اپنے وہی حقوق  
چھاتے جو دنیا میں پیروں اور پنڈتوں اور بادشاہوں نے جما کر دکھا دیتے۔ حضور  
فرماتے ہیں کہ:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمْرُتُ تَكُونُ  
بِشَّارٍ إِذَا مُنْهَى دُبُّنِكُمْ فَخَذُوا بِهِ وَاذَا  
أَمْرُتُكُمْ بِشَّارٍ مُنْهَى رَأَيْتُمْ فَإِنَّمَا أَنَا  
بَشَّارٌ۔

میں بھی ایک انسان ہی ہوں جب میں تم کو  
تھارے دین کے متعلق کوئی حکم دوں تو اے  
مانو۔ اور جب میں اپنی راتے سے کچھ کہوں  
تو میں بھی ایک انسان ہی ہوں۔

ایک مرتبہ حضور نے مدینے کے باعثاً نوں کو کھجور کی کاشت کے متعلق ایک  
مشورہ دیا۔ لوگوں نے اس پر عمل کیا مگر وہ مفید ثابت نہ ہوا۔ آپ سے اس بارے  
میں عرض کیا گیا تو جواب میں آپ نے فرمایا:

إِنِّي أَنَّمَا ظَنَنتُ خَلَقْتُ وَلَا  
تُوَلِّ خِدْمَةَ فِي بِالْفَطْنَةِ وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ  
عَزْ أَدْلُّ شَيْئًا خَذُوا بِهِ فَإِنِّي

میں نے تو انداز میں ایک بات کی تھی تم  
میری ان یاتوں کو نہ لو جو گان اور راتے  
پر مبنی ہوں۔ میں جب میں خدا کی طرف سے

لَمْ أَكُنْ ذِبْعَ عَلَى اللَّهِ -

کچھ بیان کروں تو اس کوئے دو کیونکہ میں نے  
خدا پر کبھی جھوٹ نہیں باندھا۔

جنگ پدر کے موقع پر حضور ابتداء میں جہاں خمیمہ زدن ہوتے تھے وہ جگہ مناسب نہ  
تھی۔ حضرت حباب بن منذر نے آپ سے دریافت کیا کہ اس مقام کا انتخاب وحی کے  
ذریعہ سے کیا گیا ہے یا محض ایک تدبیر جنگ کے طور پر ہے؟ فرمایا وحی نہیں ہے۔  
انہوں نے عرض کیا کہ اگر ایسا ہے تو میری راستے میں آگے بڑھ کر فلاں مقام پر خمیمہ  
ہونا چاہیے۔ حضور نے ان کی راستے کو قبول فرمایا اور اسی پر عمل کیا۔

اسیہ راں پدر کے مشکلہ میں حضور نے صحابہ کی جماعت سے مشورہ لیا اور خود بھی  
ایک عامر رکن جماعت کی حیثیت سے راستے دی۔ اس موقع پر حضرت عمرؓ نے  
آپ کی اور صدیقؓ اکبرؓ کی راستے سے بے تکلف اختلاف کیا جس کا واقعہ تمام  
تاریخوں میں مشہور ہے۔ اسی مجلس میں حضور نے خود اپنے داماد لیلوالا العاص کا مشکلہ بھی  
پیش کیا اور صحابہ سے فرمایا کہ اگر تمہاری مرضی ہے تو ان سے فدیہ میں جو ہار لیا گیا ہے  
وہ انہیں واپس کر دیا جائے۔ جب صحابہ نے بخوبی اس کی لمحات دی تب آپ نے  
ہمارا نہیں واپس کیا۔

غزوہ خندق کے موقع پر حضور نے بنی غطفان سے صلح کرنے کا ارادہ فرمایا۔  
انصار کے سرواروں نے عرض کیا کہ اگر یہ ارادہ وحی کی بنی اسرائیل کلام نہیں، اور  
اگر حضور اپنی راستے سے ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس تجویز سے اختلاف ہے۔ حضور  
نے انہی کی راستے قبول فرمائی اور اپنے ہاتھ سے صلح نامہ کا مسودہ چاک کر ڈالا۔

صلح حدیثیہ کے موقع پر تمام مسلمانوں کو بغطا ہر دب بکر صلح کرنا پسند نہ تھا۔ حضرت  
عمرؓ نے علاوہ اس سے اختلاف کیا۔ مگر جب حضور نے فرمایا کہ یہ کام میں خدا کے  
پیغمبر کی حیثیت سے کر رہا ہوں تو باد جو دیکھے غیرت اسلامی کی بنی اسرائیل مول تھے،  
کسی نے دم مارنے کی جگات نہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مرتے دم تک اس غلطی کے  
کفار سے طرح طرح سے او اکرنے رہے کہ وہ ایک ایسے امر میں حضور سے اختلاف

کر دیجئے جو حیثیت رسول کیا جائے تھا۔

جنگ محنن کے موقع پر تقسیم غلام میں آپ نے مولفہ القلوب کے ساتھ جو فیضی  
ظاہر فرماتی تھی اس پر انصارِ حبیبین بھی ہوتے حضور نے ان کو بلایا۔ اپنے فعل کی تائید  
میں یہ نہیں فرمایا کہ میں خدا کا نبی ہوں جو چاہوں کروں، بلکہ ایک تقریر کی جس طرح ایک  
جہہوںی حکومت کا سروار اپنی راستے سے اختلاف رکھنے والوں کے سامنے کرتا ہے  
ان کے ایمان یا رسالت سے اپیل نہیں کی بلکہ ان کی عقل اور ان کے جذبات سے اپیل  
کی اور انہیں مطہن کر کے واپس فرمایا۔

یہ تو خیران لوگوں کے ساتھ معاملہ تھا جو سوسائٹی میں بڑی اونچی پوزیشن  
رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اور لوگوں تک میں استعلال رکتے  
کی روح پھونک دی تھی۔ بریہہ ایک لوگوں تکی جو اپنے شوہر سے ملنگر ہو گئی تھی۔  
مگر شوہر اس کا عاشق زارتھا۔ وہ اس کے پیچے روتا پھر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم  
نے اس سے کہا کہ تو اپنے شوہر سے رجوع کر لیتی تو اچھا تھا۔ اس نے پوچھا "یا رسول اللہ کیا آپ حکم دیتے ہیں؟" آپ نے جواب دیا۔ "حکم نہیں بلکہ سفارش کرتا ہوں۔"  
اس نے کہا۔ "اگر یہ سفارش ہے تو میں اس کے پاس جانا نہیں چاہتی۔"

اس قسم کی اور بہت سی مثالیں ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب قریبے  
یا خود حضور کی تصریح سے لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ آپ کوئی بات اپنی راستے  
سے فرمائی ہے میں تو وہ آزادی کے ساتھ اس میں اظہار رکتے کرتے تھے اور آپ  
خود اس آزادانہ اظہار راستے میں ان کی بہت افزائی فرماتے تھے۔ یہے موقع پر  
اختلاف کرنا نہ صرف جائز تھا، بلکہ آپ کے نزدیک پسندیدہ تھا، اور آپ خود بسا  
اوقات اپنی راستے سے رجوع فرمائتے تھے۔

اب حضرت زید کے واقعہ کی طرف رجوع کیجئے۔ حضور کے ساتھ ان کے  
تفصیلات کئی طرح کے تھے۔ ایک تعلق یہ تھا کہ آپ ان کے پیشوں تھے اور وہ آپ کے  
پیروں تھے۔ دوسرा تعلق یہ تھا کہ آپ ان کے برادر نسبتی تھے اور وہ آپ کے بہنوں

تھے۔ پیغمبر اعلیٰ یہ تھا کہ آپ کے مُرثی تھے اور وہ آپ کے پروردہ تھے۔ بیوی سے ان کا نیا نہ ہو سکا۔ انہوں نے طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ آپ نے ان کو وہی مشورہ دیا جو ہر برادر نسبتی اپنے بہنوئی کو اور ہر سرپست اپنے پروردہ کو دے گا، یعنی یہ کہ خدا کا خوف کر دا اور اپنی بیوی کو طلاق نہ دو۔ مگر جس اختلافِ مذاج کی بناء پر زوجین میں باہم نفرت پیدا ہو گئی تھی اس کو حضرت زید خود زیادہ محسوس کر سکتے تھے۔ یہ معاملہ ان کے دین و ایمان کا نہیں بلکہ ان کے حیاتِ نفس کا تھا۔ اس لیے انہوں نے حضور کے مشورے کو قبول نہ کیا اور طلاق دے دی۔ یہ خلاف ورزی رسول کے مقابلہ میں نہ تھی، نہ حضور نے جو مشورہ دیا تھا وہ رسول خدا کی حیثیت سے تھا، اس لیے نہ آپ ناراضی ہوتے نہ خدا ناراضی ہوتا۔ اگر حضور کی حکم کوئی اور ایسا شخص ہوتا جس نے کسی کو بچپن سے پالا ہوا اور اس پر احسانات کیے ہوں اور آخر میں غلامی سے واغدار ہونے کے باوجود اپنی بہن کی شادی اس سے کی ہو، اور پھر اس نے باوجود منع کرنے کے اس کی بہن کو طلاق دے دی ہو، تو وہ ضرور ناراضی ہوتا۔ مگر حضور صرف مرثی اور برادر نسبتی ہی نہ تھے، بلکہ رسول خدا بھی تھے اور رسول ہونے کی حیثیت سے یہ بھی آپ کا فرض تھا کہ انسان کو انسان کی بندگی سے آزاد کریں اور انسان کو انسان کے مقابلہ میں آزادی کا حکم یا ہواخت دیاں دلوائیں۔ اس لیے آپ نے حکم نہیں بلکہ مشورہ دیا اور اس مشورہ کے خلاف عمل کرنے پر قطعاً کسی ناراضی کا اظہار نہ فرمایا۔ اسی سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کی ذات میں حیثیتِ بیوی اور حیثیتِ بشری الگ الگ بھی تھیں اور باہم پورتے بھی تھیں۔ آپ نے ان دونوں کے استعمال میں ایسا یحیت انگیز توازن قائم کیا تھا کہ ایک بھی ایسے توازن پر قادر ہو سکتا ہے۔ حیثیتِ بشری میں بھی آپ اس طرح عمل فرماتے تھے کہ بیوتوں کے فرائض اس کے ضمن میں ادا ہوتے رہتے تھے۔ سرکارِ سماں مأب نے جس محنتِ فکر کی تخم ریزی کی تھی، اور احکامِ الہی کی احاطت کے ساتھ ساتھ انسان کے مقابلہ میں آزادی رکھتے استعمال کرنے کا

جوستیق اپنے تبعین کو خود اپنے عمل اور اپنے برتاؤ سے سکھایا تھا، اسی کا یہ اثر تھا کہ صحابہ کرام نام انسانوں سے زیادہ احکام الہی کے اطاعت کیش اور حکم انسانوں سے زیادہ آزاد خیال و گھبہ و تیز پسند تھے۔ وہ بڑے سے بڑے شخص کے مقابلہ میں بھی اپنی راستے کی آزادی کو قربان نہ کرتے تھے۔ ان کی ذہنیت سے یہ بات بالکل بعید تھی کہ کسی راستے کو محض اس بنا پر تنقید سے بالاتر سمجھیں کہ وہ فلاں بڑے آدمی کی راستے ہے۔ ان میں سے جو بڑے آدمی تھے، جن کی بڑائی کو خود تسلیم کرتے تھے اور جن کی بڑائی آج ایک دنیا تسلیم کر رہی ہے، ان کی راستے کو بھی انہوں نے محض ان کی بڑائی کی بنابر قبول نہ کیا بلکہ آزادی کے ساتھ رد بھی کیا اور قبول بھی کیا۔ خدا کے راشدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سبے زیادہ اس آزادی کی راستے کے حامی تھے۔ انہوں نے اپنے آقا کی پیروی میں لوگوں کی آزادی کو نہ صرف گوارا کی بلکہ اس کی بہت افراطی کی اور کبھی کسی چھوٹے سے چھوٹے آدمی سے بھی یہ مطالیب نہ کیا کہ ہم بڑے آدمی ہیں اس لیے ہماری بات یہ چون وہ خدا تسلیم کرو۔

خلفاء راشدین کے بعد بنی امیہ اور بنی عباس نے حریت فکر کو خوف اور طمع دلا کر ظلم و ستم اور زر پاشی کی طاقتیوں سے ہر طرح کچھنے کی کوشش کی، مگر تابعین اور تبعیح تابعین میں اور ان کے بعد بھی ایک مدت تک مسلمانوں میں بروح باقی رہی۔ ابتدائی دو تین صدیوں تک آپ کو تاریخِ اسلامی میں اس کے نہایت روشن نشانات نظر آتیں گے۔ امراء اور حکام کے مقابلہ میں آزادی تو نسبتاً ایک چھوٹی چیز ہے۔ روح اور دماغ کی آزادی کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ انسان جس کو مقدس سمجھے جس کی عزت و عظمت اس کے پہنچائے قلب میں جاگزین ہو اس کی اندر حصہ تعلیم سے انکار کر دے، اور اس کے مقابلہ میں آزادی کے ساتھ سوچے اور آزادی کے ساتھ راستے قائم کرے۔ پھر سپرٹ ہم کو اس دور کے اہل علم میں نظر آتی ہے۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر مقدس سہنیاں اور کون ہوں گی؟ اور حضرات

تابعین سے بڑھو کر کس کے دل میں ان کا احترام ہو گا، مگر یہ لوگ آزادی کے ساتھ  
صحابہؓ کرام کی آراء پر نقد کرتے تھے، ان کے اختلافات میں محکمہ کرتے تھے، اور  
ایک کی راستے کو چھوڑ کر دوسرے کی راستے قبول کرتے تھے۔ اختلافِ صحابہؓ میں  
امام ناکث کس صفائی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ خطاء و صواب فَإِنْظُرْ فِي ذَا إِكْ  
صحابہؓ کی آراء میں خطاء بھی ہے اور صواب بھی تم خود غور کر کے راستے قائم کرو۔ اسی  
طرح امام ابوحنیفہ کا ارشاد ہے: أَحَدُ الْعَوْلَيْنِ خَطَاءُ الْمَأْتِمِ فِيهِ مَوْضُوعٌ  
وَمُخْتَلِفٌ اقوال میں سے ایک بہر حال غلط ہو گا۔

خود ان بزرگوں میں سے بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم خطاء سے بری ہیں، اور تم  
اپنی فکر و نظر کو بالکل معطل کر کے صرف ہماری راستے کی پیروی کرو۔ سیدنا ابو بکرؓ  
صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مسئلہ میں اپنی راستے سے کچھ فرماتے تو ساتھ ہی یہ بھی فرمادیتے کہ ہذا  
ذلیل فارغ بیکن صواباً فَمِنَ اللَّهُ وَانْ يَكُونُ خَطَاءً فِيهِ فَإِنَّمَا تَثْمِنُهُ مَوْضُوعٌ  
میری راستے ہے، اگر درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر غلط ہے تو میری  
خطاء ہے اور میں خدا سے مغفرت چاہتا ہوں۔

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں لا تجعلوا خطاء الرأي متنة للامة وَاسْتَعْفِرُ اللَّهَ عَنِ  
غلطی کو انت کے لیے سنت نہ بناؤ۔

حضرت ابن مسعود کا قول ہے آلا کا دی تکید اَحَدُ كُرْدِ بَنَهُ رَجَلًا إِنْ اصَنَ  
امَتَ فَإِنْ كَفَرَ كَفَرَ فَإِنَّهُ لَا أُسْوَةَ فِي الشَّرِيفِ خبردار کوئی شخص اپنے دین کے معاملہ  
میں کسی دوسرے شخص کی اندھی تقیید نہ کرے کہ وہ مومن ہوا تو یہ بھی مومن رہا اور وہ  
کافر ہوا تو یہ بھی کافر ہو گیا۔ بُرَائی اور غلطی میں کسی کی پیروی نہیں ہے۔

امام ناکث فرماتے ہیں اَنْهَا اَنَّا بَشَرٌ اَخْطَى وَاصْبَيْتُ فَإِنْظُرْ فِي رَأْيِي  
وَكُلُّمَا وَاقَعَ الْكِتَابَ وَالسَّنَةَ فَخَذْ وَهُ وَكُلُّمَا لَمْ يُوَافِقْ الْكِتَابَ وَالسَّنَةَ  
فَأَنْتُ وَكُوُّهُ میں ایک انسان ہوں۔ میری راستے غلط بھی ہوتی ہے اور درست بھی  
تم میری راستے پر غور کرو۔ جو کچھ کتاب و سنت کے موافق پاوسے قبول کرو اور

جو بات خلاف دیکھو اس سے چھوڑو۔ امام مالک ہی کا یہ واقعہ تاریخی میں موجود ہے کہ خلیفہ منصور عباسی ان کی کتاب الموطا کو تمام علم اسلامی کا دستور العمل بنانا چاہتا تھا اور اس کا خیال یہ تھا کہ تمام مذاہب فقہیہ کو موقوف کر کے صرف مذہب مالکی کورانیج کر دے مگر امام صاحب نے خود اس کو ایسا کرنے سے روک دیا کیونکہ وہ دوسروں سے تحقیق و آزادی را سے اور اجتہاد کا حق سلب کرنا نہیں چاہتے تھے۔

امام ابو یوسف فرماتے ہیں لا بَيْلُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مُقَاوَلَنَا حَتَّى يَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ قَدْنَا یہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ ہمارے قول کا مقابل ہوتا وہ قائل کہ اسے یہ معلوم نہ ہو کہ ہمارے قول کا مأخذ کیا ہے۔

امام شافعی فرماتے ہیں: مَثَلُ الَّذِي يُطْلُبُ الْعِلْمُ بِلَا حُجَّةٍ كَمَثَلُ حَاطِبٍ لَّيْلٍ يَجْعَلُ خِرْمَةً حَطَبَ وَرَفِيعًا أَفْعَى تَلَدَّعَهُ وَهُوَ لَا يَدْرِي یہ جو شخص دلیل کے بغیر علم حاصل کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو رات کو لکڑیاں چین رہے ہو۔ وہ لکڑیوں کا لٹھا اٹھاتا ہے اور اس کو خبر نہیں کہ اس کے میں کہیں ساپ بھی چھپا ہوا ہے جو اسے ڈس لے گا۔

نقریہ میں صدیوں تک تحقیق و اجتہاد و تحریث فکر و نظر اور آزاد امام طلب حق کی وجہ اپریٹ مسلمانوں میں پوری شان کے ساتھ باقی رہی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیعین میں پیدا کر گئے تھے۔ اس کے بعد امام و حکام اور علماء و مشائخ کے مقابلہ نے اس روح کو کھانا شروع کر دیا۔ سوچنے والے دماغوں سے سوچنے کا حق اور دیکھنے والی آنکھوں سے دیکھنے کا حق اور پہلنے والی زبانوں سے بولنے کا حق سلب کر لیا گیا۔ درباروں سے لے کر مدرسوں اور خانقاہوں تک ہر جگہ مسلمانوں کو غلامی کی پاتا عددہ تربیت دی جانے لگی، ول اور دماغ، روح اور جسم کی غلامی ان پر پوری طرح مستظر ہو گئی۔ دربار والوں نے اپنے سامنے رکوع اور سجدے کر کے غلامانہ ذہنیت پیدا کی، مدرسے والوں نے خدا پرستی کے ساتھ اکابر پرستی کا زبر دماغوں میں آملا۔ خانقاہ والوں نے "بیعت" کے مسنون طریقے کو منسح کر کے

مقدس فلامی کا دہ طوق مسلمانوں کی گرونوں میں ڈالا جس سے زیادہ سخت اور بخاری طق  
انسان نے انسان کے بیٹے بھی ایجاد نہ کیا ہو گا۔ جب غیر اللہ کے سامنے زمین تک سر  
مجھکنے لگیں، جب غیر اللہ کے آگے نماز کی طرح ہاتھ باندھے جانے لگیں، جب انسان  
کے سامنے نظر اٹھا کر وہ بخنا سُو وِ ادبی ہو جائے، جب انسان کے ہاتھ اور پاؤں  
چوڑے جانے لگیں، جب انسان انسان کا خداوند اور آن را تابن جائے، جب  
انسان بذاتِ خود امر و نہی کا اختار اور کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی سند سے  
بے نیاز قرار دیا جائے، جب انسان خطا سے پاک اور نقص سے پری اور عیسیے  
منشہ سمجھ دیا جائے، جب انسان کا حکم اور اس کی راستے اغتما و انسہ سہی عملنا اسی  
طرح واجب الاطاعت قرار دے ل جائے جس طرح خدا کا حکم واجب الاطاعت  
ہے تو پھر سمجھ دیجئے کہ اس دعوت سے منہ موڑ لیے گئے جو لاَ تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا  
تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا تَتَبَخَّرَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَاعًا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ: ۲۷۷  
کے الفاظ میں دیگری تھی۔ اس کے بعد کوئی علمی، اخلاقی، روحانی ترقی ممکن ہی نہیں، پستی اور  
زوال اس کا لازمی تجویز ہے۔

ترجمان القرآن۔ ہر فصل میں شہرہ سیدہ سبیرہ (علیہ السلام)

## رواداری

اگر ایک ہی شے کو ایک شخص سیاہ کہے، دوسرا سپید، تیسرا زرد اور چوتھا رُخ تو ممکن نہیں ہے کہ پہ چاروں معاپے ہوں۔ اگر ایک ہی فعل کو ایک بُرا کہتا ہے اور دوسرا اچھا، ایک اس سے منع کرتا ہے اور دوسرا اس کا حکم دیتا ہے تو کسی طرح ممکن نہیں کہ دونوں کی راستے صحیح ہو، دونوں برتقی ہوں اور دونوں امر و نبی کا کھلا ہو۔ اخلاف رکھنے کے باوجود اپنے حکم میں درست ہوں۔ جو شخص یہی سے متنضاً و اقوال کی تصدیق کرتا ہے اور یہی سے متنضاً و احکام کو برتقی قرار دیتا ہے اس کا یہ فعل در حال سے خالی نہیں ہوگا۔ یا تو وہ سب کو خوش کرنا چاہتا ہے، یا اس نے اس مسئلہ پر سرے سے غور ہی نہیں کیا اور بے سوچے سمجھے راستے ظاہر کر دی۔ بہر حال دونوں صورتیں عقل اور صداقت کے خلاف ہیں اور کسی داشتند اور حق پسند انسان کے لیے بیزیا نہیں کہ کسی وجہ سے بھی مختلف الجیال لوگوں کی تصدیق کرے۔

عموماً لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ دس مختلف خیالات رکھنے والے آدمیوں کے مختلف اور متنضاً خیالات کو درست قرار دینا "رواداری" ہے حالانکہ یہ دراصل رواداری نہیں، علیٰ منافقت ہے۔ رواداری کے معنی یہ ہیں کہ جن لوگوں کے عقائد یا اعمال ہمارے نزدیک غلط ہیں ان کو ہم برداشت کریں، ان کے جذبات کا لحاظ کر کے ان پر ایسی نکتہ پیش نہ کریں جو ان کو سچ پہنچانے والی ہو، اور انہیں ان کے اعتقاد سے پھرنا نہیں جائے۔ اس طبقہ افراد کے عمل کا طریقہ اختیار نہ کریں۔ اس قسم کا تحمل اور اس طریقے سے لوگوں کو اعتقاد و عمل کی آنادی دینا نہ صرف ایک مستحسن فعل ہے، بلکہ مختلف الجیال جماعتیں میں اس اور سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر ہم خود ایک عقیدہ رکھنے

کے باوجود بعض دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے مختلف عقائد کی تصدیق کریں، اور خود ایک دستور اعلیٰ کے پیر وہ رتے ہوتے دوسرے مختلف مذکوروں کا اتباع کرنے والوں سے کہیں کہ آپ سب حضرات برحق ہیں، تو اس مناقعات اخبار رائے کو کسی طرح رواداری سے تصریف نہیں کیا جاسکتا۔ مصلحت اسلام

اختیار کرنے اور عدالت چھوٹ بولنے میں آخر کچھ ترقی ہونا چاہیے۔

صحیح رواداری وہ ہے جس کی تعلیم اسلام نے ہم کو دی ہے۔ ہم سے کہا گیا

ہے کہ:-

یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر جن دوسرے مجبودوں کو پکارتے ہیں ان کو بُرَانَةَ کہو، یہیونکہ اس کے خواہیں نادانی کے ساتھ نا حق یہ خدا کو کالیاں میں گئے ہم نے تو اسی طرح ہر قوم کے لیے اس کے اپنے عمل کو خوشنام بنا دیا ہے پھر ان سب کو نیچے پسندگار کی طرف واپس جانا ہے۔ وہاں ان کا پسندگار نہیں بتا دے گا کہ انہوں نے کیے عمل کیے ہیں۔

وَلَا تَسْبِّو الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ  
كُلُّ أُنْثَى تَسْبِّبُوا اللَّهَ عَدْ وَأَكْغَدُوا عِلْمًا  
كَذَّا لِكَ ذَيْنَارَبِّلِ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ شُمَّ الْيَوْمِ  
رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فِيَنْتِهِمْ بِمَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ۔

(زانعام: ۱۰۹)

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ  
خدا کے نیک بندے وہ ہیں جو جھوٹ پر گواہ نہیں بنتتے اور حب کسی نامناسب فعل کے پس سے گزرتے ہیں تو خودداری کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔

وَإِذَا أَهْرَأْ فِرَابَ اللَّغْوَ مَرْفَأَ كَرَاماً۔

(فرمان: ۴۲)

لہ ہر دو فعل جو حق کے خلاف ہر جھوٹ کی تعریف میں آ جاتا ہے ہر دو جگہ جہاں مشرکانہ اعمال ہوتے ہیں یا جہاں مخدرا نہ خیالات ظاہر کیے جاتے ہیں، یا جہاں فحش اور زیحمیگی کا ارتکاب ہوتا ہو، یا جہاں ظلم اور فسق کیا جاتا ہو، وہاں دراصل جھوٹ کا ارتکاب ہوتا ہے جہاں کسی انسان یا دوسری مخلوق کو غربنا کر انسان اس کے آگے بندگی کرتا ہو وہاں بھی جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جھوٹ کا دریح مفہوم ہے اور اس جھوٹ کے گواہ نہ بننے سے مردی یا کرم و مونا نے متفاہما پر قصدا نہ جایگا کہ ان افعال کو دیکھئے اور ان کا شاپنگ

آئے محمد! ان سے کہہ دو کہ آسے کافروں انہیں  
ان معبودوں کو پُرچا ہوں جن کو تم پُرچتے ہواؤ  
ذمہ اس معبود کو پُرچتے ہوئے ہو جس کو میں پُرچا  
ہوں۔ اور آئندہ بھی نہیں ان معبودوں کو پُرچتے  
والا ہوں جن کو تم نے پُرچا ہے اور ذمہ اس معبود

دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔  
ویدی کوئی کوئی سے فرع کرتے ہیں اور جو کچھ ہے  
مرق دیا ہے اس میں سے خپچ کرنے ہیں اور  
جب کوئی نامناسب بات سنتے ہیں تو اس سے  
درگزد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال  
ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے تھے  
سلام ہے ہم جاہل ہیں سے کچھ غرض نہیں رکھتے۔

پس تم ان کو حق کی دعوت دو اور اپنے  
سدک پر جئے رہو جیسا کہ تم کو حکم دیا گی ہے  
اور ان کی خواہشات کی پرگز پریروی نہ کرو  
اور کہو کہ اللہ نے جو کتاب آتا رہی ہے اس پر  
میں ایمان لا یا ہوں اور مجھے حکم دیا گی ہے  
کہ تمہارے لیے درمیان انصاف کرو، اللہ  
ہمارا بھی پرد و گار ہے اور تمہارا بھی، ہمارے  
اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال

تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی محنت نہیں۔ اللہ ہم سب کو قیامت میں

تُلْ يَا أَيُّهَا الْكُفَّارُ لَا أَعْبُدُ  
مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَبُودُونَ مَا  
أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا  
أَنْتُمْ عَبُودُونَ مَا أَعْبُدُ - لَكُمْ دِينُكُمْ  
وَلِيَ دِينِ - (الکفرون: ۷۴)

لَا إِكْرَامٌ فِي الدِّينِ (البقرہ: ۲۵۶)  
وَيَدُرِّ عَوْنَى بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ  
وَصَمَارٍ فِي هُنْهُرٍ سَيِّقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا  
اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا إِنَّا أَعْمَلْنَا  
وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا  
نَبْتَغِي الْجَاهِلِيَّةَ -

(القصص: ۵۵۵)

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ  
كَمَا أُمْرُتَ وَلَا تَتَّبِعْ آهُوَأَهْمُرْ  
وَقُلْ أَمَّا مُتَّسِّرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ  
كِتَابٍ وَأُمْرُتَ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ  
اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَ  
لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةٌ بَيْنَنَا وَ  
بَيْنَكُمْ أَنَّ اللَّهَ يَحْمِلُ بِعِدْدَنَا فَإِنْ يُؤْمِنُ  
الْمُصْبِرُوْ - (الشوری: ۹۰)

محج کرے گا اوسی کی طرف واپس جائے۔

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحَكْمَةِ  
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادَ لِهُمْ  
بِالْتِقْوَىٰ هُنَّ أَخْسَنُ - رَاجِعٌ : ۱۱۵

اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عدالت  
پند و نصیحت کے ساتھ بجاو اور ان کے ساتھ  
اچھے طریقے سے مباحثہ کرو۔

یہی رواداری ہے جو ایک حق پرست، صداقت پسند اور سلیمانی الطبع انسان  
اختیار کر سکتا ہے۔ وہ جس مسلک کو صحیح سمجھتا ہے اس پرستی کے ساتھ قائم رہے گا  
اپنے عقیدہ کا صفات صاف اظہار و اعلان کرے گا، دوسروں کو اس عقیدہ کی  
طرف دعوت بھی دیکھا، مگر کسی کی دل آزاری نہ کرے گا، کسی سے بدکلامی نہ کرے گا،  
کسی کے معتقدات پر حملہ نہ کرے گا، کسی کی عبادات اور اعمال میں فراہمی نہ کرے گا،  
کسی کو زبردستی اپنے مسلک پر لانے کی کوشش نہ کرے گا۔ باقی رہائی کو حق جانتے  
ہوتے حق نہ کہنا۔ یا باطل کو باطل سمجھتے ہوتے حق کہہ دینا، تو یہ ہرگز کسی پچے انسان  
کا فعل نہیں ہو سکتا۔ اور خصوصاً لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرنا تو نہایت مکروہ  
قسم کی خوشامد ہے۔ ایسی خوشامد صرف اخلاقی حیثیت سے ذمیل ہے بلکہ اس  
مقصد میں بھی کامیاب نہیں ہوتی جس کے لیے انسان اپنے آپ کو اس پست منزل  
تک گراتا ہے۔ قرآن کا صفات اور سچا فیصلہ ہے کہ:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ  
وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَبَعَ مِلَّتَهُمْ  
قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ  
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ لَعَذَّبَ  
الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ  
مِنَ اللَّهِ مِنْ قِيلٍ وَلَا لَصِيرٍ -  
رَاجِعٌ : ۱۱۶

یہود اور نصاریٰ تجھ سے ہرگز راضی نہ ہون گے  
جب تک کہ تو ان کی ملت کا پیر وہ بن جائے گا  
صفات کہہ دے کہ اللہ کا راستہ ہی سیدھا  
راستہ ہے، وہ نہ اگر تو نے اس علم کے بعد  
جو تیرے پاس آیا ہے ان کی خواہشات ک  
پیر دی کی تو کوئی حامی و مددگار تجوہ کو خدا سے  
چکانے والا نہ ہو گا۔

بھروسی رواداری کا اظہار تو خیر سیاسی اغراض کے لیے کیا جاتا ہے اور  
اس دور میں یہ مجاز ہے۔ کیونکہ مغربی ارباب ریاست کی کوششوں سے مت

ہوئی کہ اخلاق اور سیاست کے درمیان مفارقت کر ادی گئی ہے۔ لیکن افسوس کے مقابل ان تحقیقیں کا حال ہے جو عقل کو سونپنے اور فکر کو حکمت کرنے کی زحمت دیتے بغیر اپنی نہ ہی تحقیقات کا یہ عجیب نظر پڑھا ہر فرمایا کرتے ہیں کہ تمام مذاہب برحق ہیں۔ یہ جملہ اکثر ان لوگوں کی زبان سے سنا جاتا ہے جن کا دعویٰ ہے کہ ہم کوئی بات زبان سے نہیں نکالتے اور نہ تسلیم کرتے ہیں جب تک کہ اس کو میزان عقل میں قول نہ لیں۔ لیکن میزان عقل کا حال یہ ہے کہ وہ ان کی اس تحقیقی آیت کو پرکار کے برائی بھی وزن دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ چون مختلف مذاہب کو معاابر حق ہونے کی سند عطا کی جاتی ہے، ان کے اصول میں سیاہ اور سفید کا کھلا ہٹوا فرق موجود ہے۔ ایک کہتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ دوسرا کہتا ہے دو ہیں۔

تیسرا کہتا ہے نہیں ہیں۔ چوتھا کہتا ہے بہت سی قومیں خدائی میں شرکیں ہیں پانچوں کی تعلیم میں صرف سے خدا کا تصویر ہی موجود نہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ پانچوں پنجوں ہوں؟ ایک انسان کو خدائی کے مقام میں لے جاتا ہے۔ دوسرا خدا کو چھپ کر ان زوال کے پنج میں آثار لاتا ہے۔ تیسرا انسان کو عبد اور خدا کو معبود قرار دیتا ہے۔ چوتھا عبد اور معبود دونوں کے تخلی سے قائم ہے۔ کیا صداقت میں ان چاروں کے لیے اجتماع کی گنجائش نکل سکتی ہے؟ ایک نجات کو صرف عمل پر موقوف رکھتا ہے دوسرا نجات کے لیے صرف ایمان کو کافی سمجھتا ہے۔ تیسرا ایمان اور عمل دونوں کو نجات کے لیے شرط قرار دیتا ہے۔ کیا یہ تینوں پیک وقت صحیح ہو سکتے ہیں؟ ایک نجات کی راہ دینا اور اس کی زندگی سے باہر نکالتا ہے۔ دوسرا کے نزدیک نجات کا طاستہ دینا اور اس کی زندگی کے اندر سے گزرتا ہے۔ کیا یہ دونوں راستے یکسان درست ہو سکتے ہیں؟ ایسے منضاد امور کو صداقت کی سند عطا کرنے والی شے کا نام اگر عقل ہے تو پھر جمع بین الاصناد کو حال قرار دینے والی شے کا نام کچھ اور ہونا چاہیے۔

مذاہب میں جو تصورات مشترک نظر آتی ہیں، افسوس ہے کہ سلطی نظر کرنے والے

ان کی ختنیت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے اور محسن سطح پر لگاہ ڈال کر خپر غلط مقدار کو غلط طریقے سے ترتیب دیکر غلط نتائج نکال لیتے ہیں۔ حالانکہ وہ اصل یہ اشتراک ایک اہم حقیقت کی طرف بھاری راہنمائی کرتا ہے وہ پتہ دیتا ہے کہ وہ حقیقت یہ تمام مذاہب ایک ہی اصل سے نکلے ہیں۔ ان تمام تصورات اور تعلیمات کا مبدأ ایک ہے کوئی ایک ذریعہ علم ہے جس نے انسان کو مختلف ممالک، مختلف اوقات اور مختلف زبانوں میں، ان مشترک صداقتوں سے روشناس کیا۔ کوئی ایک بصیرت ہے جو مشرق و مغرب کا بعد رکھنے والے اور سینکڑوں پڑاواروں پر اس کا فصل رکھنے والے لوگوں کو حاصل ہوئی، اور اس بصیرت سے وہ سب کے سب ایک ہی قسم کے نتائج تک پہنچے۔ لیکن مذاہب جب اپنی اصل اور اپنے مبدأ سے دور ہو گئے تو ان میں کچھ خارجی تصورات اور اجنبی معتقدات و تعلیمات نے راہ پالی اور چونکہ یہ بعد والی چیزیں اس مشترک مبدأ اور مشترک بصیرت سے ماخوذ نہ تھیں، بلکہ مختلف طبقات، مختلف جماعت اور مختلف علمی و عقلی مراتب رکھنے والے انسانوں کی طبقہ زاد تھیں، اس لیے انہوں نے ان مشترک بنیادوں پر جو عمارتیں تعمیر کیں وہ اپنے نقشوں اور اپنی وضع و سیاست میں بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہو گئیں۔

پس حق اور صدق کا اگر حکم لگایا جا سکتا ہے تو اس اصل مشترک پر لگایا جا سکتا ہے جو تمام مذاہب میں پائی جاتی ہے نہ کہ ان مختلف تفضیلی صورتوں اور ہمیتوں پر جن میں موجودہ مذاہب پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ حق ایک جس لبیدیت ہے، اس کے افراد میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ہم سیاہ اور سفید، سرخ اور سبز پر لفظ "زنگ" کا اطلاق یکسانی کے ساتھ کرتے ہیں، اس طرح خدا ایک ہے اور خدا درمیں اور خدا کرداروں میں کے مختلف احکام پر لفظ "حق" کا اطلاق نہیں کر سکتے۔

یہ بات کہ تمام مذاہب کی اصل ایک ہے، اور ایک صداقت ہے جو مختلف قوموں پر مختلف زبانوں میں ظاہر کی گئی، قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ

بیان ہوئی ہے۔ اس کتاب میں بار بار کہا گیا ہے کہ ہر قوم میں خدا کے رسول اور پیغامبر آتے ہیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا رَأَخْلَفَهَا فَلَدُّنِيْرُ دَفَاطِر: (۷۷) یہ تفاصیل انبیاء و رسول ایک سرچشمے سے صداقت کا پیغام حاصل کرتے تھے، جَاءُوكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَالذِّيْرُ وَالْكِتَابُ الْمُبِيْرُ رَأَلْ عَمَان: (۷۸) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمُبِيْرَاتِ رَالْحَمْدِيَر: (۷۹) ان سب کا پیغام ایک ہی تھا، اور وہ یہ تھا:-

أَعُبُدُوا اللَّهَ وَإِنْجَنَّبُوا      خدا کی بندگی کرو اور تمام باطل مصودوں کو  
الظَّاغُونَ                                  چھوڑ دو۔      دخل: (۷۹)

سب پر خدا کی طرف سے ایک ہی وجہ آتی تھی:-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيًّا إِلَّا لِيَنذِّلَ مِنْ      آتے محمدؐ سے پہلے ہم نے جو رسول بھی  
رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَإِلَهٌ إِلَّا      بھیجا ہے اس کی طرف یہی وجہ کی ہے کہ  
آنَا فَاعْبُدُونِ -      میرے سو اکوئی مصود نہیں ہے، لہذا تم

میری بندگی کرو۔      دانبیاء: (۷۵)

ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو کچھ ہم پیش کر رہے ہیں وہ ہماری اپنی عقل و فکر کا نتیجہ ہے، بلکہ سب یہی کہتے رہے کہ یہ سب خدا کی طرف سے ہے۔

وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ      ہم یہ قدرت نہیں رکھتے کہ خدا کے اذن کے  
سُلْطَانٍ إِلَّا يَأْذِنُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ      بغیر کوئی محنت لا سکیں۔ جو ایمان لائے  
فَلَكُيَّتُوْكُلَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَمَا لَنَا      دلے ہیں وہ تو خدا ہی پر بھروسہ رکھتے  
آتُ لَا نَنْتَوْكُلَّ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ      ہیں اور ہم کیوں نہ خدا پر بھروسہ رکھیں جیکہ  
هَدَا سَا سُبْلَنَا -      اسی نے ہم کو ہدایت بخشی ہے۔      دا بر ایم: (۷۶)

پھر ان میں سے کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم ہماری بندگی کرو، بلکہ سب یہی کہتے رہے کہ خدا پرست بن جاؤ:-

مَا كَانَ يَلْشِرَ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ      کسی پیش کایا کام نہیں کہ اللہ جب اس کو

اَنْكِتَبَ وَالْحُكْمُ فِي النِّسْوَةِ وَلَا يُنْزَعُ عَنِ الْمُرْجِعِ فَقُولُ  
لِلنَّاسِ كُوْنُوا عِبَادًا لِّيٰ مِنْ دُوْنِ  
اللّٰهِ وَلِكِنْ كُوْنُوا اَرْبَابًا بِنِيْنَ -  
دَالْ عَمَرَانَ (۶۹) -

خدا پرست بنو۔

یہ تھی وہ مشترک تعلیم جو تمام قوموں کو ان کے مذہبی رہنماؤں نے دی تھی۔  
قرآن مجید کا بیان ہے کہ اُول اُول تمام انسان ایک ہی امت تھے،  
یعنی ایک خالص انسانی فطری حالت (State of Nature) میں تھا وہ  
ان کے پاس خدا کی طرف سے راہ راست کا علم آیا ہوا تھا۔ پھر ان میں اختلاف  
ہوا، اور اختلاف اس وجہ سے ہوا کہ ان میں سے بعض لوگوں نے اپنی حد چانسے  
گزرنے، اپنے فطری مرتبہ سے زیادہ بلند مرتبہ حاصل کرتے، اور اپنے فطری حقوق  
سے بڑھ کر حقوق قائم کرنے کی کوشش کی۔ شب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیاں آئے  
شردع ہوتے تاکہ لوگوں کو حق کا صحیح علم دیں، اور ان کے درمیان اجتماعی عدل  
(Social Justice) قائم کریں۔ تمام انبیاء کا دنیا میں یہی مشن رہا ہے جن لوگوں  
نے اس مشن کو قبول کیا اور پری کے دینے ہرے علم کی صحیح تجھیک پیرودی کی، اور  
نبی کے بتاتے ہوتے قانون کا اتباع کیا، صرف وہی حق پرہیں اور باقی سب بطل  
پر۔ وہ بھی باطل پر جنہوں نے نبی کے اتباع سے انکار کیا، اور وہ بھی باطل پر  
جنہوں نے نبی کی تعلیم کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال دیا۔  
**وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةٌ** لوگ دراصل ایک ہی امت تھے، پھر مختلف

لے یہ نکتہ ذہن لشیں کر لینا چاہیے کہ آج تک کے نظریہ ارثوار اور فلسفہ تاریخ کے بر عکس قرآن مجید کا  
بیان یہ ہے کہ زمین پر زرع انسانی کا آغاز جہالت کی تاریکی میں نہیں ہوا بلکہ خدا دلخواہ علم کی روشنی  
میں ہوا تھا۔ خدا نے سب سے پہلے انسان یعنی آدم علیہ السلام کو پیغمبر بنایا تھا اور ان کو الہام  
کے ذریعہ سے وہ علم دے دیا تھا جو زمین پر صحیح زندگی بسرا کرنے کے لیے ضروری تھا۔

وَاحِدَةٌ فَالْخَلْفُوا رِيْس: ۱۹  
 كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً  
 فَبَعْدَ أَنْهَاكُمْ بَيْنَ مُبَشِّرِينَ وَ  
 مُنْذِرِينَ فَأَنْزَلَ مَعَهُمُ أَنْكَثَتْ  
 بِالْحَقِّ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيهَا  
 الْخِلْفَةُ فِيهَا طَوْمَا اخْتَلَفَ فِيهِ  
 إِلَّا الَّذِينَ أُذْنُوا مِنْ بَعْدِ هَا جَاءَهُمُ  
 الْبَيِّنَاتُ يَغْيِي أَبْيَانَهُمْ فَهُدَى اللَّهُ  
 الَّذِينَ أَصْنَوُ الْمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ  
 مِنَ الْحَقِّ يَا ذُنْبِهِ وَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي  
 مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ۔

بِالْقُرْءَان: ۲۱۳)

ہو گئے۔  
 لوگ پہلے ایک ہی امت تھے دیپھر جب  
 ان میں اختلاف ہوا تو اللہ نے نبیوں کو  
 بھیجا جو پیشارت دینے والے اور متنبیر کرنے  
 والے تھے، اور ان کے ساتھ برقیت کتاب  
 اسلامی تاکہ وہ کتاب لوگوں کے درمیان ان  
 معاملات کا فیصلہ کر دے جس میں انہوں  
 نے اختلاف کیا تھا۔ اور یہ اختلاف جو  
 لوگوں میں ہوا اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ  
 انہوں نے ایک دوسرے پر زیادتی  
 کرنی چاہی اور نہ اللہ کی طرف سے تو ان کے  
 پاس پہلے ہی واضح ہدایات اپنکی تھیں۔

پھر جب لوگوں نے نبیوں اور کتابوں کی

بائی مان لی ان کو اللہ نے اس حق کی راہ دکھادی جس میں لوگوں کے درمیان اختلاف  
 لے اصل آیت پیش قرآن نے لفظ باغی استعمال کیا ہے جس کے معنی اپنی جائز حد سے گزرنے اور  
 زیادتی اور سرکشی کرنے کے ہیں۔ قرآن مجید تمام اعتقادی مگر ابھیوں اور اجتنبیاتی ظلم (Social Injustice)  
 کی بنا اس کو قرار دیتا ہے کہ بعض انسانوں میں اپنی صدر بڑھنے کا  
 جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً بعض انسان دوسرے انسانوں کے خداوندی پرستی ہیں اور ان سے  
 اپنی بندگی کرتے ہیں بعض خود تو خداوندی کی تہمت نہیں رکھتے مگر کسی جنت یا خیالی دیوتا یا کوئی فیکر کے  
 بیجاناری یا مجاہدین جانتے ہیں اور ان مجبور دوچھوڑ سے لوگوں پر اپنا آفتدار جانتے ہیں بعض بھی  
 عہدہ دار بن کر لوگوں کی غلطی و نجات کے بھیکر دار بنتے ہیں اور اس طرح برمنہیت اور پاپیت جو  
 میں آتی ہے بعض اپنی بہتر مالی حالت کے ناجائز فائدہ اٹھا کر معاشی روٹ کی مختلف صورتیں اختیار کرتے  
 ہیں۔ غرض یہ کہ انسان کو قابلی حالت سے نکال کر اعتقادی اور سماجی حیثیات کے اختلاف میں مبتلا کرنے  
 والی پیزور اصل بھی بھی ہے۔

جو انہا اور اللہ جس کو رضا ہے رہا راست کی طرف ہدایت بخش تھے۔

**لَعَذُ الدُّرْسَلَنَا رُسَلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ**

فَأَنْزَلْنَا مَعِيمًا الْكِتَابَ كَالْمُبِينَ  
لِيَعْمُلَ النَّاسُ بِالْعِصْطَرِ وَأَنْزَلْنَا  
الْحَجَارَ بِدَقَيْهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ  
لِلنَّاسِ۔ (الحمدہ: ۲۵)

بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب آتا ری اور  
ان کو ترازو نہیں تاکہ لوگ انصاف کی طریقہ  
پر قائم ہوں، اور ہم نے لوہا آتما جس میں  
زبردست قوت بھی ہے اور لوگوں کے  
لیے فائدے بھی۔

پھر جو میری ہدایت پر حلاوہ نہ رہا راست  
سے بھیکے گا اور نہ بدجنت ہو گا۔ اور جو میری  
نسیحت سے منزہ ہو رہے گا تو زیرا میں  
اس کی زندگی تنگ ہو گی اور آخرت میں ہم  
اس کو اندرھا اٹھائیں گے۔

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدًى اَمَّا فَلَاءِيَضِيلُ  
وَلَا يَشْفَعُ وَمَنْ اَغْرَقَ عَنْ ذِكْرِي  
فَإِنَّ اللَّهَ مَعِيشَةَ ضَنْكَا وَخَسْرَةً  
يَوْمَ الْقِيَمَةِ اَعْنَى رُظْرَ (۱۷۸، ۱۷۹)

**Moral Interpretation of History** یہ قرآن کا نظریہ ناریخ یا اخلاقی تعبیر تاریخ (Moral Interpretation of History) ہے جو تمدنی اختلافات کے معنے کی طرح مذہبی اختلافات کے معنے کو بھی نہایت شفی بخش طریقہ سے حل کر دیتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کی تمام قوموں کے پاس خدا کے نبی اسی لیے آتے رہے کہ جس فطری مسلک حیات سے وہ اپنی "بغادت" کے سبب نہت گئی تھیں اسی کی طرف پھر انہیں لے جائیں اور انہیں حق اور عدل کے طریقہ پر قائم کر دیں مگر وہی بغاوت کا جذبہ جوان کی گرایی کا اصلی سبب تھا، انہیں بار بار ہٹا کر پھر نہیں ہے راستوں کی طرف لے جاتا رہا۔ پس جو تھوڑے بہت صحیح تصورات اور اخلاقی کے برحق اصول دنیا کی مختلف قوموں

---

لے ترانو سے مراد وہ کمال درجہ کا متوازن (Well-Balanced) نظام اجتماعی ہے جو شریعت الہی کی صورت میں انبیاء کے ذریعہ سے بھیجا گیا تاکہ انسانوں کے درمیان عدل قائم کیا جائے۔

میں پاٹتے جاتے ہیں وہ سب انبیاء کی تعلیمات کے وہ باقی ماندہ اثرات ہیں جو انی  
ذاتی قوت کی وجہ سے قوموں کے افراد اور ان کی زندگی میں جذب ہو کر رہے گئے۔  
اس کے بعد قرآن جو دعویٰ پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جس "اسلام" کی طرف  
وہ بدار رہے وہ وہی "اصل وین" ہے جس کو ابتداء سے تمام قوموں میں نام انبیاء  
پیش کرنے رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نرالا پیغام لے کر نہیں آتے ہیں جو  
پہلے کبھی پیش نہ کیا گیا ہو فُلْ مَا كُنْتِ بِذِكْرِ رَسُولِ رَحْمَةِ رَحْمَاتِهِ : ۹) بلکہ آپ کا  
پیغام وہی ہے جو ہر شری نے ہر قوم تک ہر زمانے میں پہنچایا ہے، إِنَّا أَوْحَيْنَا  
إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالشَّيْطَنَ مِنْ بَعْدِهِ رَأَيْنَاكُمْ : ۱۲۳) اس پیغام سے  
عرب، مصر، ایران، ہندوستان، چین، چاپان، امریکہ، یورپ، افریقی، غرض کوئی  
ہمزر میں محروم نہیں رکھی گئی۔ سب جگہ اللہ کے رسول، اللہ کی کتابیں لے کر آتے ہیں  
اور بہت ممکن ہے کہ بدھ، کرشن، رام، کنفیوشن، زردوشت، مانی، ستراط، فینائونٹ  
وغیرہم انہی رسولوں میں سے ہوں۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان وہ سب سے  
پیشوادوں میں فرق یہ ہے کہ ان کی اصل تعلیمات تو لوگوں کے اختلافات میں گم  
ہو گئیں مگر آنحضرت نے جو کچھ پیش فرمایا وہ اصل شکل میں محفوظ ہے۔

پس حقیقت یہ ہے کہ "اسلام" مذاہب میں سے ایک مذہب نہیں ہے۔  
بلکہ نوع انسانی کا اصل مذہب یہی ہے، اور باقی سب مذاہب اسی کی بُرڈی  
ہوئی شکلیں ہیں۔ مذاہب میں جو کچھ "حق" اور "صدق" پایا جاتا ہے وہ اسی  
اصل اسلام کا بجا چھپا اثر ہے جو سب کے ہाथ آیا تھا اور اخلافات میں گم کر  
 دیا گیا۔ جس مذہب میں اس باقی ماندہ حق کی مقدار جتنی زیادہ ہے اس میں اتنا  
 ہی زیادہ "اسلام" موجود ہے۔ وہ اخلافات جو اصل "اسلام" کے

سلسلے سے بیان سے کہہ دو کہ یہی کوئی نرالا پیغام برہنیں ہوں۔

تھے ہم نے تمہاری طرف وہی پیغام وحی کیا ہے جو نوع اور ان کے بعد کے بیوں پر وحی کیا تھا۔

خلاف ہیں، تو وہ سب تینا باطل ہیں اور ان جس حق کا حکم لگانا صریح خللم ہے۔ بھائے اس کے کوئی اس جھوٹی رعایاتی کا منتظر ہو رہا کریں، یہیں تو اپنے تمام انسانی بجا یہوں سے یہ کہنا چاہیے کہ، دوستو براہ کرم تعصیب اور نگ نظری کو چھوڑ دو اور حق دو بالل کی آمیزشوں پر مجھے رہنے کے بجائے اس چیز کو قبول کرو جو غالص اور بے آمیز حق ہے۔ حق کسی نسل یا قوم یا ملک کی موجودی بانداد نہیں ہے بلکہ تمام انسانیت کی مشترک میراث ہے۔ یہ میراث خداوند عالم کی طرف سے سب ملکوں اور قوموں اور نسلوں کو بانٹی گئی تھی۔ دوسروں نے اسے اگر حکم کر دیا تو اور اس کے ساتھ مخلوقات پرستی کے، خللم و نما انسانی کے اور بے جا امتیازات کے زہر ملائیے تو یہ ایک بد قسمتی تھی، ہماری اور تمہاری سب کی بد قسمتی تھی، کوئی وجہ نہیں کہ تم اس بد قسمتی کے ساتھ خواہ مخواہ چھٹے رہو صرف اس وجہ سے کہ تمہارے آبا و اجداد اس غلطی کے ترتیب ہو گئے تھے۔ محمد صل اللہ علیہ وسلم نے اگر اس میراث لو پا کر جوں کا توں پہنچا دیا اور اس کے اندر کسی مخلوق پرستی کا، ہمی ظالما نہ اور نجیب منصفانہ رسم و رواج کا اور کسی قسم کے بے جا امتیازات کا زہر شامل نہ ہو سکا، تو یہ ایک خوش قسمتی ہے، ہماری اور تمہاری اور سب نوع انسانی کی خوش قسمتی ہے، اس کا شکر ادا کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانے میں صرف اس یے تماں نہ کرو کہ خدا کی یہ نعمت ایک عوبہ کے ذریعہ سے تمہیں مل رہی ہے۔ حق تو اسی طرح کی عالمگیر نعمتوں میں ہے ایک نعمت ہے جس طرح ہوا، پانی اور رہشی اس کی عالمگیر نعمتوں ہیں۔ پھر اگر ہوا سے تم محض اس یے ناک بند نہیں کر لیتے ہو کہ وہ مشرق سے آرہی ہے، پانی کو تم اپنے حق سے اتارنے میں صرف اس بنابر زماں نہیں کرتے ہو کہ اس کا چشمہ فلاں سر زمین میں واقع ہے، اور رہشی یہ سے فائدہ اٹھانے میں تم کو صرف اس وجہ سے کریں تماں نہیں ہوتا ہے کہ وہ فلاں شخص کے چراغ سے نکل رہی ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ غالص حق کی جو نعمت تم کو محمد عربی کے ذریعہ سے مل رہی ہے۔

اس کر لئے میں تم صرف اس بیتے تاکہ اس کا پیش کرنے والا تمہاری  
صرخ میں میں پیدا نہیں ہوئا ہے۔

ترجمان القرآن (صفر ۳۵ھ - جون ۲۰۰۸ء)

---

# اسلامی قومیت کا حقیقتی مفہوم

زمانہ حال میں مسلمانوں کی جماعت کے لیے فقط "قوم" کا استعمال بڑی کثرت کے ساتھ کیا گیا ہے اور عموماً یہ اصطلاح ہماری اجتماعی چیزیت کو ظاہر کرنے کے لیے رائج ہو چکی ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اور بعض جمتوں کی طرف سے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ قرآن اور حدیث میں مسلمانوں کے لیے فقط قوم دیانتیں کے معنی میں کسی دوسرے لفظ کو اصطلاح کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا۔ میں تھقرا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان الفاظ میں اصل تباہت کیا ہے، جس کی وجہ سے اسلام میں ان سے پہ بیز کیا گیا اور وہ دوسرے الفاظ کوں سے ہیں جن کو قرآن و حدیث میں استعمال کیا گیا ہے۔ یہ مخفی ایک علی بھت نہیں ہے بلکہ اس سے ہمارے بہت سے ان تصورات کی غلطی واضح ہو جاتی ہے جن کی وجہ ندگی میں ہمارا روایہ بنیادی طور پر غلط ہو کر رہ گیا ہے۔

لفظ "قوم" اور اس کا ہم معنی انگریزی لفظ (Nation) یہ دو نوں درصل جاہلیت کی اصطلاحیں ہیں۔ اہل جاہلیت نے قومیت (Nationality) کو بھی خالص تہذیبی بنیاد پر (Cultural Basis) پر قائم نہیں کیا، نہ قدیم جاہلیت کے قدر میں اور نہ جدید جاہلیت کے درمیں۔ ان کے دل و دماغ کے ریشوں میں فسلی اور سماجی علاقوں کی محبت کچھ اس طرح پہلوی گئی ہے کہ دو فسلی رعایطاً اور تاریخی روایات کی دلستگی سے قومیت کے تصور کو کبھی پاک نہ کر سکے جس طرح قدیم عرب میں قوم کا لفظ عموماً ایک فسل یا ایک قبیلہ کے لوگوں پر بولا جاتا تھا اسی طرح تاریخی لفظ دنیش شکر کے مفہوم میں مشترک جنسیت (Common Descent) کا تصور

لازمی طور پر شامل ہے، اور یہ چیز چونکہ بنیادی طور پر اسلامی تصور اجتماع (Conception of Society) کے خلاف ہے اس وجہ سے قرآن میں لفظ قوم اور اس کے ہم معنی دوسرے عربی الفاظ مثلاً شعب وغیرہ کو مسلمانوں کی جماعت کے لیے اصطلاح کے طور پر استعمال نہیں کیا گی۔ ظاہر ہے کہ اسی اصطلاح اُس جماعت کے لیے کیونکہ استعمال کی جاسکتی ہے جس کے اجتماع کی اساس میں حون اور خاک اور زنگ اور اسی نوع کی دوسری چیزوں کا قطعاً کوئی دخل نہ تھا، جس کی تالیف و ترکیب محض اصول اور مسلک کی بنیاد پر کی گئی تھی، اور جس کا آغاز ہی ہجرت اور قطیع نسب اور ترک علاقتِ مادی سے ہوا تھا۔

قرآن نے جو لفظ مسلمانوں کی جماعت کے لیے استعمال کیا ہے وہ "حزب" ہے جس کے معنی پارٹی کے ہیں۔ تو میں نسل و نسب کی بنیاد پر الحصتی ہیں اور پارٹیاں اصول و مسلک کی بنیاد پر۔ اس لحاظ سے مسلمان حقیقت میں قوم نہیں بلکہ ایک پارٹی ہیں۔ ان کو تمام دنیا سے الگ اور ایک دوسرے سے والبستہ صرف ان بنا پر کیا گیا ہے کہ یہ ایک اصول اور مسلک کے معتقد اور پیر و ہیں۔ جن لوگوں سے ان کا اصول و مسلک میں اشتراک ہے وہ خواہ کسی ملک اور کسی قوم و نسل سے تعلق رکھتے ہوں ان میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جن سے اس چیز میں ان کا اشتراک نہیں ہے وہ خواہ ان سے قریب ترین مادی رشتے ہی کیوں نہ رکھتے ہوں، ان کے ساتھ ان کا کوئی میل نہیں ہے۔ قرآن ردِ نے زمین کی اس پوری آبادی میں ہر دو ہی پارٹیاں دیکھتا ہے، ایک اللہ کی پارٹی (حزب اللہ) دوسری شیطان کی پارٹی (حزب الشیطان)۔ شیطان کی پارٹی میں خواہ باہم اصول اور مسلک کے اعتبار سے کتنے ہی اختلافات ہوں، قرآن سب کو ایک سمجھتا ہے کیونکہ ان کا طریق غدر اور طریق عمل بہر حال اسلام نہیں ہے اور جزئی اختلافات کے باوجود پھر حال وہ سب شیطان کے اتباع پر متفق ہیں۔ قرآن کہتا ہے:-

**إِسْتَخُوذُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَنُ**      شیطان ان پر غالب آگیا اور اس نے خدا کے

فَإِنْ سَمِعُوا ذِكْرَ رَبِّهِ طُوبٌ لِّلَّذِكَ حِزْبُ  
الشَّيْطَنِ طَالِلَاتٍ حِزْبُ الشَّيْطَنِ  
هُمُ الْخَسِيرُونَ۔ (الجَاوِلَة: ۱۹) نَامَارَادِيٰ رَہْنَسْنَے دَالِی ہے۔

بر عکس اس کے اللہ کی پارٹی والے خواہش اور وطن اور زبان اور تاریخی روایا کے اعتبار سے باہم کتنے ہی مختلف ہوں، بلکہ چاہے ان کے آبا و اجداء میں باہم خوفی عدا تو ہی کیوں نہ رہ چکی ہوں، جب وہ خدا کے بناتے ہوتے طریقہ فکر اور مسلک حیات میں مستحق ہو گئے تو گویا الہی رشتے در جبل اللہ سے باہم جو گئے اور اس نئی پارٹی میں داخل ہوتے ہی ان کے تمام تعلقات حزب الشیطان والوں سے کٹ گئے۔

پارٹی کا یہ اختلاف پاپ اور بیٹے تک کا تعلق توڑ دیتا ہے، حتیٰ کہ بیٹیا باپ کی وراثت تک نہیں پاسکتا حدیث کے الفاظ ہیں لا یَسْوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتٍ وَّ  
مُخْلِفُ الْمُتَوَّلِينَ کے لوگ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔

پارٹی کا یہ اختلاف بیوی کوشہ سے مُعداً کرو دیتا ہے حتیٰ کہ اختلاف روپا ہوتے ہی دونوں پر ایک دوسرے کی موافقت حرام ہو جاتی ہے، بعض اس سے کہ دونوں کی زندگی کے راستے چُدما ہو چکے۔ قرآن میں ہے لآهُنَّ حِلٌّ لَّهُمَّ وَلَا  
هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، نہ وہ ان کے بیسے حلال نہ یہ ان کے بیسے حلال۔

پارٹی کا یہ اختلاف ایک برادری، ایک خاندان کے آدمیوں میں پورا معاشرتی مقاطعہ کر دیتا ہے حتیٰ کہ حزب اللہ والے کے بیسے خود اپنی نسلی برادری کے ان لوگوں میں شادی پیاہ کرنا حرام ہو جاتا ہے جو حزب الشیطان سے تعلق رکھتے ہوں۔ قرآن کہتا ہے "مُشْرِكُ عَوْرَتُوْنَ سے نكاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں" موسن لوڈی مشرک خاتون سے بہتر ہے خدا وہ تمہیں کتنی ہی پسند ہو نادر اپنی عورتوں کے نکاح بھی مشرک مردوں سے نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ موسن غلام مشرک آزاد شخص سے بہتر ہے چاہے وہ تمہیں کتنا ہی پسند ہو۔

پارٹی کا یہ اختلاف نسلی و دینی قومیت کا تعلق صرف کاٹ ہی نہیں دیتا بلکہ دونوں میں ایک مستقل زرع قائم کر دیتا ہے جو داماد قائم رہتی ہے تو قبیلہ وہ اللہ کی پارٹی کے اصول تسلیم نہ کر لیں۔ قرآن کہتا ہے:

تھاڑے یہے بہترین نمونہ ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ہے۔ ان لوگوں نے اپنی نسلی قوم والوں سے صاف کہہ دیا تھا کہ ہمارا تم سے اور تمہارے ان مسجدوں سے جن کی قسم خدا کو چھوڑ کر بندگی کرتے ہو کرئی واسطہ نہیں یہم تم سے بے تعلق ہو چکے اور ہمارے تھاڑے درمیان ہمیشہ کے یہے حدادت پر گئی تو قبیلہ تم خدا کے داخدر پرایاں نہ لاؤ۔ مگر تمہارے یہے ابراہیم کے اس قول میں نمونہ نہیں ہے کہ

قد کانتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَنَّةٌ  
فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ مَا دِقَّلُوا  
لِقَوْمٍ هُمْ أَنَا بِرَأْءَهُمْ وَمَنْ  
لَعِبَدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ - كَفَرُنَا  
بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ  
وَالْبَغْصَاءُ إِذَا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا  
بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ  
لَا إِلَهَ إِلَّا سُلَطَانٌ لَكَ -

المتحنہ: ۱۷)

اس نے اپنے کافر پاپ سے کہا کہ میں تیرے یہے بخشش کی دعا کروں گا۔ ابراہیم کا اپنے پاپ کے یہے بخشش کی دعا کرنا تو محض اس وعدے کی پناپ تھا جو وہ اسے کر چکا تھا، مگر حسب اس پر چھل گیا کہ اس کا پاپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس مستبردار ہو گیا۔

التوبہ: ۱۱۳)

پارٹی کا یہ اختلاف ایک خاندان والوں اور قریب ترین رشتہ داروں کے درمیان بھی محببت کا تعلق حرام کر دیا ہے جتنی کہ اگر پاپ اور بھائی اور بیٹے بھی حزب الشیطان میں شامل ہوں تو حزب اللہ والا اپنی پارٹی سے غداری کر کیا اگر ان سے محبت رکھے۔ قرآن میں ارشاد ہے۔

لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

تم ایسا ہرگز نہ پاوے گے کہ کوئی جماعت اللہ

اور یہم آخر پر ایمان بھی رکھتی ہو اور پھر اللہ  
اور رسول کے دشمنوں سے دوستی بھی رکھے  
خواہ وہ ان کے باپ بیٹے، بھائی یا شستہ  
دار ہی کیوں نہ ہوں... یہ اللہ کی پارٹی کے  
لوگ ہیں اور جان رکھو کہ آخر کار اللہ کی پارٹی

دلے ہی فلاح پانے والے ہیں۔

دوسرانفظ جو پارٹی ہی کے معنی میں قرآن نے مسلمانوں کے لیے استعمال کیا ہے  
وہ لفظ "امّت" ہے۔ حدیث میں بھی یہ لفظ کثرت سے مستعمل ہوا ہے۔ امت اس  
جماعت کو کہتے ہیں جس کو امر جامع نے متحتع کیا ہو جن افراد کے درمیان کوئی اصل  
مشترک موجود ہو ان کو اسی اصل کے لحاظ سے "امّت" کہا جاتا ہے۔ مثلاً ایکے مانہ  
کے لوگ بھی "امّت" کہے جاتے ہیں۔ ایک نسل یا ایک ملک کے لوگ بھی امت  
کہے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو جس امر مشترک کی بناء پر امت کہا گیا ہے وہ نسل یا طین  
یا معاشی اغراض نہیں ہیں بلکہ وہ ان کی زندگی کا مشن اور ان کی پارٹی کا اصول  
او مسلمک ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے:-

تم وہ بہترین امت ہو جسے نوع انسانی  
کے لیے نکالا گیا ہے۔ تم نبی کا حکم دیتے ہو  
بدی سے روکتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے

ہو۔

اور اس طرح ہم نے تم کو ایک بیچ کی امت  
بنایا ہے تاکہ تم نوع انسانی پر نگران ہو  
اور رسول تم پر نگران ہو۔

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُجَوَّدُونَ مَنْ حَادَ  
إِلَهُهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا أَبَاءُهُمْ  
أَوْ أَبْنَاءُهُمْ أَوْ أَخْوَانَهُمْ أَفَ  
عَشِيرَةُهُمْ ... ... أُولَئِكَ  
جِزِّبُ اللَّهِ الْأَرَى حِزْبَ اللَّهِ  
هُمُ الْمُفْلِحُونَ - راجحاویہ: ۲۷

كُنْتُمْ خَيْرًا مِمَّا يُخْرِجُ  
لِلنَّاسِ تَاهِرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَ  
تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ

بِاللَّهِ - رآل عمران: ۱۱۰  
وَكَذَلِكَ حَعَلْنَاكُمْ أَمَّةً  
وَسَطَالِتُكُوْنُوا شُهَدَاءَ عَلَىٰ  
النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَدِيكُمْ

لہ لفظ وسط کے معنی متواتراً اور درمیانی کے ہیں اور اسی معنی سے اعلیٰ اور اشرف کا مفہوم بھی پیدا ہو جائے۔  
بلشہرید کے معنی گواہ کے بھی ہیں اور نگران کے بھی۔ اور یہ دونوں مفہوم ایک دوسرے سے بڑے ہوئے ہیں۔

شہیداً - (جعہ : ۱۳۲)

ان آیات پر غور کیجئے۔ یہ سچ کی امتت سے مراد یہ ہے کہ "مسلمان" ایک بین الاقوامی جماعت (International Party) ہے جو دنیا کی بس اری قوموں میں سے ان اشخاص کو چھانٹ کر نکالا گیا ہے جو ایک خاص اصول کو نافذ، ایک خاص پروگرام کو عمل میں لانے اور ایک خاص مشن کو انجام دینے کے لیے تیار ہوں یہ لوگ چونکہ ہر قوم میں سے نکلے ہیں اور ایک پارٹی بن جانے کے بعد کسی قوم سے بھی ان کا تعلق نہیں رہا ہے، اس لیے یہ سچ کی امتت ہیں۔ لیکن ہر ہر قوم سے اتنے توڑنے کے بعد سب قوموں سے ان کا ایک دوسرا تعلق قائم ہو گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں خدا تعالیٰ فوجدار کے فرائض سرانجام دیں۔ تم نوع انسانی پر نگران ہوئے کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ مسلمان خدا کی طرف سے دنیا میں فوجدار مقرر کیا ہے۔ اور نوع انسانی کے لیے نکالا گیا ہے۔ کافر و صاف کہہ رہا ہے کہ مسلمان کا مشن ایک عالمگیر مشن ہے۔ اس مشن کا خلاصہ یہ ہے کہ "حزب اللہ" کے یہود رہیم نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر و عمل کا جو صنابطر خدا نے دیا تھا اس کو تمام ذہنی، اخلاقی اور مادی طاقتیوں سے کام لے کر دنیا میں نافذ کیا جائے اور اس کے مقابلہ میں ہر دوسرے طریقہ کو مغلوب کر دیا جائے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی بنیاد پر مسلمان ایک امتت بنائے کئے ہیں۔

پس اس طلاقی لفظ جو مسلمانوں کی اجتماعی حیثیت خاہر کرنے کے لیے ہوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت استعمال کیا ہے وہ لفظ "جماعت" ہے اور یہ لفظ بھی "حزب" کی طرح بالکل پارٹی کا ہم معنی ہے۔ عَدِيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ اور یہ دُلَّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ اور ایسی ہی بکثرت احادیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "شیخ" قوم، یا "شعب" یا اس کے ہم معنی دوسرے الفاظ استعمال کرنے سے قصد احتراز فرمایا اور ان کے بجائے "جماعت" ہی کی مطلبه استعمال کی۔ آپ نے بھی فرمایا کہ "ہمیشہ قوم کے ساتھ رہو" یا "قوم پر خدا کا ہاتھ

ہے، بلکہ لیے تھام مواقع پر آپ جماعت ہی کا فقط استعمال فرماتے تھے اس کی درجہ صرف یہ ہے اور یہی ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کے اجتماع کی نوعیت ظاہر کرنے کے لیے "قوم" کے بجائے جماعت، حزب اور پارٹی کے الفاظ ہی زیادہ مناسب ہیں۔ قوم کا فقط جن معنوں میں ہموڑا مستعمل ہوتا ہے ان کے لحاظ سے ایک شخص خواہ وہ کسی مسئلک اور کسی اصول کا پیر وہ ہو، ایک قوم میں شامل رہ سکتا ہے جبکہ وہ اس قوم یعنی پیدا ہوا ہوا اور اپنے نام، طرز زندگی اور معاشرتی تعلقات کے اعتبار سے اس قوم کے ساتھ مسئلک ہو۔ لیکن پارٹی جماعت اور حزب کے الفاظ جن معنوں میں مستعمل ہوتے ہیں، ان کے لحاظ سے اصول و مسئلک ہی پر پارٹی میں شامل ہونے یا اس سے خارج ہونے کا مدار ہوتا ہے۔ آپ ایک مارٹی کے اصول و مسئلک سے بہٹ چلنے کے بعد ہرگز اس میں شامل نہیں رہ سکتے، نہ اس کا نہم استعمال کر سکتے ہیں، نہ اس کے نمائندے بُن سکتے ہیں، نہ اس کے مقام کے محافظین کر نہو دار ہو سکتے ہیں، اور نہ پارٹی والوں سے آپ کا کسی طور پر تعاون ہو سکتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یعنی پارٹی کے اصول و مسئلک سے تو متفق نہیں ہوں، لیکن میرے والدین اس پارٹی کے ممبر ہو چکے ہیں اور میرا نام اس کے ممبروں سے ملتا جلتا ہے اس لیے مجھے ممبروں کے سے حقوق ملنے چاہیں، تو آپ کا یہ استدلال اتنا مضحكہ خیز ہو گا کہ شاید سننے والوں کو آپ کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگئے گا۔ لیکن پارٹی کے تصور کو قوم کے تصور سے بدل دیا گی۔ اس کے بعد یہ سب حرکات کرنے کی گنجائش نکل آتی ہے۔

اسلام نے اپنی بین الاقوامی پارٹی کے اور ان میں یک جتنی اور ان کی مدد نہیں کیں بلکہ اپنے کے لیے اور ان کی ایک سوسائٹی بنادیئے کے لیے حکم دیا تھا کہ آپنے ہی میں شادی بیاہ کرو۔ اس کے ساتھ ہی ان کی اولاد کے لیے تعلیم و تربیت کا ایسا انتظام تجویز کیا گیا تھا کہ وہ خود نہو پارٹی کے اصول و مسئلک کے پیر و بن کر اٹھیں اور نہیں کے ساتھ ساتھ افزائش نسل سے بھی پڑیں۔

کی قوت بڑھتی رہتے ہے یہیں سے اس پارٹی کے قوم بننے کی ابتداء ہوتی ہے۔ بعد میں مشترک معاشرت، انسانی تعلقات اور تاریخی روایات نے اس قومیت کو زیادہ مستحکم کر دیا۔

اس حد تک تو جو کچھ ہوا درست ہوا۔ لیکن رفتہ رفتہ مسلمان اس حقیقت کو بھروسے گئے کہ وہ دراصل ایک پارٹی ہیں اور پارٹی ہونے کی حیثیت ہی پران کی قومیت کی اساس رکھی گئی ہے۔ یہ بھلا دعا بڑھتے بڑھتے اب بہاں تک پہنچ گیا ہے کہ پارٹی کا تصور قومیت کے تصور میں بالکل ہی گم ہو گیا۔ مسلمان اب صرف ایک "قوم" بن کر رہ گئے ہیں، اسی طرح کی قوم جیسی کہ جو من ایک قوم ہے یا جاپانی ایک قوم ہے، یا انگریز ایک قوم ہے۔ وہ بھول گئے ہیں کہ اصل چیزوں اصول اور مذکور ہے جس پر اسلام نے ان کو ایک امت بنایا تھا، وہ مشن ہے جس کو پورا کرنے کے لئے اس نے اپنے پیرویوں کو ایک پارٹی کی صورت میں منظم کیا تھا۔ اس حقیقت کو فرمائش کر کے انہوں نے غیر مسلک قوموں سے "قومیت" کا جاہلی تصور لے لیا ہے۔ یہ ایسی بنیادی غلطی ہے اور اس کے قیح اثرات اتنے پھیل گئے ہیں کہ اجیاتے اسلام کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھ سکتا جب تک کہ اس غلطی کو مٹانہ دیا جائے۔

ایک پارٹی کے ارکان میں باہمی محبت، رفاقت اور معاونت جو کچھ بھی ہوتی ہے، شخصی یا خاندانی حیثیت سے نہیں ہوتی، بلکہ صرف اس بنابر پر ہوتی ہے کہ وہ بہ ایک اصول کے معتقد اور ایک مذکور کے پیروی ہوتے ہیں۔ پارٹی کا ایک رکن اگر جتنا اصول اور مذکور سے ہٹ کر کوئی کام کرے تو صرف یہی نہیں کہ اس کی مددگاری پارٹی والوں کا فرض نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد پارٹی والوں کا فرض یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایسے عذارانہ طرز عمل سے روکیں، نہ مانے تو اس کے خلاف جماعتی ضوابط کے تحت سخت کارروائی کریں، پھر بھی نہ مانے تو جماعت سے نکال باہر کریں۔ اسی مثالیں بھی دنیا میں ناپید نہیں ہیں کہ جو شخص پارٹی کے مذکور سے انحراف کرتا ہے اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن فرمسلمانوں کا حال دیکھئے کہ اپنے آپ کو پارٹی کے لئے اسلام میں قتل قتل کی بھی بناتے ہے۔ فرمی اسراکی بھی اسٹرائیٹس سے قتل ہونے کی بھی مزادریتے ہیں۔

بجائے "قوم" سمجھنے کی وجہ سے یہ کسی شدید غلط فہمی میں بدلنا ہو گئے ہیں۔ ان میں سے جب کوئی شخص اپنے فائدے کے لیے غیر اسلامی اصولوں پر کام کرتا ہے تو دوسرے مسلمانوں سے توقع رکھتا ہے کہ اس کی مدد کریں گے۔ اگر مدد نہیں کی جاتی تو شکایت کرتا ہے کہ دیکھو مسلمان مسلمان کے کام نہیں آتے۔ سفارش کرنے والے اس کی سفارش ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ ایک مسلمان بھائی کا بھلا ہوتا ہے اس کی مدد کرو۔ مدد کرنے والے بھی اگر اس کی مدد کرتے ہیں تو اپنے اس فعل کو اسلامی ہمدردی سے موسوم کرتے ہیں۔ اس سارے معاملہ میں ہر ایک کی زبان پر اسلامی ہمدردی اسلامی برادری، اسلام کے رشتہ دینی کا نام بار بار آتا ہے۔ حالانکہ درحقیقت اسلام کے خلاف عمل کرنے میں خود اسلام ہی کا حوالہ دینا اور اس کے نام سے ہمدردی کرنا صیغہ لغو بات ہے جس اسلام کا یہ لوگ نام لیتے ہیں اگر حقیقت میں وہ ان کے اندر زندہ ہو تو جو نہی کہ ان کے علم میں یہ بات آتے کہ اسلامی جماعت کا کوئی شخص کوئی کام اسلامی نظریہ کے خلاف کر رہا ہے، یہ اس کی مخالفت پر کریبتہ ہو جاتیں اور اس سے تو پہ کر کے چھوڑیں کسی کا مدد چاہنا اور کسی کا سفارش کرنا تو درکنار، ایک نہ اسلامی سوسائٹی میں تو کوئی شخص اصول اسلام کی خلاف وزری کا نام لے زبان پر نہیں لے سکتا۔ لیکن آپ کی اس سوسائٹی میں رات دن بھی معاملہ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ بجز اس کے کچھ نہیں کہ آپ کے اندر جاہلی قومیت آگئی ہے۔ جس چیز کو آپ اسلامی اخوت کہہ رہے ہیں یہ دراصل جاہلی قومیت کا رشتہ ہے جو آپ نے غیر مسلموں سے لے لیا ہے۔

اسی جاہلیت کا ایک کشمکش یہ ہے کہ آپ کے اندر "قومی منفاد" کا ایک عجیب تصور پیدا ہو گیا ہے اور آپ اس کو بے تکلف "اسلامی منفاد" بھی کہہ دیا کرتے ہیں۔ یہ نام نہاد اسلامی منوار یا قومی منفاد کیا چیز ہے؟ یہ کہ جو لوگ "مسلمان" کہلاتے ہیں ان کا بھلا ہو، ان کے پاس وفات آتے، ان کی عزت بڑھے، ان کو اعتماد انصیب ہو، اور کسی نہ کسی طرح ان کی دنیا بن جاتے بلکہ اس کے کہ یہ سب فائدے

اسلامی نظریہ اور اسلامی اصول کی پیروی کرتے ہوتے ماحصل ہوں یا خلاف ورزی کرتے ہوتے۔ پیدائشی مسلمان یا خاندانی مسلمان کو آپ مسلمان ہے کہتے ہیں چاہے اس کے خیالات اور اس کے طرزِ عمل میں اسلام کی صفت کہیں ڈھونڈنے سے نہیں ہو۔ گریا آپ کے نزدیک مسلمان روح کا نام نہیں بلکہ جسم کا نام ہے اور صفت اسلام سے قطع نظر کر کے بھی ایک شخص کو مسلمان کہا جاسکتا ہے۔ اس غلط تصور کے ساتھ جن جسموں کا اسم ذات آپ نے مسلمان رکھ چھوڑا ہے ان کی حکومت کو آپ اسلامی حکومت، ان کی ترقی کو آپ اسلام کی ترقی، ان کے فائدے کو آپ اسلامی مفاد قرار دیتے ہیں، خواہ یہ حکومت اور یہ ترقی اور یہ مفاد سراسر اسلام کے منافی ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح جو قومیت کسی اصول کا نام نہیں، محض ایک قومیت کا نام ہے اور جس طرح ایک جرم قوم پرست صرف جرمتوں کی سرطانی چاہتے ہیں خواہ یہ سرطانی اصول اور عمل اسلام کے بالکل بر عکس ملتفقوں کی پیروی کا نتیجہ ہو۔ کیا یہ جاہلیت نہیں ہے؟ کیا درحقیقت آپ اس بات کو بھول نہیں سکتے ہیں کہ مسلمان صرف اس بین الاقوامی پارٹی کا نام تھا جو دنیا میں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ایک خاص نظریہ اور ایک عملی پروگرام کے کراحتی تھی؟ اس نظریہ اور پروگرام کو الگ کر دینے کے بعد محض اپنی شخصی یا اجتماعی حیثیت سے جو لوگ کسی دوسرے نظریہ اور پروگرام پر کام کرتے ہیں ان کے کاموں کو آپ "اسلامی" کہ سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سنایے کہ جو شخص سرمایہ داری کے اصول پر کام کرتا ہوا سے اشتراکی کے نام سے یا دیکھا جائے؟ کیا سرمایہ دارانہ حکومت کو کبھی آپ اشتراکی حکومت کہتے ہیں؟ کیا فاششی طرزِ ادارہ کو آپ جمہوری طرزِ ادارہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں؟ اگر کوئی شخص اس طرح اصطلاح حمل کو بے جا استعمال کرے تو آپ شاید اسے جاہل اور بے وقوف کہتے ہیں ذرا تامل نہیں کریں گے۔ مگر یہاں ہم

و سمجھتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان کی اصطلاح کو بالکل بے جا استعمال کیا جا رہا ہے اور اس میں کسی کو جاہلیت کی جو تک محسوس نہیں ہوتی۔

مسلمان لفظ خود ظاہر کر رہا ہے کہ یہ "اسم ذات" نہیں بلکہ "اسم صفت" ہی ہو سکتا ہے، اور "پیر و اسلام" کے سوا اس کا کوئی دوسرا مفہوم سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ انسان کی اس خاص ذہنی، اخلاقی اور عملی صفت کو ظاہر کر رہا ہے جس کا نام "اسلام" ہے۔ لہذا آپ اس لفظ کو شخص مسلمان کے لیے اس طرح استعمال نہیں کر سکتے جس طرح آپ پندو یا جاپانی یا چینی کے الفاظ شخص ہندو یا شخص جاپانی یا شخص چینی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا سانام رکھنے والا جو ہبھی اصول اسلام سے ہٹا اس سے مسلمان ہونے کی حیثیت خود بخوبی سلب ہو جاتی ہے۔ اب وہ جو کچھ کرتا ہے اپنی شخصی حیثیت میں کرتا ہے، اسلام کا نام اسے استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اسی طور پر مسلمان کا مفاد، "مسلمان کی ترقی"، "مسلمان کی حکومت و ریاست"، مسلمان کی وزارت، "مسلمانوں کی تنظیم" اور ایسے ہی دوسرے الفاظ آپ صرف ان موقع پر بول سکتے ہیں جبکہ یہ چیزیں اسلامی نظر پر اور اصول کے مطابق ہوں اور اسی مشن کو پورا کرنے سے متعلق ہوں جو اسلام لے کر آیا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہو تو ان میں سے کسی چیز کے ساتھ بھی لفظ مسلمان کا استعمال وہ نہ ہے، آپ ان کو جس دوسرے نام سے چاہیں موسوم کریں، بہر حال مسلمان کے نام سے موسوم نہیں کر سکتے، کیونکہ صفت اسلام سے قطع نظر کر کے مسلمان سرے سے کوئی شے ہی نہیں ہے۔ آپ کبھی اس بات کا تصور نہیں کر سکتے کہ اشتراکیت سے قطع نظر کر کے کسی شخص یا قوم کا نام اشتراکی ہو اور اس معنی میں کسی مفاد کو اشتراکی مفاد یا کسی حکومت کو اشتراکی حکومت یا کسی تنظیم کو اشتراکیوں کی تنظیم یا کسی ترقی کو اشتراکیوں کی ترقی کہا جاسکے۔ پھر آخر مسلمان کے معاملہ میں آپ نے یہ کہیں سمجھو رکھا ہے کہ اسلام سے قطع نظر کر کے مسلمان کسی شخص یا قوم کا ذاتی نام ہے اور اس کی ہر چیز کو اسلامی کہہ دیا جاسکتا ہے۔

اس غلط فہمی نے بنیادی طور پر اپنی تہذیب، اپنے تذکرے اور اپنی تاریخ کے

متعلق آپ کے روایہ کو غلط کر دیا ہے۔ جو بادشاہیں اور حکومتیں غیر اسلامی اصولوں پر قائم ہوئی تھیں آپ ان کو "اسلامی حکومتیں" کہتے ہیں میں محض اس لیے کہ ان کے تحت نہیں مسلمان تھے۔ جو تمدن قرطیہ و بغداد اور رہی و خاہروہ کے عیش پرست درباروں میں پروردش پایا تھا آپ اسے "اسلامی تمدن" کہتے ہیں، حالانکہ اس کو اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ آپ سے جب اسلامی تہذیب کے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو آپ جھٹ سے آگرہ کے تاج محل کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ گویا یہ ہے اس تہذیب کا سب سے ندیاں نہون۔ حالانکہ اسلامی تہذیب سرے سے یہ ہے نہیں کہ ایک میت کو پر دخاک کرنے کے لیے ایکڑوں زین متنقل طور پر گھیر لی جاتے اور اس پر لاکھوں روپے کی عمارت تیار کی جاتے۔ آپ جب اسلامی تاریخ کے مفاخر بیان کرنے پر اکٹھے ہیں تو عباسیوں، سلجوقیوں اور مغلوں کے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقی اسلامی تاریخ کے نقطہ نظر سے ان کارناموں کا بڑا حصہ آب زر سے ہے بلکہ سیاہ روشنائی سے جراحت کی فہرست میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ نے مسلمان بادشاہوں کی تاریخ کا نام "اسلامی تاریخ" رکھ چکوڑا ہے، بلکہ آپ اسے "تاریخ اسلام" بھی کہہ دیتے ہیں، گویا ان بادشاہوں کا نام اسلام ہے۔ آپ بجا تے اس کے کہ اسلام کے مشن لا اور اس کے اصول و نظریات کو سامنے رکھ کر اپنی گزشتہ تاریخ کا احتساب کریں اور پورے انصاف کے ساتھ اسلامی حرکات کو غیر اسلامی حرکات سے ممتاز کر کے دیکھیں اور دکھائیں، اسلامی تاریخ کی خدمت آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ مسلمان حکمرانوں کی حمایت و مدد کریں۔ آپ کے زادیہ نظر میں یہ بھی صرف اس لیے پیدا ہوئی کہ آپ مسلمان کی ہر چیز کو "اسلامی" سمجھتے ہیں اور آپ کا یہ گمان ہے کہ جو شخص مسلمان کہلاتا ہے وہ اگر غیر مسلمان طریق پر بھی کام کرے تو اس کے کام کو مسلمان کا کام کہا جا سکتا ہے۔

یہی ٹیڑھا زاویہ نظر آپ نے اپنی ملی سیاست میں بھی اختیار کر رکھا ہے اسلام کے اصول و نظریات اور اس کے مشن سے قطع نظر کر کے آپ ایک قوم کو مسلم قوم کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اس قوم کی طرف سے، یا اس کے نام سے، یا اس کے لیے

پر شخص اور پھر گروہ من مانی کا رد و آئیاں کر سکتا ہے۔ آپ کے نزدیک ہر وہ شخص ملمازوں کا نمائندہ، بلکہ ان کا لیڈر بھی بن سکتا ہے جو مسلمانوں کی قوم سے تعلق رکھتا ہو، خواہ اس غریب کو اسلام کے متعلق کچھ بھی معلوم نہ ہو۔ آپ ہر اس پارٹی کے ماتحت لگ چکنے کو تیار ہو جاتے ہیں جس کی پیروی میں آپ کو کسی نوعیت کا فائدہ نظر آتے جو وہ اس کامش اسلام کے مشن سے کتنا بھی مختلف ہو۔ آپ خوش ہو جاتے ہیں جب مسلمانوں کو چار روپیاں ملنے کا کوئی انتظام ہو جاتے، خواہ اسلام کی نگاہ میں وہ حرام کی روپیاں بھی کیوں نہ ہوں۔ آپ بھروسے نہیں سمجھتے جب کسی عجہہ مسلمان آپ کو اقتدار کی کرسی پر پہنچانا نظر آتا ہے، خواہ وہ اس اقتدار کو بالکل اسی طرح غیر اسلامی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہو جس طرح ایک غیر مسلم کر سکتا ہے۔ آپ اکثر ان چیزوں کا نام اسلامی مفاد رکھتے ہیں جو حقیقتہ غیر اسلامی ہیں، ان اداروں کی حمایت اور حفاظت پر اپنا زور صرف کرتے ہیں جو اصول اسلام کے بالکل خلاف قائم ہوتے ہیں، اور ان مقاصد کے پیچھے اپنے اپنے اور اپنی قومی طاقت ضائع کرتے ہیں جو پھر گز اسلامی نہیں ہیں۔ پہلے متأنج اسی ایک نبیادی غلطی کے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو محض ایک قوم سمجھ رکھا ہے اور اس حقیقت کو آپ بھول گئے ہیں کہ وصال اپ ایک "بن الاقوامی بیارٹ" ہیں جس کا کوئی مفاد اور کوئی مقصد اپنی پارٹی کے اصولوں کو دنیا میں حکمران بنانے کے ہوا نہیں ہے۔ جتنا کہ آپ اپنے اندر قوم کے بھارتے پارٹی کا تصور پیدا نہ کریں گے اور اس کو زندہ تصور نہ بنائیں گے، زندگی کے کسی معاملہ میں بھی آپ کا رد ویہ درست نہ ہو گا۔

در زبان القرآن صفت شہدہ۔ اپریل ۱۹۷۸ء)

**استدراءک** اصحاب نے اس شبہ کا اظہار کیا کہ "اسلامی جماعت" کو "دن قوم" کے بھارتے پارٹی کہنے میں اس امر کی گنجائش نکلتی ہے کہ وہ کسی وطنی قومیت کی جزیں کر رہے ہے۔ جس طرح ایک قوم میں مختلف سباصی پارٹیاں ہوتی ہیں اور اپنا اگ

مذکور رکھنے کے باوجود سب کی سب اس بڑے مجموعہ میں شامل رہتی ہیں جس کو "قوم" کہا جاتا ہے، اسی طرح اگر مسلمان ایک پارٹی میں تواریخی اپنے دین کی قوم کا جزو بن کر رہا رکھتے ہیں۔

چونکہ جماعت یا پارٹی کے لفظ کو عام طور پر لوگ سیاسی جماعت یا پولیٹیکل پارٹی کے معنی میں لیتے ہیں اس وجہ سے وہ غلط فہمی پیدا ہوتی جس کا اور پروگرام کیا گی ہے۔ لیکن یہ لفظ کا اصل مفہوم نہیں ہے بلکہ ایک خاص معنی میں بکثرت مستعمل ہونے سے پیدا ہو گیا ہے۔ اصلی مفہوم اس لفظ کا یہ ہے کہ جو لوگ ایک مخصوص عقیدے، نظریے، مذکور اور مقصد پر متعصب ہوں وہ ایک جماعت ہیں۔ اسی معنی میں قرآن نے "زب" اور "امت" کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور اسی معنی میں "جماعت" کا لفظ اضافہ اور آثار میں مستعمل ہوا ہے اور یہی مفہوم "پارٹی" کا بھی ہے۔

اب ایک جماعت تواریخی ہے جس کے پیش نظر ایک قوم یا مذکور کے مخصوص حالات کے لحاظ سے سیاسی تدبیر کا ایک خاص نظریہ اور پروگرام ہوتا ہے اس قسم کی جماعت محض ایک سیاسی جماعت ہوتی ہے اس لیے وہ اس قوم کا جزو کر کام کر سکتی ہے اور کتنی ہے جس میں وہ پیدا ہو۔

دوسری جماعت وہ ہوتی ہے جو ایک کلی نظریہ اور جماعتی تصور (World Idea) کے کراحتی ہے، جس کے سامنے تمام نوع انسانی کے لیے دبالمحاظ قوم و دین ایک عالمگیر مذکور ہوتا ہے، جو پوری زندگی کی تشکیل و تعمیر ایک نئے دھنگ پر کرنا چاہتا ہے، جس کا نظریہ دمکت عقائد و افکار اور اصول و اخلاق سے ہے کہ انفرادی برتاؤ اور اجتماعی نظام کی تفصیلات تک ہر چیز کو اپنے ساتھے میں رکھانا چاہتا ہے، جو ایک مستقل تہذیب اور ایک مخصوص تمدن (Civilization) کو وجود میں لانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ جماعت بھی اگرچہ حقیقت میں ایک جماعت ہی ہوتی ہے لیکن یہ اس قسم کی جماعت نہیں ہوتی جو کسی قوم کا جزو کر کام کر سکتی ہو۔ یہ محدود قومیوں سے بالاتر ہوتی ہے۔ اس کا تو مشن ہی یہ ہوتا ہے کہ ان سلسلہ دروایتی تعلیمات کو

تودے سے جن پر دنیا میں مختلف قومیتیں بنی ہیں، پھر یہ خود اپنے آپ کو کس طرح ان قومیتوں کے ساتھ دو اپستہ کر سکتی ہے؟ یہ نسلی ذمہ داری کی قومیتوں کی بجائے ایک عقلی قومیت (Rational Nationality) بناتی ہے۔ جامد قومیتوں کی وجہ ایک نامی قومیت (Expanding Nationality) بناتی ہے، یہ خود ایک ایسی قومیت ہے جو عقلی و تہذیبی اور اصولی وحدت کی بنیاد پر دنے والے زمین کی پوری آبادی کو اپنے میں لینے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ لیکن ایک قومیت بننے کے باوجود حقیقت میں یہ ایک جماعت ہی رہتی ہے، کیونکہ اس میں شامل ہونے کا مدار پیدائش پر نہیں ہوتا بلکہ اس نظریہ و ملک کی پسروی پر ہوتا ہے جس کی بنیاد پر یہ جماعت بنی ہے۔

مسلمان دراصل اسی دوسری قسم کی جماعت کا نام ہے۔ یہ اس قسم کی پارٹی نہیں ہے جیسی پارٹیاں ایک قوم میں بنائی گئی ہیں بلکہ اس قسم کی پارٹی ہے جو ایک مستقل نژاد تہذیب و تمدن (Civilization) بنانے کے لیے اختیار ہے اور چھوٹی چھوٹی قومیتوں کی سرحدوں کو توڑ کر عقلی بنیادوں پر ایک بُری جهانی قومیت (World Nationality) بنانا چاہتی ہے۔ اس کو "قوم" کہنا اس لحاظ سے یقیناً درست ہو گا کہ یہ اپنے آپ کو دنیا کی نسلی یا تاریخی قومیتوں میں سے کسی قومیت کے ساتھ بھی باعتبار تمدن یا باعتبار خوبیات دا بستہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی بلکہ لذپہ نظریہ حیات اور فلسفہ اجتماعی (Social Philosophy) کے مطابق خود اپنی پیدائش (mere Accident) کی عمارت بناتی ہے۔ لیکن اس معنی کے لحاظ سے "قوم" ہونے کے باوجود یہ حقیقت میں "جماعت" ہی رہتی ہے کیونکہ محض آتفاتی پیدائش (of Birth) کسی شخص کو اس قوم کا ممبر نہیں بن سکتی جبکہ تک کہ وہ اس کے ملک کا مقتند اور پسروند ہو۔ اور اسی طرح کسی شخص کا کسی دوسری قوم میں پیدا ہونا اس کے لیے اس امر میں مانع نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی قوم سے نکل کر اس قومیت میں داخل ہو جاتے جبکہ کہ وہ اس کے ملک پر ایمان لانے کے لیے تیار ہو۔ پس جو کچھ میں نے کہا ہے اس کا

مسئلہ دراصل یہ ہے کہ مسلم قوم کی قومیت اس کے ایک جماعت یا پارٹی ہونے بی کی بنا پر فائم ہے۔ اس کی قومی چیزیت اس کی جماعتی چیزیت کی فرع ہے۔ اگر جماعتی چیزیت کو اس سے الگ کر لیا جائے۔ اور یہ مجرد ایک قوم ہن کر رہ جائے تو یہ اس کا نسل (Degeneration) ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ انسانی اجتماعات کی تاریخ میں اسلامی جماعت کی چیزیت باشکل نہال اور انہی واقع ہوئی ہے۔ بوحدت اور یقینیت نے قومیتوں کے حدود توڑ کر تمام عالم انسانی کو خطاب تو کیا تھا اور ایک نظریہ و مذکوہ کی بنیاد پر عالمگیر برادری بنانے کی کوشش بھی کی تھی مگر ان دونوں مسلکوں کے پاس چند اخلاقی ہموڑ کے سوا کوئی ایسا اجتماعی فلسفہ نہ تھا جس کی بنیاد پر یہ تہذیب و تمدن کا کوئی کلی نظام بن سکتے۔ اس یہے یہ دونوں مذکوہ کوئی عالمگیر قومیت نہ بن سکے بلکہ ایک طرح کی برادری (Brother hood) بن کر رہ گئے۔ بعد میں مغرب کی سائیٹنگ تہذیب ایسی جس نے اپنے خطاب کو بین الاقوامی بنانا چاہا، مگر اول یوم پیدائش سے اس پر نیشنلزم کا بھوت سورہ ہو گیا لہذا یہ بھی عالمگیر قومیت بننے میں ناکام ہوئی۔ اب ماکسی اشتراکیت آگے بڑھی ہے اور قومیتوں کی حدود کو توڑ کر جہانی تصور کی بنیاد پر ایک ایسی تہذیب وجود میں لانا چاہتی ہے جو عالمگیر ہو۔ لیکن چونکہ ابھی تک وہ نئی تہذیب پوری طرح دجوہ میں نہیں آئی ہے جو اس کے پیش نظر ہے، اس یہے ابھی تک ماکسیت بھی ایک عالمگیر قومیت میں تبدیل نہیں ہو سکی ہے۔ اس وقت تک میڈن میں تنہا اسلام ہی ایک ایسا نظریہ و مذکوہ ہے جو فسلی اور تاریخی قومیتوں کو توڑ کر

لے بلکہ اب خود مارکسیت کے اندر بھی نیشنلزم کے جراثیم بیخ پڑھنے ہیں۔ اس لیے اس کی جستارے طرز عمل میں روپی قوم پرستی کا جذبہ روز بروز نمایاں ہوتا جا رہا ہے۔ روپی اشتراکیت کے لیے پریمی، ہتنی کہ نہستہ کے جدید روپی دستور حکومت میں بھی جگہ جگہ "فادر بینڈ" رہا ہے۔ کافر کرتا ہے۔ مگر اسلام کو دیکھئے یہ ہر جگہ "مارالاسلام" نہما نقطع استعمال کرتا ہے نہ کہ فادر بینڈ یا مارالاسلام۔

تہذیبی نبیا دوں پر ایک عالمگیر قومیت بناتا ہے۔ لہذا جو لوگ اسلام کی اپرٹ سے اچھی طرح واقع نہیں ہیں ان کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک ہی اجتماعی پدیت کس طرح بیک وقت قوم بھی اور پارٹی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ دنیا کی حقیقی قومیں کو جانتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جس کے ارکان پیدا نہ ہوتے ہوں بلکہ بنتے ہوں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جو شخص اُنمایین پیدا ہوا ہے وہ اُنمایین قوم کا رکن ہے اور جو اُنمایین پیدا نہیں ہوا وہ کسی طرح اُنمایین نہیں بن سکتا۔ ایسی قومیت سے وہ واقع نہیں ہیں جس کے اندر آدمی اعتقاد اور مسلمک کی بن پر داخل ہوتا ہوا اور اعتقاد مسلمک کے بدل جانے پر اس سے خارج ہو جاتا ہو۔ ان کے نزدیک یہ صفت ایک قوم کی نہیں بلکہ ایک پارٹی کی ہی ہو سکتی ہے۔ مگر جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ زدی پارٹی اپنی الگ تہذیب بناتی ہے، اپنی مستقل قومیت کا ادعہ کرتی ہے اور کسی جگہ بھی مقامی قومیت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنے پر راضی نہیں ہوتی تو ان کے لیے یہ معاملہ ایک چیختاں بگردہ چاتا ہے۔

یہی ناقہ بھی غیر مسلموں کی طرح مسلمانوں کو بھی پیش آ رہی ہے۔ ملتوں سے غیر اسلامی تعلیم و تربیت پلتے رہنے اور غیر اسلامی ماحول میں زندگی گزارنے کی وجہ سے ان کے اندر ٹارتار بخی قومیت کا جاہلی تصور پیدا ہو گیا ہے۔ یہ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ ہماری اصل حیثیت ایک ایسی جماعت کی تھی جو دنیا میں عالمگیر انقلاب برپا کرنے کے لیے وجود میں آئی تھی، جس کی زندگی کا مقصد اپنے نظریہ کو دنیا میں پھیلانا تھا، جس کا کام دنیا کے غلط اجتماعی نظمات کو توڑ پھوڑ کر اپنے فلسفۃ اجتماعی کی بنیاد پر ایک عالمگیر اجتماعی نظام مرتب کرنا تھا۔ یہ سب کچھ بھول بھال کر انہوں نے اپنے آپ کو بس اسی قسم کی ایک قوم سمجھ دیا ہے جیسی اور بہت سی قومیں موجود ہیں۔ اب ان کی محلوں اور انجمنوں میں، ان کی کافر نسوں اور جمعیتوں میں، ان کے اخباروں اور رسائلوں میں کہیں بھی ان کی اجتماعی زندگی کے اس مشن کا ذکر نہیں آتا جس کے لیے ان کو دنیا بھر کی قومیں میں سے نکال کر ایک امت بنایا گیا تھا۔ اس مشن کے بعد سے اب جو چیزان کی

تمہارے بیان کا مرکز بنی ہوئی ہے وہ مسلمانوں کا منفاذ ہے — مسلمانوں سے مراد وہ سب لوگ ہیں جو مسلمان مان باپ کی نسل سے پیدا ہوتے ہوں، اور منفاذ سے مراوائی نسل مسلمانوں کا مادی و سیاسی منفاذ ہے یا بد رجہ آخر اس کلچر کا تحفظ ہے جو ان کو آبائی ورثتہ میں ملی ہے — اس منفاذ کی حفاظت اور ترقی کے لیے جو تم پیر بھی کافر ہو اس کی طرف یہ دوڑ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح مسوینی ہر اس طریقہ کو فتحی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا جو اٹالیوں کے منفاذ کے لیے مناسب ہو۔ کسی اصول و نظریہ کا وہ پابند نہ تھا نہ یہ ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ جو کچھ اٹالیوں کے لیے منفید ہو وہ حق ہے، یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ مسلمانوں کے لیے منفید ہو وہ حق ہے یہی چیز ہے جس کو میں مسلمانوں کا انتہا کہتا ہوں اور راستی انتہا کے خلاف اتحاد کرنے کے لیے مجھے یہ یاد دلانے کی ضرورت پیش آگئی ہے کہ تم نسلی اور تاریخی قوموں کی طرح ایک قوم نہیں ہو بلکہ حقیقت میں ایک جماعت ہو، اور تمہاری بخشاتِ مرد اس چیز میں ہے کہ اپنے اندر جماعتی احساس (Party sense) پیدا کرو۔

اس جماعتی احساس کے فقدان یا خود فراموشی کے بُرے نتائج اتنے زیاد ہیں کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہے۔ یہ اسی بے حصی و خود فراموشی کا نتیجہ ہے کہ مسلمان ہر رہبر کے تیجھے چلنے اور ہر نظریہ اور مذکوٰہ کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، خواہ وہ اسلام کے نظریے اور اس کے مقاصد اور اس کے اصول سے کتنا بھی ٹھا ہو گا ہو۔ وہ نیشنلیٹی بھی بنتی ہے، کیونکہ بھی بنتا ہے، فاشتی اصول تسلیم کرنے میں بھی اسے کوئی تامل نہیں ہوتا۔ مغرب کے مختلف اجتماعی اور مابعداللطیڈ اقفار اور علمی تحریمات میں سے قریب قریب ہر ایک کے پیرو اپ کو مسلمانوں میں مل جائیں گے۔ دنیا کی کوئی سیاسی، اجتماعی یا تہذیبی حرکیں ایسی نہیں جس کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسلمان شرکیں نہ ہوں۔ اور لطف یہ ہے کہ یہ سب اپنے اپ کو مسلمان کہتے ہیں، سمجھتے ہیں اور سمجھے جلتے ہیں۔ ان مختلف ماہوں پر بختے اور دوڑنے والوں میں سے کسی ایک کو بھی یہ یاد نہیں آتا کہ ”مسلمان“ کوئی پیدا نہیں

لقب نہیں ہے بلکہ اسلام کی راہ پر چلنے والے کا ایک صفت ہے جو شخص اسلام کی راہ سے ہٹ کر کسی دوسری راہ پر چلے اس کو "مسلمان" کہنا اس لفظ کا بالکل غلط استعمال ہے۔ مسلم نہیں ہٹا، اور مسلم نہیں ہٹ اور اسی فہرست کی دوسری اصطلاحیں بالکل اسی طرح کی تناقض اصطلاحیں ہیں جس طرح "کمیونٹ مہاجن" اور "جنینی قصائی" کی اصطلاحیں تناقض ہیں۔

---

# امر بالمرء و نهى عن المنكر

ہر چیز کے لیے اپنی صفت کے لحاظ سے کمال کے در درجے ہوا کرتے ہیں۔

پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ جس صفت سے متصف ہے اس میں اتصاف کی انتہا کو پہنچ جاتے اور دوسرا درجہ یہ کہ اس کی ذات میں وہ صفت اتنی شدید ہو جاتے کہ وہ

دوسری چیزوں تک منتعد ہو اور دوسروں کو بھی اپنی صفت کے حنگ میں زنگ دے۔

برفت کا کمال اول یہ ہے کہ وہ انتہا درجہ کی سرد ہے اور کمال ثانی یہ ہے کہ وہ دوسری چیزوں کو بھی سرد کر دیتی ہے۔ آگ کا کمال اول یہ ہے کہ وہ خود انتہا درجہ کی گرم ہے اور کمال ثانی یہ کہ وہ آس پاس کی چیزوں کو بھی اپنی اسی گرمی سے گرم کر دیتی ہے۔

بانکل بھی حال نیکی اور بدی کا بھی ہے نیک آدمی کا پہلا کمال یہ ہے کہ وہ خود نیکی کا مجسمہ بن جاتے اور دوسرا کمال یہ کہ وہ اپنے اثر سے دوسروں کو بھی نیک بنادے۔

اسی طرح بُرے آدمی کا پہلا کمال یہ ہے کہ وہ خود بدی کی صفت سے بدرجہ اتم متصف ہو اور دوسرا کمال یہ کہ وہ اپنی اس بدی کو دوسروں تک منتعد ہی کر دے۔

اس قاعدہ کلیئے کے مطابق کافر اور مومن کے لیے بھی کمال کے درجے ہیں۔

کافر اگر جاتے خود اپنے عقیدہ کفر میں راسخ اور مضبوط ہو تو وہ کمال کفر کے پہلے درجے میں ہے اور اگر وہ کفر کی تبلیغ کرے، لوگوں کو راہِ حق سے روک کر باطل کی طرف کھینچ لانے کی کوشش کرے، اور اپنے زور بیان، یا زورِ مال یا زورِ شمشیر یا کسی دہرے زور سے کفر کی اشاعت کرے تو وہ کمال کفر کے دوسرا مرتباً کی بھی تحسیل کر لتا ہے۔ اور ان دونوں کو جمع کرنے کے بعد اس کے لیے کمال کا کہانی اور درجہ باقی نہیں رہ جاتا۔ اسی طرح مومن اگر خود اپنے عقیدہ ایمان میں راسخ اور اطاعت حق میں کامل ہو تو وہ کمال ایمان کے پہلے مرتبے پر فائز ہو گا، اور اگر اس میں یہ صفت اتنی

شید ہو جاتے کہ وہ دوسروں میں بھی ایمان و اطاعتِ حق کی تبلیغ و اشاعت کرنے لگے اور دوسروں میں بھی اپنی زبان و قلم اور اپنے کیرکٹر اور اپنے بزمات کے اثر سے اور اپنے دست و بازو کی جدوجہد سے اسلام اور اطاعتِ حق کی صفت پیدا کر دے تو اس کو کمال ایمان کا دوسرا درجہ بھی حاصل ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ پورا مومن کہلا ستے جانے کا مستحق ہو گا۔

اس مضمون کو سورہ آل عمران کے دسویں اور گیارہویں درجہ میں بُری خوبی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پہلے فرمایا:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ  
تُكْفِرُونَ بِمَا نَبَّأَ اللَّهُ  
بِهِ - آلُ عَمَرَانَ: ۱۹

پھر فرمایا:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ  
لَمْ يَرْجِعُنَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ  
أَمْنَتْ تَبَاعِدَنَّا عَوْجَاهًا - آلُ عَمَرَانَ: ۲۰

کہو کہ اسے اہل کتاب تم کیوں ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور یہ دونوں آیات صاف طور پر دلالت کرتی ہیں کہ کفر کا پہلا کمال آیاتِ الہی کا خود منکر ہونا ہے، اور دوسرا کمال اس کی اشاعت کرنا، اور لوگوں کو خدا کے پیدھے رستے سے روکنا اور اعتقاد و عمل کے پڑھے راستے ان کے سامنے پیش کرنا ہے۔

اس کے بعد مومنوں سے خطاب شروع ہوتا ہے، اور ان سے بھی دعا ایں کہی جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا  
اللَّهَ حَقًّا تُعْتَدُهُ وَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا  
فَآتَنَّتُمْ مُّسْلِمُونَ - قَاتَلُوكُمْ  
إِنَّمَا يُحَبِّلُ اللَّهُ جَمِيعًا وَلَا تَغْرِي  
هُنَّا كُلُّهُمْ مُّسْلِمُونَ

آئے ایمان لانے والوں! اللہ سے قُدرت  
کر اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور تم کو تو  
نہ آتے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو سلو  
سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو پڑھے

رہوا در پر انگدہ نہ ہو جاؤ۔ رآل عمران: ۱۰۳)

دوسرے یہ کہ:

اوْتَمِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ تُؤْمِنُ  
وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أَهْلَ يَدِ عَوْنَ  
إِلَى الْخَيْرِ وَيَا مُرْوَنَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَبَيْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَوْلِئِكَ  
هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔

رآل عمران: ۱۰۳: ہی لوگ ہیں۔

یہاں ایمان کے بھی دو درجے تباہیتے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ مومن اللہ سے  
ذر نے والا ہو، اور مرتے دم تک اور ایرہی کامیاب رہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوط  
تھامے رکھے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے دوسرے ابنائتے قرع کو بھی نیکی  
کی طرف بلاستے، اچھے کاموں کا حکم دے اور بُرے کاموں سے روکے۔

پھر کمال ثانی کے اندر بھی بہت سے مراتب ہیں۔ اس میں تیک نہیں کہ مومن تھی،  
بھلی کا فقہر، چاند اور سورج، سب پر منیر اور روشن گر ہونے کا اطلاق ہوتا ہے، مگر  
روشن گری میں ان کے مدارج متفاوت ہیں۔ مومن تھی صرف ایک جھرے کو روشن کر  
سکتی ہے۔ بھلی کے فقہر کی روشنی ایک بڑے مکان کی حد تک چھپی سکتی ہے۔ چاند کی  
روشنی زمین اور اس کے ارد گرد کی فضائیک محدود ہے۔ مگر سورج ایک عالم کو اپنی  
روشنی سے چپکا رہا ہے اور ہمارا پورا انتظام شمسی اس کی روشنیوں سے منور ہے۔

اسی طرح مومن اگر اپنے جیسے ایک انسان کے دل میں بھی ایمان کی شمع روشن کر دے  
تو وہ کمال ثانی کے مرتبہ میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس کمال کا پہلا درجہ ہو گا۔

پھر ایک جماعت، ایک قوم، ایک ملک میں دعوت الی الخیز کے مدارج ہیں۔ اور آخری  
درجہ یہ ہے کہ اس کی دعوت الی الخیز تمام عالم انسانی کے بیٹے عام ہو، وہ ساری زمین  
کو نیکی کی طرف بلائے، پورے زیج مسکوں میں اللہ کا وجود این جاتے، بدی اور  
منکر جہاں بھی ہو اس کے بیٹے آسمیں چڑھاتے اور اپنے آپ کو کسی خاں

برادری، کسی خاص قوم، کسی خاص ملک اور کسی خاص نسل یا جغرافی حد کے اندر محدود نہ سمجھے۔ یہ کل ایمان کا سب سے بڑا اور اونچا درجہ ہے اور چونکہ حضرت حق جل مجدہ نے ہر معاملہ میں مسلمانوں کے سامنے ایک بلند طبع نظر پیش فرمایا ہے اور کسی جگہ پست حوصلگی کی تعلیم نہیں دی ہے، اس لیے آگے چل کر بارہویں رکوع میں صاف فرمادیا کہ مسلمان کا شخصی اور قومی نسب العین و مقصد حیات بھی ہے کہ وہ تمام علم کو خدا کی شرعیت کا مکوم بنانے کی کوشش کرے:

كُنْتُمْ خَيْرًا مِّمَّا يُخْرِجُونَ  
تَمَّ هُنْرِينَ أُمَّتٍ هُوَ جَزِئُهُ نُوعٌ إِنَّمَا يَكُونُ  
لِلنَّاسِ تَأْهِيلٌ فَعَلَى الْمُعْرُوفِ وَ  
نَكَالًا لَّا يَكُونُ لَّا يَكُونُ  
سَعَيْدٌ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ  
يَا اللَّهُمَّ إِنَّمَا يَنْهَا  
هُوَ رُوكَتَهُ هُوَ وَاللَّهُ بِإِيمَانِ رَكْحَتَهُ  
بِاللَّهِ . . . دَالْ عَمَانَ : ۱۰۰

آیت وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ . . . الخ کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان اختلاف واقع ہوا ہے اور اختلاف کا نشاۃقطد مُنکر ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ ہن یہاں تبعیض کے لیے نہیں بلکہ تمیں کے لیے آیا ہے، اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں وہ تبعیض ہی کے لیے آیا ہے۔

پہلے گروہ کا استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب کیا ہے، جیسا کہ فرمایا: كُنْتُمْ خَيْرًا مِّمَّا يُخْرِجُونَ لِلنَّاسِ . . . الخ اور حقیقت میں ہر مکلف ہستی پر واجب ہے کہ وہ یہی کا حکم دے اور بدی کو درفع کرے خواہ ہاتھ سے کرے یا زبان سے کرے یا اور کچھ نہ ہو سکے تو قلب ہی سے کرے۔ لہذا آیت کے معنی یہ میں کہ ”تم ایسی امت ہو جاؤ جو خیر کی طرف بلاقی اور بُراقی سے روکتی ہو، کیونکہ ہن یہاں تمیں کے لیے ہے اور اس کی مثال یہ آیت ہے فَاجْتَنِبُوا الْوِجْنَ مِنَ الْأَذْقَانِ (صحیح: ۲۳) دلیلی تجویں کی گندگی سے پکو، نہ یہ کہ تجویں میں سے اس چیز سے پکو جو گندگی ہے۔

دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ہن یہاں تبعیض کے لیے آیا ہے اور اس کے دو وجہوں

ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں میں ایک بڑا حصہ عورتوں، بچوں، بڑھوں اور رفیعوں پر مشتمل ہے جو دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف و نہیٰ عن المنکر کے واجبات ادا نہیں کر سکتے۔ دوسرا سے یہ کہ امر بالمعروف و نہیٰ عن المنکر کے بیان کے کچھ شرائط میں جو ہر شخص میں نہیں پائی جاتی۔ اس کے لیے خیر اور امر بالمعروف کا صحیح علم درکار ہے۔ اس کے بیان کے لیے حکمت اور عقل کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ آدمی پہلے خود کمال درجہ کا قسمی اور پرہیزگار ہو، تب لوگوں کو تقویٰ اور پرہیزگاری کی دعوت دے۔

مگر کتاب التفاصیل سنت رسول اللہ میں تأمل کرنے سے یہ اختلاف پاسانی فور ہو سکتا ہے۔

ہم نے اپر کلام اللہ سے مومن کے لیے دو کمال ثابت کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا کمال یعنی خوفِ خدا اور امرِ الہی کے آگے سر جھکا دینا، اور البذک رسی کو مضبوط خاصے رہنا تو ذاتِ مومن کے ساتھ صفتِ ایمان کے نفسِ قیام کے لیے ضروری ہے۔ لہذا ہر مومن میں اس کمال کے کسی ذکری مرتبہ کا متحقق ہونا لابد ہے کہ اگر وہ اس میں نہ ہو تو وہ مومن ہی نہ ہو گا یہ ایسا ہی ہے جیسے اگر چراغ میں روشنی نہ ہو تو وہ چراغ ہی نہ ہو گا۔ اگر برف میں سردی نہ ہو تو وہ برف ہی نہ ہو گی۔ اگر آنکھ میں گرمی نہ ہو تو وہ آنکھ نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو خطاب کر کے پوچھے زور کے ساتھ فرمایا ہے کہ اقْرَأُوا اللَّهَ حَقًّا دَفَّتِهِ اَدَدَّ وَلَا تَمُوتُنَ الْآدَادُ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور وَالْغُصَّصُمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تُفْرِقُوْا هُنَّا مِنْ اَهْلِ هَرَانٍ ۝۱۴۳۷ مرقان۔ اس آیت میں تبعیض کا نامہ شان نہ کر نہیں بلکہ عموم کے ساتھ تاکید ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان میں لاذمی طور پر صفات ہوتی چاہیں۔

رہا دوسرا کمال تزوہ کمال زائد ہے جس کا متحقق ہونا، مومن کے مومن ہونے کے لیے نہیں اس کے کامل و مکمل اور بلند و عالمی شانِ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اب اس کمال کے اعتبار سے ایک قوم کی دو ہی حالاتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہے کہ قوم کے کم از کم ایک حصہ میں کمال ایمان کا ہے اعلیٰ مرتبہ متحقق ہوا اور باقی افراد

مرت کاں اول سے متصف رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ہیلی حالت میں ہو یعنی اگر تمہاری پوری قوم دنیا میں آفتاب ہرایت بن جائے اور تمام اقوام عالم کو یہی کا حکم دینے والی اور بدی سے روکنے والی ہو، تو تم دنیا کی بہترین انتہ ہو گے لکھتم خَيْرًا مِّنْهُ أَخْرَجَتِ اللَّاتِي نَاهَرَوْدَةَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْدَةَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَوْمَتِ  
بِاللَّهِ تَعَالَى هُنَّ مَا يَعْلَمُونَ، لیکن گوتم میں اسی اعلیٰ تربیکی عیت نہ ہوا اور پوری قوم اس صفت سے متصف نہ ہو سکے، تو تمہارے اندھے کم از کم ایک گروہ ہوا ایسا رہنا ہی چاہیے جو خیر کی طرف بلاتما رہے اور بدی سے روکتا رہے۔ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أَمْمَةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔  
『آل عمران: ۱۰۲』 اسی لیے پہلی آیت میں یعنی گوتم نہیں اور دوسری آیت میں تائید ہے مگر علم نہیں کہ ایمان کے یہ دو درجے، جن کا با بار بار ذکر آ رہا ہے، صرف اعتبار میں دو ہیں ورنہ حقیقت میں تو دونوں ایک ہی ہیں۔ جس شخص کے دل میں ایمان راسخ موجود ہو گا، اور جو اللہ سے ایسا ڈونے والا ہو گا جیسا اس سے ڈونے کا حق ہے، اس کے لیے تو یہ علکن نہیں ہے کہ کسی کو گراہی میں بنتا رکھیے اور راہ حق کی طرف دعوت نہ دے، کہیں بدی کا وجود پائے اور اس کو مٹانے کی کوشش نہ کرے بلکہ طبیعت میں کی مثال ایسی ہے جیسے مشک کہ راکھہ ایمان اس کے خدمت مک محدود نہیں ہتھی بلکہ پھیلتی ہے جہاں تک پھیلنے کا اس کو موقع ملے۔ یا چراغ کہ زور ایمان سے جہاں وہ منور ہوا اور اس نے آس پاس کی فضائیں اپنی شعاعیں پھیلانیں۔ مشک میں جب تک خوشنور ہے گی وہ مشام جاں کو معطر کرتا رہے گا۔ چراغ جہت نکلوش رہے گا روش کرتا رہے گا۔ مگر جب مشک کی خوشنور قریب نے قریب سو نگھنے والے کو بھی محسوس نہ ہوا اور چراغ کی روشنی اپنے قریب ترین ماحول کو بھی روشن نہ کرے تو پر شخص یہی حکم لگائے گا کہ مشک نہیں رہا اور چراغ نے اپنی چراغیت محدودی یہی حال مومن کا ہے کہ اگر وہ خیر کی طرف دعوت نہ دے، نیکی کا حکم نہ دے، بدی کو برداشت کر لے اور اس سے روکے نہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں خوب خدا کی آگ سرد پر گئی ہے اور ایمان کی روشنی مصمم ہو گئی ہے۔ اسی لیے بنی

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ "تم میں سے جو کوئی بدی کو دیکھے تو لازم ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے اور اگر استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان ہی سے سہی۔ اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو کم انکم دل میں اس کو بُرا سمجھے اور اس کو مٹانے کی خواہش رکھے۔ کیونکہ یہ ایمان کا کم سے کم درجہ ہے۔" جس دل میں بدی سے نفرت تک نہ ہو اس میں رائی برابر بھی ایمان نہیں۔" اسی لیے قرآن مجید میں مومنوں کی عام صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دینے والے اور بدی سے روکنے والے ہیں۔

<p>وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولَيَاءُ لَعْنِ حَمَىٰ اُوْرَدُوكَارِ میں۔ نیکی کا حکم دینے والے وَالْمَعْرُوفِ وَنَهْوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (التوبۃ: ۱۱۳) اور بدی سے روکنے والے ہیں۔</p> <p>وَهُوَ تَوْبَہُ كَرْنَے والے، عبادت کرنے والے خدا کی حمد کرنے والے، خدا کی راہ میں سفر کرنے والے، رکوع و سجود کرنے والے نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور حمد و دالہی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔</p>	<p>أَتَّابِعُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّاجِدُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَاهِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّا هُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ۔ (التوبۃ: ۱۱۳)</p>
--	--

<p>يہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں طاقت بخش دی تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوہ دیں گے، نیکی کا حکم کریں گے اور بدی سے روکیں گے۔</p>	<p>أَلَّذِينَ إِنْ شَاءُوا مَكَنَّهُمْ فِي الْأَرضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكُوَةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ۔ (راجح: ۴۱)</p>
--	---

پھر جبکہ مومن کی ضروری صفات میں سے ایک صفت امر بالمعروف و نہی عن بھی ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس کی چیزیت فرض کفایہ کی سی رکھی گئی اور اس معاملہ میں آتنی نرمی کی گئی کہ مسلمانوں کی پوری قوم میں سے صرف ایک جماعت کا آمر بالمعروف

اور ناہی عن المُنْكَرِ ہونا کافی سمجھا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کے علیم و خبیر کو معلوم تھا کہ عہدِ رسالت کے گزر جانے کے بعد مسلمانوں کے ایمان ضعیف تر ہوتے چلے جائیں گے۔ جوں جوں زمانہ گزرتا چلا جاتے گا یہ قوم مابین تشریل ہوتی چلی جاتے گی جسی کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ کروڑوں مسلمان دنیا میں موجود ہوں گے مگر ان کی شیع ایمان میں آئی روشنی بھی نہ ہو گی کہ اپنے قریبی ماحول کو ہی متور کر سکیں۔ بلکہ ظلمتِ کفر کے غلبہ سے خود ان کے اپنے نوزمجد ہونے کا خوف ہو گا۔ لہذا ایسی حالتوں کے لیے اس نے فرمایا کہ تمہارے اندر کم از کم ایک ایسی جماعت تو ضرور ہی موجود رہنی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت و بیانے والی اور بدی کا مقابلہ کرنے والی ہو۔ کیونکہ اگر تمہارے اندر ایسی ایک جماعت بھی نہ رہے تو پھر قم کو عذابِ الہی اور قطعی ہلاکت و تباہی سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔

اس مضمون کو قرآن مجید میں خوب کھوں کر بیان کیا گیا ہے، چنانچہ ایک

حجکہ ارشاد ہوتا ہے:

لَعْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ نَبِيٍّ  
إِسْرَائِيلَ عَلَى إِسَانِ دَاءِ دَوْعَيْسِيٍّ.  
أَبْنُنْ هَرَيْمَرْ دَالِكَ بِمَا عَصَنَا وَكَانُوا  
يَعْتَدُونَ كَانُوا أَلَا يَتَنَاهُونَ عَنْ  
مُنْكِرٍ فَعَلُوَهُ لِبِسْ مَاصَانُوا  
يَفْعَلُونَ۔

(الملائکہ: ۲۹، ۴۸)

و دری حجکہ فرمایا:

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقَرُونِ  
مِنْ قَبْلِكُمْ أَوْ لَوْلَا بِقِيَةَ بَهُونَ  
عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَدْلَا

تم سے پہلے کی قوموں میں کچھ لوگ ایسے کیوں نہ ہوتے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے۔ ان میں ایسے لوگ اگر تھے جو وہ کرتے تھے۔

بھی تو وہ بہت کم تھے سو ان کو ہم نے نجات دیدی۔ باقی رہے خالہ لوگ تو وہ مجرم تھے اور وہ ان دخیلی لذتوں کے سچے پڑے رہے جوان کو دی گئی تھیں۔ تو اسے بنی تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بنتیوں کو یوں بیظلم سے ہلاک کر دے، دراں عالیکار ان کے باشندے نیکو کار ہوں۔

مِنْتَ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ فَاتَّبَعَ  
الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ  
وَكَانُوا لِجُرْمٍ مِنْيَنَ وَمَا كَانَ  
رَبُّكَ لِيُهُدِّكَ الْفُرْسَى بِنَظَلْمٍ  
وَأَهْلُهَا مُضْلِلُونَ -

(یہود: ۱۴، ۱۵)

اس مضمون کو نبی صل اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَعِذِّبُ الْعَامَةَ  
لَعَمَلِ خَاصَّةٍ حَتَّىٰ يَرُوَ الْمُنْكَرُ  
بَيْنَ ظَهُرًا نَّيْمَهُرَ وَهُمْ قَادِرُونَ  
عَلَىٰ أَنْ يُنْكِرُوا فَلَا يُنْكِرُوا  
فَإِذَا فَعَلُوا ذَالِكَ عَذَابَ اللَّهِ  
الْخَاصَّةَ وَالْعَامَةَ -

(ارواہ احمد)

ایک دوسرے موقعہ پر فرمایا:

وَالَّذِي لَفْسَنِي سَيَلُوهُ  
لَيَعْرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَنَتَّهُونَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَلَمَّا خُذْنَ عَلَىٰ يَدِ الْمُسْيَّ  
وَلَمَّا طَرَوْنَهُ عَلَى الْحَقِّ إِطْرَادًا وَلَيَغْرِيْنَ  
اللَّهُ تَلْوِبَ لَعْصِنِكُمْ عَلَى لَعْنِيْنَ أَوْ  
لَيَكْعُنْكُمْ كَمَا لَعَنْهُمْ - رَوْاهُ الرَّبِيعِي  
وَالْبُوَّادِرِ وَابْنِ مَاجِهِ بِالْخَلَافَ قَلِيلٌ

اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم پر لازم ہے کہ نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو، اور بد کار کا ہاتھ پکڑو اور اسے حق کی طرف موڑو، درستہ اللہ تھا اسے دلوں کی برائیاں ایک دوسرے پر منتظر کر دے گا، یا تم پر اسی طرح لخت کر دیجا جس طرح بنی اسرائیل پر کی۔

پس یہ بات واضح ہو گئی کہ آیت وَلَكُنْ مِنْكُمْ رَجُلٌ... الخ میں جو  
تبیعیض ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے کہ مسلمانوں میں سے صرف ایک ہی ایسی جاتی  
مطلوب ہے جو داعیِ الْخیر اور آمر بالمعروف اور ناہی عن المنکر ہو، اور باقی  
مسلمانوں کے لیے اس خدمت کا بجا لانا واجب ہی نہیں۔ بلکہ دراصل اس کے معنی  
یہ ہیں کہ مسلمانوں میں کم از کم ایک جماعت تو ایسی ضرورتی رہنی چاہیے، جو خیر کی شمع  
روشن رکھے اور شر کی ظلمت کو دفع کرنے رہے۔ اگر ایسی ایک جماعت بھی ان میں  
موجود نہ رہی تو خیر امت ہونا تو درکنار اس قوم کا عذابِ الٰہی اور لعنت خداوندی  
سے پچ جانا بھی محال ہے۔

”ترجمان القرآن“ جمادی الاولی ۲۳ ستمبر ۱۹۷۴ء

# نَزُولِ عذابٍ إِلَيْكُمْ قانون

قرآن مجید میں جگہ جگہ ان قوموں کا ذکر آیا ہے جن پر گزشتہ زمانہ میں خدا کا عذاب نازل ہوا ہے۔ ہر قوم پر نزول عذاب کی صورت مختلف رہی ہے۔ عام پر کسی طرح کا عذاب اٹرا۔ ٹھوڑا پر کسی اور طرح کا۔ اہل مدین پر کسی دوسری صورت میں۔ آل فرعون پر ایک نئے انداز میں۔ مگر عذاب کی شکلیں اور صورتیں خواہ کتنی ہی مختلف ہوں، وہ قانون جس کے تحت یہ عذاب نازل ہوا کرتا ہے ایک ہی ہے اور ہر گز بد لئے والا نہیں۔ مُسَتَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَقَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَجِدْ لِسَنَةً إِلَيْهِ تَبْدِيلًا۔ (اذاب: ۶۲)

نزول عذاب کے اس قانون کی تمام دفعات پوری تشریع کے ساتھ قرآن مجید میں درج کی گئی ہیں۔ اس کی پہلی دفعہ ہے کہ جب کسی قوم کی خوشحالی بڑھ جاتی ہے تو وہ غلط کاری اور گراہی کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور خود اس کی عملی قوتوں کا صرخ صلاح سے فادر کی طرف پھر جا پا کر لے ہے۔

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ تُهْلِكَ قَرْبَةً  
أَمْرَنَا مُتَرَفِّيْهَا فَسَقُوا فِيْهَا  
صَحْقَ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَهَرَ نَاهَا  
تَدْمِيرًا۔ (ربنی اسرائیل: ۱۴) کرنے لگتے ہیں پھر وہ بنتی عذاب کے حکم کی مستحق ہو جاتی ہے پھر جم اس کو تباہ و بر باد کرواتے ہیں۔

دوسرा قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ خدا کسی قوم پر ظلم نہیں کرتا۔ بلکہ اس قوم خود ہی اپنے اپر ظلم کرتی ہے۔ خدا کسی قوم کو نعمت دے سے کراس سے بھی نہیں چھینتا۔ ظالم قوم خود اپنی نیہاں حکم سے مراد حکم نہیں ہے۔ قانون فطرت کی ہر دفعہ کو قرآن حکم الہی اور اذن الہی کہتا ہے۔ اس کی تفصیل آپ کو ہمارے رسالہ "جبر و فدر میں ملے گی۔"

نعمت کے درپرے استیصال ہو جاتی ہے اور اس کے مٹانے کی کوشش کرتی ہے۔

یہ اس لیے کہ اللہ جبکہ اس نعمت کو بدلتے  
والا نہیں ہے جو اس نے کسی قوم کو سختی ہوئی  
تاریخیکہ وہ قوم خود اپنے آپ کو شدید  
و سے۔

اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرتا۔ وہ تو خود  
ہی اپنے اور ظلم کرتے تھے۔

پھر یہ بھی اسی قانون کی ایک دفعہ ہے کہ خدا ظلم رہنفیں خود پر موافقہ کرنے  
میں جلدی نہیں کرتا بلکہ وہ صیل دیتا ہے اور شبیہیں کرتا رہتا ہے کہ نصیحت حاصل کریں  
اور منجل جائیں۔

اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے بدله میں  
پکڑتا تو وسیے زمین پر کوئی تنفس باتی نہ  
رہتا مگر وہ لوگوں کو ایک مقررہ مدت  
تک بہت ریا کرتا ہے۔

ہم نے تم سے پہلے کی قوموں میں بھی اسی طرح  
چیزیں بھیجے اور ان کو سختی اور تکلیف میں گرفتار  
کیا تاکہ شاید وہ ہماری طرف عاجز نہ جگیں  
پس جب ان پر ہماری طرف سے مصیبت  
آئی تو کیوں نہ وہ ہمارے آگے گذاشتے، مگر  
ان کے دل تو سخت ہو چکتے اور شیطان نے

ان کی نگاہوں میں ان کے اعمال کو خوشایا دیا۔

اس صیل کے زمانے میں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ عالم قوموں کو خوشحال کے فتنہ میں  
بتلا کر دیا جاتا ہے۔ وہ اس سے دھوکا کھا جاتی ہیں اور فاقعی یہ سمجھ بھیتی میں کہ ہم تو

**ذَلِكَ بَأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْكُنْ  
مُغَيْرًا لِّعْمَةَ الْعَمَّةِ عَلَى قَوْمٍ  
حَتَّىٰ يُعَذِّبُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔**

رانفال: ۴۳

**فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ إِنْ كَانُ  
كَافُوا أَنفُسَهُمْ بِظَلَمِهِمْ۔** (توبہ: ۶۰)

پھر یہ بھی اسی قانون کی ایک دفعہ ہے کہ خدا ظلم رہنفیں خود پر موافقہ کرنے  
میں جلدی نہیں کرتا بلکہ وہ صیل دیتا ہے اور شبیہیں کرتا رہتا ہے کہ نصیحت حاصل کریں  
اور منجل جائیں۔

**وَلَوْلَيْوَ أَخِذَ اللَّهُ النَّاسَ بِظَلَمِهِمْ  
كَاتَرَكَ عَلَيْهِمَا مِنْ دَآبَتِهِ وَلَكِنْ  
يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمٍّ۔**

رانخل: ۶۱

**وَلَعَدَ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قِنْتَ  
قَبْلِكَ فَأَخَذَنَاهُمْ بِالْبَأْسَادِ وَ  
الضَّرَادِ لَعَلَّهُمْ يَتَّبِعُونَ۔ فَلَوْ  
لَا أَذْجَأَهُمْ بِأُسْتَانَ قَفْرَعَوْمَا وَلَكِنْ  
قَسْتَ فَلَوْلَيْهِمْ وَرَبِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ  
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔**

رانعام: ۲۲، ۲۳

نیکو کارہیں ورنہ ہم پر نعمتوں کی بارش کیوں ہوتی؟

**أَيُحْسِبُونَ أَنَّمَا نَهَمْ بِهِ  
مِنْ مَالٍ وَّتَبَيِّنُنَّ مُنْسَارَعَ لَهُمْ  
فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ۔**

(ہدیون: ۵۴، ۵۵)

کیا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو مال اولاد سے  
ان کی اولاد کیسے چلے جا رہے ہیں تو اس کے  
معنی یہ ہیں کہ ہم ان کو فائدہ پہنچانے میں  
جدی کر رہے ہیں ہر حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔

اصل بات جو کچھ ہے، اسے یہ نہیں سمجھتے۔

آخر کا حب وہ قوم کسی طرح کی تنبیہ سے بھی نہیں سنبھلتی اور ظلم کیسے ہی جانتی ہے  
تو خدا اس کے حق میں نزول عذاب کا فیصلہ کر دیتا ہے اور حب اس پر عذاب کا حکم  
ہو جاتا ہے تو کوئی قوت اس کو نہیں چاہ سکتی۔

**وَتِلْكَ الْقُرْيَى أَهْلَكْنَاهُمْ رِبَّا  
خَلَمُوا وَجَعَلْنَا لَهُمْ كِبِيرًا مَّوْعِدًا**  
یہ بتیاں دجن کے آثارم دیکھ رہے ہیں ان کو  
ہم نے اس وقت تباہ کیا کہ حب انہوں نے  
ظلم کیا اور ہم نے ان کے ہلاک ہونے کیسے  
ایک وقت مقرر کر دیا تھا۔

اور حب تیرا رب خالیم استیوں کو کہڑتا ہے  
تو وہ ایسی ہی بُری طرح پکڑتا ہے اور اس  
کی پکڑ بُری سخت اور دردناک ہوا کتنی  
ہے۔

اور حب خدا کسی قوم کے حق میں براٹی کا

**وَكَذَالِكَ أَخْذُهُ رِبِّكَ إِذَا  
أَخْذَ الْقُرْيَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ۔ إِنَّ  
أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔**  
وَرَبِّکَ رِبِّکَ رِبِّکَ رِبِّکَ

(ہود: ۱۰۲)

**وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِغَوْرٍ سُورٍ**

لئے بعض نادان لوگ جو خدا کی سنت کرنے ہیں سمجھتے ان کی خوشحال کو دیکھ کر اس احتفاظ نظر فرمی  
ہیں پڑ جاتے ہیں کہ ضروریہ لوگ مومن اور صلح اور خلیفۃ الرہبی ہیں ورنہ ان کو زمین کی مداشت کیسے  
مل جاتی۔ لیکن دیکھیے کہ قرآن ان لوگوں کی تردید کس طرح کرتا ہے چونچن دنیوی خوشحال کو  
بارگاہِ الہی میں مقبول ہونے کی علامت سمجھتے ہیں۔

فَلَمَّا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُ مِنْ دُونِهِ  
أَرَادَهُ كَرْتَمَسٌ تُوكُنْ قُوتْ اس کی شامت کو  
دُفْعَ کرنے والی نہیں ہوتی، اور پھر خدا کے مقابلہ  
میں ان کا کوئی مددگار نہیں نکلتا۔

یہ عذابِ الہی کا اُول قانون جس طرح بچپلی قوموں پر جاری ہوتا رہا ہے اسی طرح  
آج بھی اس کا عمل جاری ہے۔ اور اگر بصیرت ہو تو آج آپ خود اپنی آنکھوں سے اس کے  
نفاذ کی کیفیت ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مغرب کی وہ عظیم الشان قومیں جن کی دولتندی در  
خوشحالی، طاقت و جبروت، شان و شوکت، عقل وہنر کو دیکھ دیجھ کر نکالا ہیں خیرہ ہوتی  
جاتی ہیں اور جن پر انعامات کی پیغم باریوں کے مشاہدے سے یہ وحکومہ ہوتا رہا ہے کہ  
شاید یہ خدا کے بڑے ہی مقبول اور ہمیتے بندے اور خیر و صلاح کے مجتھے ہیں، ان کی  
اندرونی حالت پر ایک غائزگاہ ڈالیے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ وہ اس عذابِ الہی کے  
قانون کی گرفت میں آچکی ہیں۔ اور انہوں نے اپنے آپ کو خود اپنے اختیار  
سے اس دیو ظلم و ظلم کو نفسِ خود کے خیگل میں پوری طرح چینسا دیا ہے جو تیزی کے  
ساتھ انہیں تباہی و ہلاکت کی طرف دیکھے چلا جا رہا ہے۔

وہی صنعت و حرفت کی فراوانی، وہی تجارت کی گرم بازاری، وہی رہائیے  
سیاست کی کامیابی، وہی علومِ حکمیہ و فنونِ عقلیہ کی ترقی، وہی نظامِ معاشرت کی برقیک  
بلندی، جس نے ان قوموں کو دنیا پر غالب کیا، اور دوستے زمین پر ان کی دھاک سنجان،  
آج ایک ایسا خطرناک جال بن کر ان کو پٹ گئی ہے جس کے ہزاروں چندے ہیں اور  
ہر چندے میں ہزاروں مصیبتوں ہیں۔ وہ اپنی عقلی تدبیروں سے جس چندے کو کاٹنے  
کی کوشش کرتے ہیں اس کا ہر تاریث کر ایک نیا چندابن جاتا رہا ہے، اور رہائی کی ہتر تدبیر  
مزید گرفتاری کا سبب ہو جاتی ہے۔ ۶

از سرگردہ زندگرو ناکشودہ رہ

یہاں ان تمام معاشی اور سیاسی اور تاریخی مصائب کی تفصیل کا موقع نہیں ہے  
جن میں مغربی قومیں اس وقت گرفتار ہیں۔ بیانِ مذکور کے لیے اس تصویر کا ایک پہلو

پیش کیا جاتا ہے جس سے معلوم ہو جاتے گا کہ یہ قومیں کس طرح اپنے اور ظلم کر رہی ہیں اور کس طرح اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کا سامان مہیا کیجئے جا رہی ہیں۔

اپنے معاشی، تدبی اور سیاسی احوال کی خرابی کے اسباب تشخص کرنے اور ان کا علاج تجویز کرنے میں اہل فرنگ سے عجیب عجیب غلطیاں ہو رہی ہیں۔ مجدد ان کے ایک غلطی یہ ہے کہ وہ اپنی مشکلات کا بڑا بلکہ اصل سبب آبادی کی کثرت کو سمجھنے لگے، اور ان کو اس کا صحیح علاج یہ نظر آیا کہ افزائش نسل کو روکا جائے معاشی مشکلات کے ساتھ ساتھ یہ خیال نہایت تیزی کے ساتھ مغربی ممالک میں پھیلنے شروع ہوا اور دلوں میں کچھ اس طرح بیٹھا کہ لوگ اپنی نسل کو اپنا رہے بڑا دشمن سمجھنے لگے، یا بالغان خود بیگر اپنی نسل کے سبب سے بڑے دشمن بن گئے، چنانچہ ضبط و لادت کے نئے نئے طریقے جو پہلے کسی کے ذہن میں بھی نہ آتے تھے عام طور پر راجح ہونے شروع ہوتے۔ اس تحریک کو ترقی دینے کے لیے نہایت دریغ پیمانے پر تبدیل و اشاعت کی گئی۔ کتابیں، پیغام، رسائل اور جرائد خاص اسی موضوع پر شائع ہونے لگے۔ انجمنیں اور جمیعتیں قائم ہوتی ہیں۔ ہر عورت اور مرد کو اس کے متعلق معلومات بہم پہنچاتے، اور عملی آسانیاں فراہم کرنے کا انتظام کیا گی۔ غرض یورپ اور امریکی کے عراقی "مصدقین" نے اپنی نسلوں کے خلاف ایک سبز و سست جنگ چھڑ دی اور جوشی اصلاح میں ان کو یہ سوچنے کا ہوش بھی نہ آیا کہ آخر یہ جنگ کہاں جا کر رکے گی۔

تو الدو نائل سے مغربی قوموں کی نفرت کا حال یہ ہو گیا کہ ضبط و لادت کے متعدد طریقوں سے بچنا پا کر جو حمل ٹھیک رہتے ان کو بھی اکثر دشتر گرا کیا جانے لگا۔ روس میں تو یہ فعل قانوناً جائز قرار دے دیا گیا اور ہر عورت کا یہ حق دیکھیا گیا کہ انہیں کا حمل ساقط کر دے۔ لیکن انگلستان اور دوسرے فرنگی ممالک میں بھی جہاں تک سال کے تجربات کے بعد حال ہی میں انقلابی حکومت کچھ کم ہوتا ہے چنانچہ حکومت میں اس قابل حمل کے جو تمام کا قاعدہ منور کر دیا گیا، اور اب وہیں کی حکومت وہی جنگ عظیم میں کتی ہیں اور کوئی دشمن کے بعد پیغم کے لوگوں کو طرح طرح سے افزائش نسل کی ترغیب دے رہی ہے۔

استھاط حمل قازنیا ممنوع ہے خفیہ طور پر استھاط کثیرت و بارکی حد تک پہنچ گئی فرانس میں عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ جتنے بچے ہر سال پیدا ہوتے ہیں قریب قریب اتنے بھی حمل ہر سال ساقط کیے جاتے ہیں، بلکہ لعجن ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ استھاط کی تعداد پیدائش سے زیادہ ہے تیس اور چالیس برس کے درمیان شاید ہی کوئی عورت ہو جس نے استھاط کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ گرفانا زیادہ فعل جرم ہے لیکن دو اخالوں میں علاویہ اس کا ارتکاب ہوتا ہے اور فرنی بیماریاں رجڑوں میں درج کردی جاتی ہیں۔ انگستان میں بہت سی بولائیاں ہیں جن کا رو بار استھاط ہی سے چلتا ہے۔ ایک دوسرے کا اندازہ ہے کہ ہر پانچ عورتوں میں سے چار ایسی ضرورتیں گنجینہ نے کبھی نہ کبھی سختا ہی ہو گا۔ جرمنی میں تقریباً دس لاکھ حمل ہر سال ساقط کیے جاتے ہیں اور اتنی ہی تعداد زندہ پیدا ہونے والے بچوں کی ہے لعجن جرمن شہروں میں تو اندازہ کیا گیا ہے کہ گزشتہ بیس سال کے اندر چینے بچے پیدا ہوئے اس سے دو گزے حمل ساقط کر دیتے گئے۔

عورت جس کے اندر فطرت نے ایک زبردست جذبہ پادری رکھا تھا، مغربی ماں کی میں اپنی شقی القلب ہو گئی ہے کہ وہ اپنے پیٹ کی اولاد کو ہلاک کرنے کے لیے خود اپنی جان تک کو خطر و میں ڈالنے سے نہیں چوکتی۔ ڈاکٹر نارمن ہیر (Dr. Norman Haire) اس کے باں آئی اور اس نے استھاط کی خواہش ظاہر کی جب فالوئی مجبوری کی بنابرداری کیا گیا تو اس نے طرح طرح کی زہری دوائیں لکھ کر پیٹ گرانے کی کوشش کی بیٹھ رہی پر سے قصداً اپنے آپ کو لٹھ کایا۔ اور بچے اور بچے مقامات سے کو دگئی، بیماری بیماری بوجھا لھائے۔ اور جب اس سے بھی استھاط نہ ہوا تو آخر کار ایک انماڑی قابلہ کی دعا استعمال کر کے اپنی زندگی کا خاتمه کر لیا۔ ماڈام البرٹی (Madame Albrecht)

---

لہ بعد میں نازی تحریک نے اس دباؤ کو سختی کے ساتھ دبانے کی کوشش کی اور اس کے ہدایت کو محسوس کر کے انفرادی نسل کے لیے ایک زبردست ہم شروع کی

کا بیان ہے کہ عورتیں حمل ساتھ لے کرنے کے لیے وہ وہ حکومتیں کو اگر تو میں جو بیان نہیں کی  
پاسکنیں۔ مثلًا پسیٹ پر محنت آلات سے دفعہ بھی لگانا۔ رحم کو مختلف آلات سے صدمہ  
پہنچانا، وحشیانہ طریقوں سے ناچھنا، اپنے آپ کو قصداً اور پھر جگہ سے گزادینا، محنت سے  
محنت زبردی چیزوں تھیں کہ باروت تک کھا جانا۔ وہ ایک فرانسیسی عورت کا قصہ  
بیان کرتی ہے کہ اس نے حمل سے شگ آکر ایک لمبی پنل اور رحم میں چھپو چھوڑ کر  
اسے آنا زخمی کر لیا کہ خون جاری ہو گیا۔ اس قسم کی معنوں نامہ حرکات سے بکثرت  
عورتیں پر سال اپنی جان دے دیتی ہیں۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ انگلستان کے  
شفا خانہ اسے نسوں میں چتنی عورتیں ہر سال مرتی ہیں ان میں سے نصف کا سب  
استفادہ حمل ہے اور یہی کیفیت دوسرے ممالک کی بھی ہے۔

ایم پال بیور و اپنی کتاب "غلاتی دیوالہ کی راہ پر" (Towards Moral Bankruptcy)  
میں پیرس کی ایک رفاقت کا حال بحث ہے کہ اس نے اپنے  
نو مولود بچے کو نہایت بے رحمی کے ساتھ سر میں کیل ٹھنڈک بھڑک کر قتل کیا اور جب  
وہ عدالت میں پیش ہوئی تو اس نے اپنے بیان میں صاف کہا کہ اس بچے کی پیدائش  
نے یہ رجی زندگی کے عیش کو کر کر دیا تھا اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ یعنی  
تجھیتیات سے ثابت ہوا کہ اس میں قطعاً کسی جنون کے آثار نہ تھے بلکہ اس نے  
پورے شخور کے ساتھ اس فعل کا ارتکاب کیا تھا۔

اس زبردست نسل کشی کا نتیجہ یہ ہے کہ پورپ کی شرح پیدائش میں بہت  
کم واقع ہو گئی ہے۔ ۱۹۴۸ء اور ۱۹۷۸ء کے اعداد کا مقابلہ کیجئے۔ انگلستان اور  
دیگر میں شرح پیدائش ۴۰۰ میلی ہزار سے لگت کر ۳۰۰ را اور ۱۹۳۱ء میں ۱۵۰،۰۰۰  
روکھی ہے۔ جتنی میں ۹۰۰ میں سے ۵۰۰ ا۔ اٹلی میں ۲۰۰ میں سے ۱۰۰ سو ڈن  
میں ۸۰ میں سے ۵۰ ا۔ اور زبردی لپیٹد میں۔ راہم سے۔ وہ تمکن لگت گئی ہے  
کہ یہ مضمون ۱۹۷۸ء میں لکھا گیا تھا۔ اس کے بعد کی حالت ہم نے اپنے مضمون  
”اسلام اور ضبط و لادوت“ میں بیان کی ہے۔

سردست چونکہ ان ممالک میں شرح اموات بھی قریب قریب اسی نسبت سے کم ہوتی ہے اس لیے آبادی ایک حالت پر ٹھیری ہوئی ہے۔ لیکن اندازہ کیا گیا ہے کہ اگر شرح پیدائش اسی زمانہ سے لحنتی رہی تو دس سال گزرنے کے بعد یہ ٹھیری ہوتی حالت تمام نہ رہے گی بلکہ آبادی ٹھنڈی شروع ہو جاتے گی۔

سب سے زیادہ خطرناک حالت فرانس کی ہے تمام دنیا کے ممالک میں صرف یہی ملک ایسا ہے جہاں کی آبادی روز بروز لحنتی چلی جا رہی ہے۔ ۱۸۸۰ء میں وہاں کی شرح پیدائش ۲۵۴۵ فی ہزار تھی، ۱۹۲۱ء میں اور ۱۹۳۱ء میں اس نسبت سے کمی نہیں ہوتی۔ ۱۸۸۰ء میں شرح اموات ۹۷۶۲ تھی، ۱۹۲۱ء میں صرف ۳۰۶۴ آنک آئڑی۔ فرانس کے ہمسایہ اور حلفیت ممالک جرمنی اور اٹلی میں ۱۲۵ اور ۱۳۰ آدمی فی مریض کیلومیٹر آبادی میں مگر فرانس میں صرف ۳۰۰۰۰۰ نپکے پیدا ہوتے اور آبادی کا او سطہ ہے۔ ۱۹۲۱ء میں فرانس کی سر زمین پر ۹۰۰۰۰۰ نپکے پیدا ہوتے اور اس کے حلفیت جرمنی میں پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد ۱۰۳۱۵۰ تھی۔

مسسلی ہمیشہ اپنی کتاب "جدید فرانس (Modern France)" میں لحنتی ہے کہ اس حالت نے فرانس کے مدربین سیاست میں ایک گہری پریشانی پیدا کر رکھی ہے جس کا بُرا اثر نہ صرف فرانس بلکہ تمام دنیا کی سیاست پر متاثر ہو رہا ہے۔ فرانس کی صیش پسند آبادی ویہات کو چھوڑ چھوڑ کر شہروں میں منتقل ہو رہی ہے۔ اٹلی اور پولینڈ وغیرہ ممالک کے باشندے سے بھرت کر کے فرانس میں آ رہے ہیں اور زمینوں پر قبضہ کرنے لے چکے ہیں۔ فی ہفتہ ہزار ہزار جرین کا او سطہ اندازہ لگایا گیا ہے۔ ۱۹۲۹ء میں فرانسیسی سر زمین پر جتنے نپکے پیدا ہوتے ان میں تقریباً ۹۰ فی صدی غیر قومی کے تھے۔ اس سے فرانسیسی سیاسیں کو اندازہ لیتے ہے کہ آگے چل کر ایک وقت ایسا کئے گا جب فرانسیسی قوم خدا اپنے گھر میں غیر قومی کی اکثریت سے مغلوب ہو جائیں تاہم یہ خطرہ بعدید ہے۔ بالکل قریبی خطرہ یہ ہے کہ فرانس کے حلفیت اٹلی اور جرمنی کی آبادی اس سے بہت زیادہ ہے۔ اگر تحفظیت اسلام کی تجاذبیز کر منظور کر کے فرانس اپنے

آلات جنگ کم کر دے تو آئندہ ڈرامی میں کامیابی کا احصار فوج کی کثرت پر ہو گا۔ اور اس میدان میں اکیلا جرمی اور اکیلا ڈالی، فرانس پر درپیشے گا۔ یہی خطرات میں جن کی وجہ سے فرانس کا طرز عمل میں المی مسائل میں دوسری اقوام کے خلاف ہے۔

یہ نتائج میں اس عاقلانہ تدبیر کے جو یورپ نے اپنی معاشری اور تدنی مشکلات کو دوکرنے کے لیے اختیار کی ہے۔ اس وقت فرانس کے سواتام فرنگی عوام کی آبادی صرف اس وجہ سے ایک بھیری ہوئی حالت پر قائم ہے کہ شرح اموات سے شرح پیدائش ابھی تک زیادہ ہے، اس لیے شرح پیدائش کے گھنٹے کا اثر آبادی پر مترب نہیں ہوا ہے۔ لیکن اہل فرنگ کے پاس یہ یقین کرنے کی کوئی معقول وجہ ہے کہ شرح اموات اور شرح پیدائش کا یہی تناسب ہمیشہ برقرار رہے گا؛ کیا انہوں نے اس کا اطمینان کر لیا ہے کہ کسی روز مغربی افریقیہ کے پھر زرد بخار کے جراحتیں لیے ہوتے خود انہی کے ہوائی جہازوں پر بلیچ کر یورپ نپنج جائیں گے؟ کیا انہوں نے اس کی کوئی صفات لے لی ہے کہ کبھی یورپ میں اچانک الفلاٹر، طاعون، ہمیضہ اور ایسے ہی دوسرے وباوی امراض میں سے کوئی مرض نہ پھیل جائے گا؟ کیا وہ اس سے خود ہرچکے ہیں کہ ایک دن یا کم فرنگی سیاست کے باوجود خانوں میں سے کسی ایک میں دیسی ہی کوئی چنگاری نہ آپرے کی جیسی 1913ء میں سراخیوں میں گری تھی۔ اور پھر فرنگی قومیں خود اپنے ہاتھوں سے وہ سب کچوڑہ کر گز ریں گی جو کوئی وبا اور کوئی بیماری نہیں کر سکتی؟ اگر ان میں سے کوئی صورت بھی پیش آگئی اور دفعہ یورپ کی آبادی سے چند کروڑ آدمی قتل یا ہلاک یا ناکارہ ہو گئے تو اس وقت یورپ کے باشندوں کو معلوم ہو گا کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود کس طرح تباہ کیا۔

لہ اس حادث کا بُرا انجام آخر کار دوسری جنگ عظیم میں فرانس نے دیکھیا۔  
لہ بالآخر ستمبر 1939ء میں وہ چنگاری آہی پڑی۔

کیا بستیوں کے لوگ ملٹن ہیں کہ ہمارا غذا  
ان پر راتیں رات ن آ جائے گا جبکہ وہ سوتے  
ہوں گے ؟ اور کیا ان بستیوں کے لوگوں نے  
اس امر کا اطمینان کر لیا ہے کہ ہمارا غذا  
کبھی دن رہا ہے ان کرنے آئے گا جبکہ وہ  
جیتے ہوں گے ؟ اور کیا وہ اللہ کی چال کے  
بے خوب ہو گئے ہیں ؟ سوا اللہ کی چال کے  
تو ہی لوگ بخوبی ہوتے ہیں جن کو یاد ہونا ہے۔

آفَأَمْتَ أَهْلَ الْقُرْبَىٰ أَنْ  
تَيَاٰ يَتِيمَهُ بَاسَنَا بَيَاٰ تَأَوَّهُمْ نَامُونَ  
أَوْ أَمْتَ أَهْلَ الْقُرْبَىٰ أَنْ يَأْتِيهِمْ  
بَاسَنَا صُحَىٰ وَهُمْ تَلْعَبُونَ ؟ آفَأَمْنَوْا  
مَكْرَاهَ اللَّهِ ؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَاهَ اللَّهِ إِلَّا  
الْقَوْمُ الْخَيْرُوْنَ - (دراعrat ۹۹)

ایسی ہی ایک قوم اب سے تین بزار برس پہلے عرب کے جنوبی ساحل پر آباد  
تھی جس کا ذکر قرآن میں سماں کے نام سے کیا گا ہے۔ اس قوم کی تھنی آبادی کا سند  
سوا صلی بھیر مہند سے سوا صلی بھیر آخر تک پھیلا ہوا تھا۔ مہندوستان  
اور یورپ کے دریاں تبتی تجارت اس زمانہ میں ہوتی تھی وہ سب اسی قوم کے لانحو  
میں تھی۔ اس کے تجارتی مکملے جنوبی ساحل سے مال لے کر چلتے تو مغربی ساحل تک  
سدل بستیوں اور باغوں کی چھاؤں میں چلے جاتے تھے، وَ جَعَلْنَا بَيْتَهُمْ  
وَبَيْنَ الْقُرْبَىٰ الَّتِي بَارِكْنَا فِيهَا فَرِيْضَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ،  
وَسِيرُوا فِيهَا لَيَالِيٍ وَأَيَّامًا ۝ (مینیم رساب: ۱۸) مگر انہوں نے اللہ کی اس  
نعمت کو مصیبت سمجھا اور چاہا کہ ان کی یہ تھنی ہمیشہ سدل بستیاں کہ موجود ہیں  
اوہ ان کا باہمی فصل بڑھ جائے، فَتَعَاوَنُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَامُوا  
أَنْفُسَهُمْ یہاں انتظ باعد بین اسفارنا سے پتہ چلتا ہے کہ تجارتی نوشحال کی  
رساب: ۱۹ و جہر سے جب آبادی بڑھی اور ستبیاں گنجان ہو گئیں تو وہاں بھی یہی سوال  
پیدا ہوا تھا جو آج یورپ میں پیدا ہوا ہے۔ اور ظلم مُوا اَنْفُسَهُمْ سے  
اشارہ ملتا ہے کہ شاید انہوں نے بھی مصنوعی تدبیروں سے آبادی لگانے  
کی کوشش کی ہے گی۔ پھر ان کا حشر کیا ہوا ؟ فَجَعَلْنَا هُمْ أَحَادِيثَ دَ

مَرْفُعٌ وَمَكْلُوْنَ مُسْتَرِقٌ۔ اِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِيْتٍ تِكْلِيْ صَبَارٍ شَكَورٍ۔  
 رسالہ: (۱۹) خدا نے ان کو منتشر اور پارہ پارہ کر کے ایسا تباہ و برباد کیا کہ بس  
 ان کا وجود افسانوں ہی میں رہ گیا۔

ترجمان القرآن صفحہ ۳۵۵ (۱۹۳۷ء)

# ایک مسیحی بزرگ کے چند اعتراضات

آمید واقع ہے کہ ایک محقق اور طالبِ حقیقت کے ذیل کے استفسارات پر ترجمان القرآن کے تو سطح سے روشنی دلانے ہوتے نہ صرف مستفسر کو ہی بلکہ تمام ناخداں کو شکر و امنان کا موقع دیں گے۔

(۱) قرآن نے مسیح کی نسبت چار وعدے ذکر کیے ہیں۔ چوتھا وعدہ ہے:

وَجَاءُ عَلٰى الَّذِينَ أَتَبْعَوْكَ فَوْقَ الَّذِي كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رَأَىٰ مُحَمَّدًا

مسیح کے تبعین اور مسیح کے کافر و نوں کے وجود کا قیامِ قیامت تک پایا جانا ہے اس بات کو مستلزم ہے کہ مسیح کے تبعین مسیح کے اتباع پر قائم رہیں اور اتباع کے بیان کی ہدایت اور تعلیم کا قائم اور محفوظ رہنا اور پھر قیامت تک محفوظ رہنا ضروری ہے، جس سے لازم آتا ہے کہ مسیح ہی قیامت تک اپنی تعلیم اور ہدایت دائی کی رو سے دائی ہادی ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو درمیان میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے وجود کو گھبیرانے کے کیا معنی؟ دوسرے اسلام کا مخالف پہلی صورت مسلم کے منافی معلوم ہوتا ہے۔

(۲) اہل اسلام کے نزدیک اگر مسیح آسمان پر زندہ ہیں اور وہی آنے والے ہیں، پیغمبر اسلام کے ظہور سے پہلے بھی وہی اور بعد میں بھی وہی، تو اس صورت میں درمیان میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے ظہور کا کیا مطلب؟ جبکہ غلبہ تبعین مسیح کا وعدہ انتہار بلا فصل کے معنوں میں قیامت تک کے یہ پیش کیا جا چکا ہے۔

(۳) آیتِ ان کُنْتَ فِي شَكٍّ هَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَأُمْلِئِ الَّذِينَ  
لَيَهُودُونَ الْكِتَبَ مِنْ قَبْلِكَ، لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا

نکونتِ مفت (المُهَمَّرِينَ) ریوں (۶۹) سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب خود پیغمبر اسلام بھی قرآن کی وحی کے متعلق شک میں پڑ جاتے تھے تو اس صورت میں شک کو نکلنے کے لئے آپ کو حکم ہوتا کہ اہل کتاب سے آپ اپنے شک کو نکلو۔ یہ بھی، جس سے واضح ہے کہ یہ قرآن پیغمبر اسلام کو بھی شک میں ڈالنے والی چیز ہے اور اہل کتاب کی کتاب اور تعلیم ایسی چیز ہے کہ قرآن کے متعلق شک کرنے والی کو بھی وہی دو د کرتی ہے، تو اس صورت میں بھی اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلہر سے اور مسیح کے بعد آنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور قرآن کریم کی نسبت تو یہ ہے، مگر تورات کی نسبت لکھا ہے تُلْ فَاتُوا بِالْمُؤْدَّةِ فَأَنْذُوْهَا نَكْتُمْ صِدْقَتِنَا كُنْ تُرْصِدْنَا بِقِيْنَ رَأْلَ عَمْرَانَ (۳۴) جس سے ظاہر ہے کہ تواریخ قابل استثنہا د ہے اور وہ اس صورت میں کہ محفوظ ہوا در محرف و مبدل نہ ہو اور یہ صورت بھی پہلی صورت پیش کردہ کی مثبت ناہیت ہوتی ہے۔

امید ہے کہ آپ ان ہر سو سوالات پر جن کا مآل معنی واحد ہے، یعنی ایسا کی کے ساتھ خوب روشنی ڈالیں گے وہ نہ آپ کی خاموشی یا انحطاط اور ناقابلِ تسلی جواب سے کئی مسلمان کملا نے والے سفرزاد را اہل علم عیسائی ہونے والے ہیں۔ اور سات اشخاص تو عیسائی ہو چکے ہیں۔ شاید آپ ابھی تک بے خبر ہی ہوں۔ جیدر آباد میں اندر ہی اندر آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے؛ اور قدرت شاہ خاں بلشیر مسیحی کے ٹریکٹ "خط بنام مسلمان جیدر آباد" نے کیا کچھ تہلکہ مچا دیا ہے کہ کئی خاندانوں کے خاندان عیسائی ہونے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ آپ کا مخلص ایک محقق،

کاتب خط کوئی مسیحی پادری معلوم ہوتے ہیں جنہوں نے مسلمان بن کر سوال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر وہ ایک پچھے عیسائی کی طرح سامنے آ کر اغراضات کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا اور اس صورت میں بھی ان کے اغراض کا جواب اسی محبت سے دیا جاتا جس کے ساتھ ایک جلیکے ہوتے مسلمان کو دیا جاسکتا ہے۔ خیر طریق

اعراض کے انتساب میں وہ آزاد ہیں۔ ہمارا کام بہر حال ان کے اعتراض کو رفع کرنا اور ہمیں مطمئن کرنے کی کوشش کرنا ہے۔

(۱) سب سے پہلے میں آپ کو اس پڑی لورنیا دی غلطی پر منع نہ کرو دینا ضروری سمجھتا ہوں جو نہ صرف آپ نے کی ہے بلکہ مسیحی مقررین بالعموم اس میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں تو ف علطی پر ہے کہ آپ لوگ جب اسلام اور پغیر اسلام کا فقط بولتے ہیں تو اس سے آپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک نہ سب کا نام ہے جس کا آغاز ساتویں صدی عیسوی میں ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باñی تھے۔ اسی وجہ سے آپ کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اگر تورات و انجیل برحق تھیں اور موسیٰ و مسیح برحق تھے تو ان کے بعد اسلام یکوں آیا اور پغیر اسلام کے ظہور کی کیا ضرورت لاحق ہوئی۔ لیکن قاعدے کی بات ہے کہ اگر آپ کسی پر گرفت کرنا چاہتے ہوں تو اس سے اس دعویٰ پر کچھ یہے جو اس نے خود کیا ہونہ کہ اس الزام پر جو آپ زبردستی اس کے سرمنڈھوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ کہا تھا کہ میں ایک نہ سب کی بنادال رہا ہوں اور میرے اس کو ایجاد نہ سب کا نام اسلام ہے؟ وہ تو اس بات کے مرے سے مدعا ہی نہیں ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اسی نہ سب کو لے کر آیا ہوں جسے مجھ سے پہلے علیٰ اور موسیٰ اور ابراہیم اور نوح علیہم السلام لے کر آتے تھے اور اس نہ سب کا نام ہمیشہ سے اسلام و خدا کی فرمابرداری، یہی تھا نہ کہ یہ پرستی یا علیسویت۔ پھر وہ ان گذشتہ پغیروں کے بعد اپنے آنے کی وجہ جو بیان کرتے ہیں اس میں بھی کہیں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ موسیٰ اور مسیح علیہما السلام کی تعلیمات دنیا سے بالکل مست گئی تھیں، یا بالکل منزخ ہو گئی تھیں اس پر بھیجا گیا ہوں۔ بلکہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ صریح ہے کہ اول تورات و انجیل میں تحریف ہو گئی ہے، دوسرے اس تحریف کے باوجود خدا کی تعلیمات ان دونوں میں صاف صاف پائی جاتی ہیں ان سے بہٹ کے پیر وان موسیٰ نے ایک نیا نظام "یہودیت" کے نام سے اور پیر وان علیٰ نے ایک دوسرा نظام "مسیحیت" کے نام سے بنایا ہے، اور ان دونوں نہ ہوں میں بہت

سی ایسی باتیں پہنچتے دین بنالی گئی ہیں جو اس اسلام کے خلاف ہیں جسے موسیٰ اور علیہی سے کر آتے تھے۔ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ پھر اسلام کی اصل تعریف کو اس کی خالص صورت میں۔ آمیزشون سے پہنچانٹ کر دنیا کے سامنے پیش کی جائیے اور اسی ضرورت کو فوراً کرنے کے لیے یہیں بھیجا گیا ہوں۔ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل دعویٰ۔ اب اگر آپ گرفت کرنا پاہنچتے ہیں تو اس دعویٰ پر کجھ۔ یہ آنحضرتؐ تحقیق کا کوئی سلطنه لقیہ ہے کہ ایک شخص کی طرف آپ بطور خود ایک دعوےٰ کے خواہ مخواہ غسوب کرتے ہیں۔ جس سے وہ بثت اذکاری ہے۔ اور پھر اس کے دعوےٰ نے پر نہیں۔ بلکہ اپنے غسوب کیے ہوئے دعوےٰ نے پر اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ اس غلطی کا ارتکاب آج سے نہیں، ایک دن سے مسیحی علماء کر رہے ہیں اور یہی غلطی ہے جس پر ان کے اکثر مشیر اغراضات کی بناءماہم ہے۔ اگر آپ واقعی ایک حق ہیں تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پہلے آپ ٹھنڈے دل سے اس امر کی تحقیق فرمائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل دعویٰ وہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں یا وہ جو آپ ان کی طرف غسوب کر رہے ہیں پھر اگر ثابت ہو کہ ان کا واقعی دعویٰ وہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے تو یہ رکھیں کہ آیا وہ صحیح ہے یا نہیں؟ کیا یہ تحقیقت نہیں ہے کہ تمام انبیاء و علیهم السلام کا ذہبۃ اسلام "رخدا کی فرمانبرداری" تھا؟ کیا وہ ازلی و ابدی تحقیقتیں جن کو مانتے اور جن کے مطابق اخلاق و اعمال کو دعائے پر انسان کی نجات کا مدار ہے ہدیث سے وہی نہیں رہی ہیں جن کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے؟ کیا خدا کے ہاں انسان کی نجات کا مدار ابراہیم اور اسحق کے زمانے میں کچھ دوسروں پر، موسیٰ اور علیہی کے زمانے میں کچھ دوسرے اصولوں پر اور بعد کے زمانے میں ان سے مختلف اصولوں پر ہو سکتا ہے؟ اگر آپ ملتے ہیں کہ یہ اصول ازلی و ابدی ہیں تو زیرِ حکم ذہبۃ الدین اور مسیحیت قرار پاتے ہیں یا اسلام یا یہودیت اور مسیحیت میں تو آپ متعدد ایسی پیغمبریں پاہنچ کے جن کو اصولِ ریعنی مدار نجات، کام مرتبہ دیا گیا ہے حالانکہ ذ

ایک خاص نسل یا ایک خاص زمانے تک محدود رہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم  
میں آپ قطعاً کوئی چیز اسی نہیں پاسکتے جو نوعِ انسانی کی نجات کے عالمگیر انہی وابدی  
اصول سے زائد یا ان سے مختلف ہو۔ اس نقطہ نظر سے آپ دیکھیں گے تو سوال کی وجہ  
ہی بدی جائے گی بچھر تو سوال یہ نہ ہو گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پیغمبر کی  
کہ آدم و نوح اور ابراہیم و اسحق کے واقعوں سے جو اصل دین دا اسلام چلا آ رہا تھا اس سے  
مسئلہ میں پہ بپوریت اور سمجھیت کہاں آ رہا خل ہوئیں؟

(۲) آپ نے اپنے پہلے اقتراحل میں جو آیت نقل کی ہے اس میں مسیح کا انکا  
کرنے والوں سے مراد یہودی ہیں اور مسیح کا اتباع کرنے والوں میں نصاریٰ اور مسلمان  
دعاوں شامل ہیں۔ اور اگر اتباع سے مراد اتباع کامل یعنی ٹھیک قدم قدم چنان مراد  
لیا جاتے تب تو نصاریٰ اس کے مصدق نہیں رہتے، بلکہ حضرت مسلمان ہی اس کے  
صدقاق قرار پاتے ہیں۔ اس لیے کہ نصاریٰ نے سیدنا عیینی علیہ السلام کی تعلیم کے  
اصل الاصول کو چھوڑ دیا اور یہودیوں کے بال مقابل ایک دوسرے طور پر ان کے مخالف  
کفر کیا۔ بخلاف اس کے مسلمان اسی تعلیم پر قائم رہے جو حضرت عیینی نے اور ان سے  
پہلے تمام انبیاء علیہم السلام نے دی تھی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی رسول آئے  
ہیں خواہ وہ کسی ملک اور کسی زمانے میں آئے ہوں، ان سب کی ایک ہی تعلیم تھی، اور وہ  
وہ یہ تھی کہ خدا نے واحد کی بنیگی کرو۔ ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھ کو خدامان لو۔

نَمَّا كَانَ لِيُبَشِّرُ أَنَّ يُؤْتِيهِ اللَّهُ  
كُسْكُسَ بَشَرَ كَأَيْ كَامْ نَهِيْنَ ہے کہ اللہ تو اس کو  
كُتَابٌ اور حکم اور ثبوت عطا کرے، اور وہ  
لِلْتَّائِسِ كُوْنُوا عِبَادًا لِّيْ مُتْ دُونْ  
بَنْدَسَے بَنْ جاؤ۔ بلکہ وہ توبیٰ ہے کہ تمام  
اللَّهُ وَالْكِنْ كُوْنُوا ارْبَادَتِيْنَ -

خدا پرست بن جاؤ۔

اسی مقدس گروہ کے ایک فرد حضرت عیینی بھی تھے اور انہوں نے بھی کبھی  
عبدیت کے مقام سے بال برابر تجاوز کرنے کی کوشش نہیں کی۔

لَئِنْ يَسْتَكِفَ الْمُسِيحُ أَنْ  
يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ۔ (الشاعر: ۱۰، ۱۱)

مسیح نے کبھی اس کو عارضہ سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک  
پندہ ہو۔

پس نصاریٰ کا عقیدہ تسلیت اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف الورتت کی تسلیت  
کرنا اور ان کو خدا کا بٹیا کہنا دراصل حضرت عیسیٰ کی تعلیم کے قطعاً خلاف ہے، اور  
جو لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ آپ کے ساتھ ولیا ہی کفر کرتے ہیں جیسا کہ  
یہودی کرتے ہیں۔

لَقَدْ كَفَرَ الظَّالِمُونَ قَالُوا إِنَّ  
اللَّهَ هُوَ الْمُسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ  
الْمُسِيحُ يَعْلَمُ إِنَّمَا أَنْشَأَ اللَّهُ مَا  
أَنْشَأَ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ . . . لَقَدْ كَفَرَ  
الظَّالِمُونَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ  
رَبِّ الْمَاءَدَه: ۴۳+۴۴) ایک ہے۔

یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح  
ابن مریم ہی اللہ ہے، ورانا ملکہ خود مسیح نہ کہا  
تھا کہ آسے بنی اسرائیل تم اللہ کی بنیگی کرو جو  
میرا اور تمہارا پروردہ گار ہے۔ . . . یقیناً کفر  
کیا انہوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا

اس لحاظ سے ابیعوک کے اصل مصداق مسلمان اور وہ عیسائی ہیں جو مسیح کو  
خدا کا بٹیا نہیں بلکہ اس کا رسول مانتے ہیں، ان کی طرف کسی درجہ میں الورتت کو  
خسوب نہیں کرتے، اور اس عقیدہ صاحب الحکم کے قابل ہیں، إِنَّمَا الْمُسِيحُ عِيسَى بْنُ  
هَرَيْمَ وَرَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ الْقُلُوبُ إِلَى هَرَيْمَ وَرُوحُهُ مِنْهُ۔ (النساء: ۱۰) اور  
إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَّاَنِّدْ مُسْكِنُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَكَذَرَالنَّاسُ: ۱۱) البتہ اگر اتباع سے  
ہر دو اتباع کامل نہ لیا جاتے تو اس اعتبار سے مسلمانوں کی طرح عیسائی بھی تبعیین مسیح  
میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا پروردہ دونوں سے متصل ہو جاتا ہے کہ ان کو

لَهُ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کا رسول ہے اور وہ مکمل ہے جو اللہ نے مریم پر تامہ اور اللہ کی طرف  
سے ایک روح ہے۔

لَهُ اللَّهُ تَوَكِّلَا ہی اللہ ہے۔ وہ پاک ہے اس سے کہ اس کا کوئی بٹیا ہو۔

یہودیوں پر خلیل عطا فرماتے جنہوں نے مسیح کا قطبی اور کلی انکار کیا۔  
 دسا) مسیح کی، اور صرف انہی کی نہیں بلکہ نام انبیاء و علیهم السلام کی ہدایت اور  
 تعلیم اپنی اصل کے لحاظ سے قائم و محفوظ ہے، اور قیامت تک رہے گی جیسا کہ  
 ابتداء میں عرض کر چکا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلیم و ہدایت کو مٹانے نہیں لئے  
 تھے بلکہ اس کو ثابت اور مستحکم کرنے اور ان آمیزشوں سے پاک کرنے آئے تھے جو  
 انسانی خواہشات اور لشیری و سادس کی بدوالت اس میں گھل مل گئی تھیں نصاری  
 سے ان کی جگہ اس بات پر تھی کہ وہ مسیح اور ان کی تعلیم و ہدایت کو کیوں مانتے  
 ہیں، بلکہ اس بات پر تھی کہ وہ اس کو کیوں نہیں مانتے۔ انہوں نے بار بار اپنے خدا  
 کی طرف سے فرمایا کہ یا اہلِ الکتبِ لا تغلوْا فی دُنیَکُمْ وَرَالنَّاسِ (۱: ۱) اور یا اہلَ  
 الکتبِ لَسْتُمْ عَلَیٖ شَیْعَ حَتّیٖ تَقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزَلَ إِلَيْکُمْ مِنْ  
 مُنْزَلٍ وَلَا أَنْهَمْ رَالْمَائِدَه (۴۸: ۴۸) اور وَلَوْ أَنَّهُمْ قَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزَلَ إِلَيْهِمْ  
 مِنْ مَنْ تَهْمِلُ لَا كَلُوْا مِنْ فُوْقَهُمْ وَمِنْ نَجْتَ أَرْجِلَهِمْ رَالْمَائِدَه (۶۴: ۶۴) اور وَلَيَحْكُمُ  
 اہلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أُنزَلَ اللَّهُ تَعَالَیٰ وَلَا أَنْهَمْ رَالْمَائِدَه (۲۲: ۲۲)۔ مگر جیب دیکھا کہ مسیح کے تبعین  
 سرے سے انجلیل ہی کھو بیٹھے ہیں اور انجلیل کے نام سے مسیح کی چند سوانح عمر مانی یہ  
 پھرتے ہیں جن میں مسیح کی تعلیم و ہدایت کا ایک بہت ہی خفیت حصہ اور وہ بھی  
 آمیزشوں سے آکر وہ پایا جاتا ہے تو انہوں نے نصاری کے سامنے قرآن پیش کیا، اور کہا

لہ آے اہل کتاب اپنے دین میں غلوٹ کرو ریعنی حد سے نہ بڑھو)

لہ آے اہل کتاب تم کسی طرح حق پر نہیں ہو جائی کہ توراة اور انجلیل اور ان کتابوں کو قائم نہ  
 رکھو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نمازی کی گئی ہیں۔

سکھ اور اگر وہ توراة اور انجلیل اور ان کتابوں کو جوان کے رب کی طرف سے ان کی طرف نماز کی  
 سکھی تھیں قائم رکھتے تو اپر سے اور نیچے سے (ہر طرف سے) ان کو ندق ملتا۔  
 لکھ اہل انجلیل کو ان احکام کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے جو اللہ نے انجلیل میں نماز کیے تھے۔

کہ جو کچھ تم نے کھو دیا تھا، وہ پہلے سے بھی زیادہ مکمل صورت میں پھر تمہارے پاس آگئی ہے۔ یہ وہی تعلیم ہے جو مسیح نے دی اور ان سے پہلے موسیٰ اور ابراہیم اور نوح و سے پہلے ہیں، تم نے اور تم سے پہلے کی امتوں نے اس پدایت کو بار بار گھم کی، مگر اب یہ پدایت تم کو ایسی مستحکم صورت میں دی جاتی ہے کہ قیامت تک اس کو کوئی گم نہ کر سکے گا۔ پس درحقیقت متنی اور مرض اور لوقا اور یوحنائی کتابوں میں نہیں بلکہ قرآن میں مسیح کی اصلی تعلیم قائم اور محفوظ ہے اور وہی انشاء اللہ قیامت تک محفوظ رہے گی۔

(۴) آپ کا یہ قول بھی محل نظر ہے کہ آیت زینخت سے لازم آتا ہے کہ مسیح ہی قیامت تک اپنی تعلیم اور پدایت دائمی کی رو سے دائمی ہادی ہے یہ مفہوم آپ کے تخیل کا پیداگرد ہے ہے آیت کے الفاظ اس پر دلالت نہیں کرتے۔ وہاں تو صرف اس قدر کہا گیا ہے کہ جو تیرانکار کرتے ہیں، ان پر ہم تیرا اتباع کرنے والوں کو قیامت تک غالب رکھیں گے۔ ان الفاظ سے یہ معنی کیونکہ نکالے جاسکتے ہیں کہ اب تو ہی دائمی ہادی ہے اور تیرے بعد یہی پدایت پیش کرنے کے لیے کوئی اور نبی نہ بھیجا جاتے گا۔ افسوس کہ آیات کتاب میں لفظی و معنوی تحریفات کرنے کی پرانی عادت ہمارے مسیحی بھائیوں میں سے ابھی تک نہیں گئی۔

(۵) مسیح کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خپور کا مطلب آپ ہم سے پڑھنے کے بجائے خود مسیح علیہ السلام سے پوچھیے۔ جن کا یہ ارشاد تمام تحریفات کے باوجود کتاب یوحنائی میں اب تک موجود ہے:

”لیکن میں تم سے پچھا کہنا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار دلی دیندہ، یا وکیل یا شفیع، تمہارے پاس نہ کئے۔ لیکن اگر جاؤں گا تو اس سے تمہارے پاس بھیج دوں گا اور وہ آکر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصور و ارثیرے گا۔“

اور یہ کہ:

”لیکن جب وہ مددگار آتے گا جس کو میں تھا رے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کی روح جو باپ کی طرف سے نکلتی ہے، تو وہ میری گواہی دے گا“ (ریو حنا ۱۵: ۲۶)

اور یہ کہ:

”لیکن مددگار یعنی سچائی کی روح جسے باپ بیرے نامہ سے بھیجے وہی تھیں سب باتیں سکھاتے گا۔ اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تھیں یادو لاتے گا“ (ریو حنا ۱۷: ۲۹)

اور یہ کہ:

”اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نکروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔“ (ریو حنا ۱۷: ۳۰)

اور یہ کہ:

”بچھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی ہیں مگر ایتھر ان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ سچائی کا روح آتے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھاتے گا۔ اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نکھلے گا لیکن جو کچھ سنے گا میری کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبری دے گا۔“ (ریو حنا ۱۷: ۱۲-۱۳)

میسح کے ان ارشادات سے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا مطلب اچھی طرح صحیح رکھتے ہیں۔ غلبۃ تبعین میسح کا وعدہ، جو آپ کے نزدیک استمرار بلا فصل کے معنوں میں قیامت تک کیے پیش کیا گیا ہے آنحضرت کے ظہور سے ٹوٹا ہیں اور زیادہ مستحکم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آپ نے اُنکر میسح کی گواہی دی رائیها مُسیح  
عِیَّسَیَ بْنُ هَرَبَیْرَ رَسُولُ اللَّهِ اور وَجْهُهَا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُعْرِيقَاتِ  
(ماکہ ۱۴) (آل عمران: ۱۱۱) اور اس بہتیانِ عظیم پر ہمودیوں کو توزیع کی جو وہ میسح اور اس کی ماں پر رکھتے ہیں۔  
وَلَكُفُرُهُمْ قَوْلُهُمْ عَلَى هَرَبَیْرَ ثُمَّتَانَا عَظِيمُهُمَا (النَّارٌ: ۱۵۴)

یادِ لا میں جو مسیح نے ان سے کہی تھیں وَ لَيَحْكُمُ الْأَنْجِيلُونَ إِنَّمَا أَنزَلَ اللَّهُ قُرْآنَ  
... مسیح اسی یہیے گئے تھے کہ اس دوسرے آنے والے کے لیے جگہ خالی کر دیں جوان کے بعد اکر اس کام کو پورا کرنے والا تھا جسے وہ نامکمل چھوڑ گئے تھے۔

رَبُّ، آیتِ ان کُنْتَ فِي شَدِّ دِينِكُمْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ مِّنَ الْآخِرَةِ  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی طرف معلوم ہوتا ہے، مگر وارصل ہر یہ شخص اس کا مخاطب ہے جو قرآن  
پڑھے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے ناظر یا سامع اگر تجھے قرآن کے منزل من اللہ  
ہوئے میں شک ہے تو جن لوگوں کے پاس قرآن سے پہلے آئی ہوئی کتاب میں موجود  
ہیں ان سے دریافت کر لے، ان کی گواہی سے تجوہ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتاب  
خدا ہی کی طرف سے ہے یہ اشارہ ہے ان پیشگوئیوں کی طرف جو انبیاء سے سابقین کی  
کتابوں میں نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے متعلق موجود ہیں۔ قرآن مجید میں متعدد  
مقامات پر اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے مثلاً

جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسا  
پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ خود اپنی اولاد کو  
پہچانتے ہیں۔ مگر ان میں سے ایک گروہ  
جانتے ہو جستے سچی بات کو چھپاتا ہے۔  
اور جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے  
ہیں کہ یہ قرآن درحقیقت تیرے پر درگار  
کی طرف سے اٹرا ہوا ہے۔

قرآن نے اپنی صداقت پر منجلہ بہت سی شہادتوں کے ایک شہادت انبیاء  
سابقین کی کتابوں سے جھیلپیش کی ہے اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ  
بالخصوص ان لوگوں کو مطلع کرنا مقصود ہے جو انبیاء سے سابقین کی کتابوں کو تو  
ماننتے ہیں مگر قرآن کی صداقت میں شک کرتے ہیں۔ اس یہیے کہ کتب سابقہ کی  
گواہی انہیں کے لیے معتبر ہو سکتی ہے۔ اس طلب شہادت میں کوئی بات ایسی نہیں ہے۔

الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمْ رِسْلَتَنَا  
يَعْرَفُونَهُ كَمَا يَعْرَفُونَ أَنْبَابَهُ  
وَإِنَّ قَرِيبًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُونَ الْحَقَّ  
وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ (المیرہ: ۱۳۴)  
وَالَّذِينَ أَتَيْنَاهُمْ رِسْلَتَنَا  
يَعْلَمُونَ إِنَّهُ مُنْزَلٌ مِّنْ رَّبِّكَ  
بِالْحَقَّ۔ (النعام: ۱۱۵)

یہ مطلب نکالا جاسکتا ہو کہ قرآن شک میں دلتے والی چیز ہے۔ بات کو اس کے صاف واضح  
مفہوم سے پھر کوچھ پیدا مطالب نکالنے کی کوشش کرنے کی طالب حق کا کام نہیں لانے تھے  
کو ایسے لوگوں کے لیے چھپوڑی بھی حوزہ و حدائق کی احیان میں اپنا وقت ضائع کرنا چاہیے ہے۔  
رَبُّكُلْ فَأَنْوَرْتَهُ بِالْتُّورَةِ فَإِنَّ تُورَاهَا نَكْتُمْ صِدِّيقِينَ سَبَقْهُ أَيْكَمْ أَوْ فَقِرْهُ تَحْمَلْ  
جس کو آپ نے دانتہ یا نادانستہ چھپوڑیا پوری آیت یہ ہے:

کُلُّ الْطَّعَامِ كَاتِ حِلَالٌ لِّلَّتِينَ إِسْرَائِيلَ الَّذِي أَخْرَجَهُمْ أَسْرَائِيلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنْزَلَ التُّورَةُ كُلُّ فَأَنْوَرْتَهُ بِالْتُّورَةِ فَإِنَّ تُورَاهَا كُنْتُمْ صِدِّيقِينَ - رَأْلِ عَمَان: ۹۳	تمام کرنے نبی اسرائیل کے لیے حلال تھے جو ان کے جنہیں اسرائیل نے تورات کے نزول سے پہلے اپنے لیے حرام کر دیا تھا اسے محمد کو کہ تورات لے آؤ اور اس کو پڑھو اگر تم پتے ہو۔
--	--

اس آیت میں یہود کو یہ الزام دیا گیا ہے کہ تم تورات کے احکام کو چھپاتے ہو۔  
اور یہ الزام ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پر دیا گیا ہے مثلاً سورہ مائدہ میں ہے:  
 وَ كَيْفَ يَحْكُمُونَكَ وَعَنْدَهُمْ  
 الْتُّورَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَسْوَلُونَ  
 مِنْ لَعْنَدِ ذَالِكَ وَمَا أَذْلِكَ  
 بِالْمُؤْمِنِينَ - رَأْلِ مَائِدَه: ۹۳

قرآن میں یہودیوں کے دو جرم بتاتے گئے ہیں۔ ایک جرم یہ ہے کہ وہ کتاب میں  
تحريف کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ تحریفات کے باوجود جو کچھ کتاب میں سچی خدائی تعلیم  
باتی ہے اس کو بھی اپنی خواہشاتِ نفس کے اتباع میں چھپاتے اور اس کے خلاف  
عمل کرتے ہیں۔ یہاں اگر تورات سے استشہاد ہے تو وہ یہودیوں کے جرم پر ہے اس  
سے آپ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟

# کیا نجات کیلئے صرف کلمہ توحید کافی ہے؟

”مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ اس حدیث میں اول تو ایمان بالرسل کے بغیر حیث کی بشارت دی گئی ہے، حالانکہ قرآن میں ایمان بالرسل پر جس شدت سے تاکید ہے ظاہر ہے، حتیٰ کہ کوئی ایمان بالرسل کے بغیر نہ راوی پدایت پاسکتا ہے نہ فوز و فلاح، نہ آخرت کی زندگی میں اس کے لیے کوئی حصہ ہے۔ نیز اس حدیث میں عمل صالح کی بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ اگرچہ احوال صالح جزو ایمان نہیں ہیں مگر قرآن کریم میں تو آخرت کی کامیابی و کامرانی، النعم و الکار اور حیث کی بشارت اپنے صاحب ایمان اور صالح بندوں ہی کو دی گئی ہے۔

جیسا کہ آیات زیل سے واضح ہوتا ہے:-

”أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ . . . حَسْرَةٌ وَهُمْ عَنْهَا رَاضُونَ  
رَبِّهِمْ حَنَّتْ عَدْنَ الْآتِيٰ۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
سَنَدُ خَلُقُهُمْ حَنَّتْ الْآتِيٰ (آل عمران: ۱۵)

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِإِلَهٍ وَلَعِمَلْ صَالِحًا يُكَفَّرْ عَنْهُ سَيِّاتِهِ وَ  
يُدَخَّلْهُ حَنَّتْ الْآتِيٰ (آل عمران: ۱۶)

ہماری سطح میں نظریں میں بڑے حدیث قرآن کے خلاف واقع ہو رہی ہے۔  
براء کرم اپنے شغف علمی اور محققانہ نظر سے مستغاید فرمائی مطہن فرمادیں تو  
محبوب صد مکروہیت۔“ رایک طالب حق از تظام آباد

سب سے پہلے یہ غلط فہمی دودھ ہو جانی چاہیے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ فرمایا گیا ہے:

”أَنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ“ بیشک جن لوگوں نے کہا کہ خدا ہی ہمارا رب

پھر اس فعلِ رجم گئے ان پر ملائکہ اترستھیں  
راور کہتے ہیں کہ، نہ خوف کھاؤ اور نہ رنج کو  
اور اس جنت کی خوشخبری سے شاد کام ہو جائی کا  
تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔

نَعَّاصِتَقَا مُؤْمِنًا تَنَزَّلٌ عَلَيْهِمْ  
الْمَلَائِكَةُ أَنْ لَا تَخَافُوا وَلَا  
تَخْرُجُوا وَلَا إِسْرَافٌ يَا لِجَنَّةِ الَّتِي  
كُنْدِمَ دُوْعَادُونَ - رَحْمَةُ السَّجْدَةِ (۳۰)

ویکھیے یہاں بھی دہی بات دوسرا سے لفظوں میں کہی گئی ہے جو آپ کی نقل کردہ  
حدیث میں پائی جاتی ہے جس طرح اس آیت سے یہ تجویہ نہیں نکالا جاسکتا کہ نجات  
اور نجشش اور دخولِ جنت کے لیے توحید کا اعتقاد کافی ہے، اور ایمان بالرسول اور  
عملِ صالح کی ضرورت نہیں، اسی طرح مذکورہ بالاحدیث سے بھی ایسا تجویہ لکانے درست  
نہیں۔ علی ہذا القیاس جس طرح قرآن مجید کی یہ آیت ان آیات سے معارض نہیں ہے  
جو آپ نے پیش فرمائی ہیں، اسی طرح یہ حدیث بھی ان آیات سے معارض نہیں۔

حدیث اور قرآن دونوں کو سمجھنے میں ایک غلطی عام طور پر پیش آتی ہے اور  
وہ یہ ہے کہ قرآن اور کتبِ حدیث دونوں کو لوگ عام تصنیفات کی طرح دیکھنا چاہتے  
ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح دوسری کتابوں میں ایک ایک مضمون ایک ایک  
جگہ تمام وکال بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی طرح قرآن و حدیث میں بھی  
کی گئی ہو گی لیکن دراصل معاملہ یہ نہیں ہے۔ قرآن ۲۲ سال کی مدت میں مختلف  
مواقع پر مختلف حالات اور ضروریات کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔  
اسی طرح احادیث میں حضور کے وہ احوال جمع کیے گئے ہیں جو ۲۲ سال کے طویل مانے  
میں آپ نے مختلف مواقع پر مختلف حالات میں حسب ضرورت ارشاد فرماتے ہیں۔  
ان دونوں میں ایک چیز تو اسلام کی مرکزی قطبیم ہے جسے بار بار مختلف طریقوں سے  
دہرا یا گیا ہے۔ اور دوسری چیز اسلامی ہدایت کی تفضیلات ہیں جن کو کہیں بیجا اور  
کہیں جداً جداً مختلف حالتوں اور مختلف ضرورتوں کے لحاظ سے بیان کیا گیا ہے۔  
یہ صحیح تجویہ اخذ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان سب پر کثیریت مجموعی لگاہ ڈالی جاتے۔  
درستہ اگر کسی ٹکڑے کو کہیں سے لے لیا گیا اور دوسرے متعلقی اجزاء سے صرف نظر کے

اسی کو ایک منقول چیز سمجھو بیا گی تو یقیناً غلط فہمی پیدا ہوگی۔

مثال کے طور پر قرآن میں کہیں صرف ایمان باللہ پر زور دیا گیا ہے جیسا کہ اپر منقول ہوا۔ کہیں صرف یوم آخر کے اقرار کی تائید ہے رالانعام: ۴۰) کہیں خدا کے ساتھ یوم آخر کا ذکر ہے دسورة بقرہ: ۸) کہیں خدا کے ساتھ رسولوں پر ایمان لانے کا حکم ہے رآل عمران: ۱۸) کہیں خدا کے ساتھ محمد بنی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی تعلیم ہے رالمزد: ۱۹) کہیں یوم آخر اور کتبہ الہی پر اعتماد رکھنے کی شدید تائید ہے رالنساء: ۱) کہیں خدا اور انبياء اور ملائکہ کے انکار کو کفر و فتن قرار دیا گیا ہے دبقرہ: ۱۷) کہیں ایمان کے پانچ اجزاء دیاں کیے گئے ہیں یعنی ایمان باللہ، ایمان بالرسل، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ اور ایمان بالیوم الآخر دبقرہ: ۲۳) ان مختلف مقامات میں وہ حقیقت کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ ایک مقام پر ایمانیات کو یک جایاں کر کے دوسرے مقامات پر ان میں سے ایک ایک رو دو کو حسب موقع و ضرورت زیادہ نور دے کر پیش کیا گی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس اصل سے قطع نظر کر کے اور کسی ایک آیت کو لیکر یہ دعویٰ کروے کہ مومن ہونے کے لیے صرف خدا کی توحید پر، یا محض خدا اور یوم آخر پر، یا فقط خدا اور رسولوں پر ایمان الاما کافی ہے، اور یہ گمان کرو کہ اجزاء ایمانی میں سے بعض کا انکار کر کے بھی بعض کا اقرار انسان کے لیے نافع ہو سکتا ہے، تو وہ اصل یہ قرآن کی زبان اور اس کے انداز پر ایمان سے قطعی ناواقفیت کا نتیجہ ہو گا۔

اسی طرح قرآن میں کہیں صرف ایمان پر زور دیا گیا ہے جیسا کہ رأى اللذين  
قَاتَلُوكُمْ بِنَا اللَّهُ ثُمَّ أَسْتَقْأَمُوا مُؤْمِنُوْں میں ہے، اور کہیں ایمان کے ساتھ عمل صالح اور تعزیز کو نجات کے لیے شرط بھیرا یا گیا ہے، مثلہ روانْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ آخِر  
عَظِيمٌ رآل عمران: ۲۰) اور دالحصہ انَ الْإِنْسَانَ لَهُ خُصُوصٌ إِلَّا مَا لَدُونَ أَمْنُوا وَ  
عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَمْ يَأْصُلُوا بِالْحَقِيقَ وَلَمْ يَأْصُلُوا بِالصَّيْرِدِ پ؛ پھر اعمالِ صالحین سے بھی کسی جگہ ایک کی تائید ہے اور کسی جگہ دوسرے کی۔ کہیں نماز اور زکوة پر زور دیا جا رہا ہے، کہیں راستبازی اور حسن معاملہ پر، کہیں عفت و عصمت پر، کہیں صدر جمی

اور قرابت واروں کے حقوق پر، کہیں اکمل حلال اور ترک حرام پر۔ ان میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ گویا فلاح و نجات کا مدار اسی پر ہے۔ اگر کوئی شخص ان احکام اور ہدایات کے پورے مجموعہ سے قطعہ نظر کے مختص کسی ایک آیت کو لے اور اس سے یہ توجہ لکائے کہ قرآن مجید مختص ایمان پر نجات کی بشارت دیتا ہے بغیر اس کے کہ اس کے ساتھ عمل صالح ہو، یا اعمال صالحہ میں سے صرف نماز یا زکوٰۃ یا عفت یا صلٰہ رحمی یا کسی اور چیز کو کافی سمجھتا ہے بغیر اس کے کہ اس کے ساتھ دوسرے حسنات بھی ہوں، تو یہ اس کی قلمبٰت تذمیر کا توجہ ہو گا۔ قرآن تو اپنی مجموعی تعلیم میں فکری عملی زندگی کے لیے ایک مکمل اسکیم پیش کرتا ہے جس میں ایمانیات، اخلاقیات اور عملی قوانین سب اپنی مناسب جگہ پر ہیں۔ مگر اس نے ان چیزوں کو وہ ہن شین کرنے کے لیے ایک خاص حکیمانہ طریقہ اختیار کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ایک ہدایت کو وہ الگ الگ مناسب موقع پر دلوں میں آنہتا جاتا ہے۔ کبھی کوئی خاص واقعہ پیش آگئی، دیکھا کہ ذہن اس وقت ایک خاص ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار ہے، فہراؤہ ہدایت نازل کر دی گئی اور اس قوت کے ساتھ نازل کی گئی کہ طلب درود میں پیش ہو گئی۔ کبھی کسی خاص گروہ کی تعلیم رضویہ کو مأمور کیا گیا اور اس گروہ کے خاص حالات کو پیش نظر رکھ کر اسی قسم کی ہدایات دی گئیں جو اس کی اصلاح کے لیے ضروری ہیں۔ کبھی کوئی خاص تعلیم دینے کی ضرورت پیش آئی تو پہلے تمثیلوں سے ما قوم گذشتہ کی تحریروں سے، انبیاء کے کرام کے حالات سے، آفاق والنفس کے شواہد سے، دلوں کو اس کی قبولیت کے لیے تیار کیا گیا پھر وہ تعلیم دی گئی تاکہ اس کا اثر ہو اور وہ روح میں جذب ہو جاتے۔ یہ انتہا درجہ کا حکیمانہ طریقہ تعلیم و تربیت اس لیے اختیار کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد مختص ایک اسکیم اور ایک ہدایت نامہ مرتب کر دینا ہیں تھا، بلکہ درحقیقت اپنی اسکیم کو نافذ کرنا اور ایک جماعت کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا تھا جس کے لیے تدریج اور ترتیب اور موقع محل کی مناسبت اور نفیاں انسانی کی رعایت ناگزیر تھی۔

ٹھیک ٹھیک اسی حکیما نہ طرائقی کی پیروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے۔ ۳۰ سال کی پنجمبرانہ زندگی میں آپ ہر وقت تبلیغ و تعلیم اور اصلاح و ہدایت میں مشغول رہتے تھے۔ ہر قسم کے لوگ آپ کے پاس آتے تھے۔ ہر ایک کی ذہنیت، ہر ایک کی استعداد، ہر ایک کی اخلاقی، اعتمادی اور عملی حالت جدا گاہ نہ تھی لگر آپ ہر وقت ہر شخص سے ایک ہی بندھی بات پہنچتے اور ایک ہی قسم کی ہدایات دے کر خدمت کر دیا کرتے تو آپ کو وہ کامیابی نصیب نہ ہوتی جس نے تاریخ میں انقلاب پیدا کر دیا۔ آپ حکوم مطلق کے شاگرد تھے اور اس حکیم نے جو طریقہ ہدایت اپنی کتاب میں اختیار کیا تھا اسی کی پیروی آپ بھی کرتے تھے۔ آپ کی تعلیم موقعہ محل کی رعایت کے ساتھ ہوتی تھی جس وقت جس بات کا موقع ہوتا تھا اس وقت وہی بات آپ کی زبان سے نکلتی تھی، اور سیدھی دلوں میں اتر جاتی تھی یہ چیزیں جو منتشر طور پر ہدیوں میں پھیلی ہوئی ہیں ان سب کو مجموعی حقیقت سے زیکری ہے تب آپ کو معلوم ہو گا کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پُردی تعلیم کیا تھی اور آپ کس طرح اس کو ذہن نشین کرتے تھے۔ اگر آپ ان اکائیوں کو جوڑ کر ایک منظم حدود بنائیں گے اور ایک ایک فرد کو الگ الگ لے کر اس سے جدا گاہ نتائج اخذ کرنے لگیں گے تو یہی ہی غلطی پیش آئے گی جیسی آیات قرآنی کو متفرق طور پر دیکھنے سے پیش آسکتی ہے۔

اس قاعده کو ملحوظ کر کر آپ ان احادیث پر نظر ڈالیے جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعبیمات مختلف طریقوں سے بیان فرمائی ہیں۔

ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے۔ ایک اعرابی نے اگر آپ کے اوٹ کی نکیل تمامی اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جو مجھ کو جنت سے قریب اور دوڑنے سے دور کر دے۔ فرمایا تَعْبِدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَ تَقْرِبْ الصَّلَاةَ وَ تُؤْتِي الزَّكُوَةَ وَ تَصْلِي الرَّاجِهَ۔ اللہ کی بندگی کر اور اس کے ساتھ خداوندی میں کسی کو شرکیے نہ کر، نماز کا پابند رہ، زکوہ دے اور فرمائیں داروں کے حقوق ادا کر۔ دیکھتے ہیں ایک ایسا شخص سامنے ہے جو آپ کی رسالت کا فائدہ ہے،

چیز اخروی کا قابل ہے، اسلام قبول کر چکا ہے، اس کو تمام ایمانیات اور اخلاقیات کی تفصیل مطلوب نہیں۔ وہ صرف خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہدایت بانگ رہا ہے۔ آپ اس کی ضرورت کے مطابق اس کو تعلیم دیتے ہیں کہ جس عقیدہ پر اسلام کی بنیاد قائم ہے اس میں مضبوط ہو جا، اور اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کیجئے جا۔

ایک دوسرے موقع پر ایک اعرابی حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل تباہیتے جو مجھ کو حبنت میں پہنچا دے۔ آپ نے فرمایا تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ الْمُكْتُوبَةَ وَتَؤْتُ الْزَكُوْنَةَ الْمُفُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ ۝ وہ عمل یہ ہے کہ تو صرف اللہ کی بندگی کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شرک کرنے کا نہ کرم۔ جب وہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا جو شخص اپنی حبنت میں سے کسی کو دیکھ کر کروں گا نہ کرم۔ جب وہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا جو شخص اپنی حبنت میں سے کسی کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتا ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ آپ حضور کی تعلیم اور اس شخص کے جواب اور بھر آپ کے آخری ارشاد پر غور کیجیے۔ ایک چھ مسلمان سامنے نکلا۔ نبی کی ہر ہدایت کو صدقہ ول سے قبول کرنے کو تیار تھا۔ اس کو صرف یہ سمجھانے کی ضرورت تھی کہ خدا کی حبنت میں داخل ہونے کے لیے بڑی بڑی ریاضتوں اور مجاہدوں کی ضرورت نہیں چلے کھینچنے اور رات رات بھروسے نظیفے پڑھنے کی ضرورت نہیں، اسی دنیاداری کی زندگی میں اگر تو اپنے اختقاد کو شرک سے پاک کر کے اور خدا کے عайд کیجئے ہوئے فرائض ادا کرنا رہے تو حبنت تجھے مل سکتی ہے۔

اس کے بعد ایک دوسری فتحم کی حدیث ملاحظہ کیجیے۔

معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب آپ نے ایک مشن پر بھیجا تو فرمایا تم اہل کتب کی ایک قوم میں پہنچو گے۔ رسپسے پہلے ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیں اور یہ تسلیم کریں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جبکہ اس کو مان لیں تو ان سے

کہنا کہ اللہ نے تم پر رات دن میں پانچ نمازیں فرض کی میں۔ جب وہ اس کو بھی مان لیں تو ان سے کہنا کہ اللہ نے تم پر زکوت بھی فرض کی ہے جو تمہارے مالداروں سے لی جائیگی اور تمہارے غریبوں کو دے دی جائے گی۔ جب وہ اس کو بھی مان لیں تو خبردار ان کے مال کو ہاتھ نہ لگانا اور مظلوم کی بد دعا سے بپنا کر اس کے اون福德 کے درمیان کوئی حباب نہیں۔ اسی نوعیت کی دوسری احادیث میں ہے:

اَعْرِتُ اَنْ اَقَاتِلَ اَنَّاسَ حَتَّىٰ  
يَشْهَدُوا اَنَّ لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَ اَنَّ  
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَ يَعْمَلُوا الصَّلَاةَ  
وَ يَوْمَ الْزَكُوتَ فَإِذَا فَعَلُوكُمْ عَصْمُوا  
مِنْيَ دِمَاءَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ وَ  
حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ۔

جسے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کرو  
یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سرا  
کوئی خدا نہیں، اور مجھ پر اور ان سب میان  
اور مالوں کو بچا لیا۔ اس کے بعد ان کا  
حساب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

اَعْرِتُ اَنْ اَقَاتِلَ اَنَّاسَ حَتَّىٰ  
يَشْهَدُوا اَنَّ لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَ يَوْمَ صُوْنَا  
فِي وَيْمَاجِتُ بِهِ فَإِذَا فَعَلُوكُمْ فَالِّي  
عَصَمُوا مِنْيَ دِمَاءَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ  
الْأَجْحِقُهَا عَلَى حِسَابِهِمْ عَلَى اللَّهِ۔

جسے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کرو  
یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سرا  
کوئی خدا نہیں، اور مجھ پر اور ان سب میان  
اور مالوں کو بچا لیا، الای کہ ان کے خلاف کوئی حق قائم ہو جائے، اس کے بعد ان کا حساب  
اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

ان احادیث میں حضور نے اسلام کا قانون (Constitutional Law) بیان فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص خدا کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کو مانتے کا اقرار کرے تو وہ دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے اور اسلامی انتیت کا شہری (Citizen) بن جاتا ہے۔ یہ بات کہ وہ حقیقی مون ہے یا نہیں اس کا فیصلہ اللہ

کرنے والا ہے۔ ہم اس کا فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں کیونکہ کتاب فرمائنا اُشن یعنی  
مکوپ انسانی ملائکت میں جان و مال کی صحت (Security) صرف کلمہ  
توحید اور اتفاق دوست کے اقرار سے قائم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کسی دست  
در مازی کا حق نہیں رہتا۔ البتہ اگر کوئی شخص خدا کا حق یا بندوں کا حق ادا کرنے سے  
انکار کرے تو اس کو چشم کے مطابق مترادی جاسکتی ہے۔

دیکھیے یہاں کوئی شخص پیش نظر نہیں تھا بلکہ ایک علاقہ کے گورنر کو قانونی ہدایا  
دی جاوی تھیں، اس لیے صرف قانون کے حدود بیان کرنے پر اتفاقاً کی گئی۔ یہ نہیں فرمایا  
کہ اقرار تو حیدور سالت اور ادائے فرائض سے ہر شخص کے لیے جنت واجب ہو  
جاتے گی زیراً اس موقع پر آپ نے ہر شخص کو تمام ایمانیات اور عملی قوانین سے آگاہ  
کرنے کا حکم بھی نہیں دیا، کیونکہ یہاں نہرت یہ سمجھانا مقصود تھا کہ اسلام اور غیر اسلام  
کی سرحد کیا ہے، لہذا اسلام کی سرحدیں داخل ہوتے ہی انسان کو کیا آئینی حقوق  
حاصل ہو جاتے ہیں۔ پڑھیکھیک اس آیت کے مطابق ہے جس میں فرمایا گا ہے  
قَاتِلُ تَابُوا وَأَفْلَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنُوْا الذَّكْرَةَ تَخْلُوا بِسْتِيَّهُمْ (توبہ ۲۷) را گرد و کفر و  
شرک سے توبہ کر دیں اور نماز قائم کریں اور ذکرہ ادا کریں تو انہیں چھوڑ دو۔ اپنی کسی  
شخص کو ان قانونی ہدایات سے یہ تحریک نکالنے کا حق نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
صرف توحید و رحمات کے اقرار اور ادائے نمازوں ذکرہ میں اسلام کو محمد و رکھتے تھے  
اور ان کے سوا کسی اور چیز کی کوئی اہمیت آپ کی نگاہ میں نہ تھی۔

اور آپ نے دو قسم کی حدیثیں دیکھیں۔ ایک وہ احادیث جن کے مخاطب خاص  
لگتے تھے۔ ان میں آنحضرت نے ان لوگوں کے مخصوص حالات کو پیش نظر کو کتعییم  
دی ہے۔ دوسری وہ احادیث جن میں مخصوص افراد سے بحث نہ تھی بلکہ دستوری  
قانون کی رو سے مسلم اور غیر مسلم کا اصولی فرق اور مسلم کے آئینی حقوق بیان کرنا مقصود

نہ تھے کو لوگوں کے ول چیزیں اور ان کے باطن میں نہ تھیں کا مجھ سکھ نہیں دیا گیا۔ درجیں:

تھا۔ ان دونوں قسم کی حدیثوں کے انداز بیان میں آپ کو نایاں فرق نظر آتا ہے مایک جگہ آپ حواس کے روشنی رہنمائی حیثیت سے کلام کر رہے ہیں، دوسری جگہ آپ کی حیثیت ایک متفق اور ایک نئے نظام سیاسی کے موسس کی ہے۔

اب ان احادیث پر ایک نگاہ ڈالیں یہ جن میں آپ کے مخاطب عرب کے وہ بہترین چیزہ اشخاص تھے جن کو پنے عہد کی عرب سوسائٹی میں سے چھانٹ کر آپ نے اپنی صحبت میں رکھا تھا اور بطور خاص ان کو تعلیم و تربیت دے رہے تھے۔ ناکروہ اسلام کی اپریٹ کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر آپ کے مشن کی توسیع میں مددگار ہوں۔ ایک مرتبہ حضور سواری پر چلے چاہ رہے تھے اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آپ کے روایت تھے۔ آپ نے تین مرتبہ بھیر لھیر کر آواز دی "یا معاذ بن جبل"! حضرت معاذ نے ہر مرتبہ عرض کیا تباہ کیا رسول اللہ و سعد بن عبید کیا، اس طرح تین مرتبہ لپکا کر جب آپ نے مخاطب کو اچھی طرح اپنی جانب متوجہ کر لیا اور آپ کو تین ہو گیا کہ جو بات آپ فرمانا چاہتے ہیں سننے والا اس کو خاص اہمیت کے ساتھ سننے کا تب فرمایا "جانتے ہو بندوں پر خدا کا کیا حق ہے؟" انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے فرمایا "اللہ کا حق اس کے بندوں پر یہ ہے کہ صرف اسی کی بندگی کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ بھیرائی" "بحضوری دُور آگے چل کر بھیر آواز دی" یا معاذ بن جبل! انہوں نے عرض کیا تباہ کیا رسول اللہ و سعد بن عبید کیا۔ فرمایا "بھر جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے جیکہ وہ ایسا کریں"؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا "ان کا حق یہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے" حضرت معاذ نے یہ سن کر پوچھا دیا میں لوگوں کو اس کی بشارت دے دوں؟ فرمایا "نہیں ان کو بشارت نہ دو کیونکہ وہ اسی پر بھروسہ کرنے بھیں گے" یعنی عام لوگ اس کی اپریٹ کو نہ سمجھیں گے اور اس غلط فہمی میں پڑھائیں گے کہ محسن زبانی کلرہ شہادت پڑھ لینے سے نجات لازم ہو جاتی ہے۔

ایک اور موقع پر حضور اپنے خاص صحابوں کے درمیان بیٹھے تھے۔ یہ ایک

آپ اٹھے اور تشریف ملے گئے۔ جب بہت دیر گزر گئی تو صاحبہ کو تشویش ہوئی کہ کہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ ڈھونڈنے نکلے رسیبے پہلے جو صاحب گئے وہ حضرت ابو ہریرہؓ تھے۔ یہ سرکار کو تلاش کرتے ہوتے انصار کے ایک باغ پر پہنچے جس کا دروازہ تلاش کے باوجود نہ مل۔ آخر ایک چھوٹی سی نہر کے رستے سے اندر پہنچے تھا کہ حضور تشریف فرمائیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیسے آتے؟ انہوں نے ماجرا عرض کیا آپ نے اپنی دونوں جو تیار اٹھا کر انہیں دے دیں اور فرمایا انہیں لے جاؤ اس باغ کے پیچے جو شخص ایسا ملے جو لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو اس پر دل سے یقین رکھتا ہو اسے جنت کی بشارت دے دو۔ یہ اس حکم کی تعییل کیسے روانہ ہو۔ راستہ میں رسیبے پہلے حضرت عمرؓ ملے۔ انہوں نے پوچھا یہ جو تیار کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلیین ہیں اور آپ نے مجھے ایسا اور ایسا کہنے کا حکم دیا ہے۔ یہ گرتے پڑتے بھاگے اور جا کر حضور سے سارا محاصلہ کیا اور کہا کہ واپس جاؤ۔ یہ گرتے پڑتے بھاگے اور جا کر حضور سے اس کیا۔ اتنے میں حضرت عمرؓ بھی پہنچ گئے۔ آپ نے پوچھا کہ عمرؓ کس چیز نے تم کو اس حرکت پر آمادہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہم کیا آپ نے ابو ہریرہؓ کو ایسا اور ایسا کہنے کے لیے بھیجا تھا؛ حضور نے فرمایا ہاں حضرت عمرؓ نے عرض کیا ایسا زیکرے، مجھے خوف ہے کہ کو لوگ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے، انہیں عمل کے لیے چھوڑ دیجیے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو انہیں عمل کے لیے چھوڑ دو۔

ایک مرتبہ حضرت ابو عفیارؓ حاضر ہوتے تو ویکھا کہ آپ ایک سفید کپڑا اٹھے ہوتے لیٹے ہیں۔ یہ واپس پہنچے۔ دوبارہ حاضر ہوتے تو آپ اٹھ پہنچتے ان کو دیکھو کر فرمایا ماہِ عیدِ قائل لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى مَاتَ عَلَى ذَالِكَ الْأَدْخَلَ الحسنة۔ جس بندے نے کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور اسی عقیدہ پر جانشی وہ ضرور جنت میں داخل ہو گا۔ انہوں نے پوچھا این زندگی فاتح سرّاق۔ اگرچہ اس نے زنا کی ہو؛ اگرچہ اس نے چوری کی ہو؛ آپ نے فرمایا این زندگی وان سرّاق۔

انہوں نے پھر ہی پوچھا اور آپ نے پھر ہی جواب دیا۔ انہوں نے سہ بارہ پوچھا کہ آپ نے فرمایا ورنہ ذہن سرق علی رغمِ رائفتِ اپنی ذہن۔

ان تینوں حدیثوں پر غور کیجیے مگر طب وہ لوگ ہیں جن کے کامل الاسلام ہونے میں کوئی مشکل نہیں۔ وہ تعلیمات قرآنی اور قوانین اسلامی سے نہ صرف خوب واقعہ بلکہ ان پر پورے عامل بھی ہیں۔ ان کے سامنے حضور نے جو کچھ فرمایا اس سے یہ اندازہ کرنے کی گنجائش ہی نہ تھی کہ وہ تو حیدر کے سوا اسلام کے دوسرے اصولی عقاید اور حقوق و فرائض کو غیر ضروری سمجھ لیں گے۔ اس لیے ان کو آپ نے یہ حقیقت بتا دی کہ اسلام میں اصل اور بنیادی چیز عقیدہ توجید ہے۔ بنیاء کی آمد کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کو خدا کے سما ہر ایک کی بندگی سے نکالیں اور صرف خدا کا بندہ بنائیں۔ دنیا اور آخرت میں انسان کی فلاح و کامیابی کا اختصار بھی اسی پر ہے کہ وہ غیر اللہ کی بندگی سے نکلے اور میں ایک خدا کا بندہ بن کر رہے۔ یہ حقیقت جس نے سمجھ لی اور جس کے دل میں یہ بات خوب بیٹھ گئی کہ خدا تے واحد کے سوا دنیا کی کسی چیز کو قطعاً کسی قسم کی اُوتھیت حاصل نہیں ہے اور صرف ایک خدا ہی ہے جس کی اطاعت، فرمانبرداری، غلامی اور بندگی اس کو کرنی ہے، وہ یقیناً اپنی زندگی میں سیدھا راستہ اختیار کرے گا اور ٹیکھے راستوں سے بچ کر چلے گا۔ اس کے مزاج میں راستی ہوگی۔ صداقت کو قبول کرے گا۔ متفقی اور پرہیز کا رہ ہو گا۔ تمام وہ حقوق ادا کر یا جن کو خدا نے حق پھیرایا ہے اور تمام وہ فرائض بجا لائے گا جن کو خدا نے فرض قرار دیا ہے۔ لہذا یہی ایک چیز اس کو صحیح الخیال بھی بنائے گی اور طاہر الاحلاق اور صلح الاعمال بھی۔ رہی یہ بات کہ بشری کمزودی کی بنا پر کبھی اس سے گناہ مزدہ ہو جائے، تو خدا پر ایمان اسے مجبور کرے گا کہ اس گناہ سے توبہ کرے۔ کیونکہ ایمان کے ساتھ یہ ناممکن ہے کہ وہ گناہ اور بدکاری پر جمار ہے۔

ذکورہ بالا احادیث اور ان کی ہم معنی دوسری احادیث کا یہی مفہوم صحابہ کرام نے سمجھا تھا اور یہی ان کا حقیقی مفہوم تھا۔ ان میں سے کسی نے بھی یہ خیال نہ کیا کہ بس عقیدہ تو حیدر ہی کافی ہے، اس کے بعد نہ رسالت کو ماضی کی ضرورت ہے، نہ کلام اللہ کو

اور نہ پاکنگی اخلاقی مظلوم بہے نہ صلاحیتِ اعمال۔ ایسا غلط مفہوم وہ کس طرح سمجھ سکتے تھے جبکہ ان کو پوری طرح بتاویا گیا تھا کہ اسلام کی ہے اور اس میں کن چیزوں کا اختقاد، کن عبادات کی پابندی، کن حدود کی حفاظت، کن قوانین کی رطاعت اور کن طرقوں سے احتساب ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے یہ تعلیم صرف کامیں کو روی اور عوام کے سلسلے اس کو بیان کرنے سے منع فرمادیا۔ معاذ بن جبل والی حدیث میں آپ نے اس کی وجہ بھی خود ہی بیان فرمادی ہے کہ عام لوگ اس کو ہون کر غلط فہمی میں پڑ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ والی حدیث میں ایک شخص کو شبہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے شاید عوام تک پہنچانے کی ہدایت فرمائی تھی۔ خود حضرت عمرؓ کو بھی ایسا ہی شبہ ہوا تھا۔ لیکن دراصل حضور کا مقصد کامل اسلام لوگوں کو شبارت دینا تھا۔ چنانچہ جب حضرت عمرؓ نے اپنا اندیشہ بیان کیا تو آپ نے ان کی رائے سے تفاق فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابوذرؓ والی حدیث میں بھی کوئی شخص یہ شبہ نہیں کر سکتا کہ قالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سے مراد مجرذ بانی قول ہے۔ اس میں کہ حضور نے دوسرے موقع پر تصریح فرمائی ہے کہ دخولِ جنت کے لیے تو حیدر پر کامل ایمان کی ضرورت ہے۔ کہیں مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَدْبَهُ فرمایا کہیں عبدُهُ غَيْرُ شَافِقٍ فرمایا۔ اور کہیں دوسرے الفاظ ارشاد فرماتے، جو اسی معنی پر ولات کرتے ہیں۔

بہر حال یہ اپنی طرح سمجھ لیجئے کہ جن احادیث میں توحید کی اہمیت بیان کی گئی ہے ان کا خطاب دراصل ان لوگوں سے ہے جو تمام شرکیت کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، نہ کہ ان لوگوں سے جو مسلمان ہی نہ ہوں۔ پھر مسلمانوں کو بھی اختقادِ توحید پر دخولِ جنت کی بخشش دینے سے یہ مراد نہیں کہ بس خدا کی وحدائیت مان لو، پھر یہ قسم کی بد عقیدگی اور فتن و فجور اور بدعت و معصیت میں چاہو جلتا رہو۔ بلکہ اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ مسلمان کی کامیابی کا مدار سب سے پڑھ کر اختقادِ توحید کی صحت اور مضبوطی پر ہے۔ اس میں اگر خوابی اگئی تو تھیر کوئی چیز

نافع نہیں ہو سکتی۔ اور اگر یہ صحیح و مضمبو ط ہو تو آخری کامیابی حاصل ہو کر رہے گی۔  
اسی جہت سے اس معنی کی احادیث اس آیت قرآنی سے مطابق ہوتی ہیں جیسے میں  
فرمایا گیا ہے کہ:

إِنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا إِرْبَنَا اللَّهُ تَعَالَى أَسْتَقْبَأْمُوًا سَتَرَزُلُ عَلَيْهِمْ  
الْمَلَائِكَةُ أَلَا تَخَافُوْا وَلَا تَخْرُذُوْا وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ  
تُوعَدُوْنَ - (حمد محبہ: ۳۰)  
”ترجمان القرآن“، صفحہ ۱۲۵۶ (۱۴۱۳ھ)

---

# کیا رسمت پر ایمان لانا ضروری ہے؟

ایک صاحب نے میرے مضمون "اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی" میں ایمان کی بحث پر حصہ کر ایک شبہ پیش کیا ہے جو درج ذیل ہے:

"اسلام کا مقصود بالذات توحید و عبادتِ الہی ہے۔ انہیاء محض فرعیہ ہیں اور ان پر ایمان مقصوداً صلی نہیں ہے۔ ہر شخص ایمان کے لیے وسعت علم فکر تک مکلف ہے۔ لہذا اگر کوئی غیر مسلم توحید پر ایمان رکھے اور اپنے طریق پر عبادتِ الہی کرے مگر اپنے علم اور فکر سے کام لینے کے باوجود رسالت کے متعلق شیک یتی سے شکوک رکھتا ہو ایسے شخص کو ناجی قرار نہ دینے کی مستحول وجہ کیا ہیں؟ اس سلسلہ میں ذیل کی آیات توجہ کے قابل ہیں:-

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٌ إِنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنَّمَا أَنْزَلْنَا  
وَكُوْمَاتَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ  
أَكْثَرُهُمُ الْفَسِيْقُونَ (۱۱۰) ... لَيَسْوَا سَوَاءٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ  
أُمَّةٌ قَاتَلَمْهَةَ يَتَّلَوْنَ أَبْيَتِ اللَّهِ أَنْتَرِ الْكَيْلِ وَهُمْ لَيَجْدُونَهُ  
يُوْمَئِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِاُمْرَوْنَ بِالْمُعْرُوفِ وَ  
يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَبِسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ  
الصَّالِحِينَ - وَمَا يَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَدُونَ تَكْفِرُوهُ وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
بِالْمُتَّقِيْنَ (آل عمران: ۱۱۰)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْتَوا أَنْقُوْا إِلَهَهَ دَإِمْنَوْا بِرَسُولِهِ يُوْتِكُمْ  
كِفَلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ - (الْحَدِيد: ۲۸)

ایت مُؤخر الذکر کے متعلق یہ بھی تبایہ ہے کہ کفیلین سے کیا مراد ہے اور کفیل

تثنیہ کیوں ہے؟

آپ نے اپنے پہلے فقرے میں اسلام کا جو مقصد بیان فرمایا ہے وہ دراصل اسلام کے مقصد کا پورا پورا بیان نہیں ہے بلکہ اس کا صرف ایک حصہ ہے۔ لیکن میں بخوبی طور پر اسی حجت میں نہ پڑھ لگا۔ میں یہاں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کا جو ادھر مقصود آپ نے متعین کیا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھی زبانیاً علیهم السلام کی رہنمائی ناگزیر ہے۔

سب سے پہلا سوال جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہے کہ اسلام کا جو مقصد آپ قرار دیتے ہیں اس کے حصول کا لفظی ذریعہ کیا ہے؟ "توحید" جس چیز کا نام ہے وہ صرف "خدا کو ایک کہنا" ہی نہیں ہے بلکہ وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی صحیح معرفت ہے۔ اسی طرح "عبادتِ الہی" کا مفہوم بھی صرف اسی قدر نہیں ہے کہ کسی نہ کسی طور پر خدا کی پرستش کی جلتے، بلکہ یہ صحیح معنوں میں اللہ کی عبارت یہ ہے کہ انسان شرک کے تمام شاتبوں سے بچ کر اپنی زندگی کو اس ذات پاک کی بندگی کے لیے خالص کر دے۔ یہ دونوں چیزوں دینی علم و معرفت کی صحت، اور عبادت کا خلوص، اسلام کی اصطلاح میں "ہدایت" کے جامع نام سے موسوم ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ ہدایت جس شے کا نام ہے وہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے عطا ہو۔ *قُلْ إِنَّ الْمُهْدَىٰ هُدٰى*  
اللّٰهُ رَأَىٰ عَمَانَ (۴۳)

خدا کی طرف سے ہدایت پانے کی دفعہ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو کسی کے پاس براہ راست خدا کی طرف سے ہدایت آئے، یا کسی ایسے شخص کا اتباع کیا جاتے جس کے پاس خدا کی طرف سے براہ راست ہدایت آئی ہو۔ پہلا شخص اسلام کی اصطلاح میں رسول یا نبی ہے۔ اور دوسرا شخص کے لیے اصطلاحی نام "مؤمن" یا مسلم ہے پس اگر کوئی شخص توحید کا صحیح علم رکھتا ہے اور اپنی بندگی و عبادت کو خدا کے واحد کے لیے مخصوص کر چکا ہے، تو لا محالہ یا تو وہ خود نبی ہے یا کسی نبی کا تبع۔ لیکن اگر وہ ان دو لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو اس کے پاس علم نہیں ہے محض گمان اور انکل ہے *وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُعْلَمُ*

مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً۔ اور جب اس کے پاس "علم" نہیں ہے تو اس کی عبادت بھی خالص نہیں ہو سکتی، کیونکہ عبادت کا خالصہ اللہ کے یہی ہونا اس پر مجبور قوت ہے کہ آدمی کو اللہ کی صحیح معرفت حاصل ہو۔

آپ کو یہ مطالیبہ کرنے کا حق ہے کہ قرآن کے اس دعویٰ پر عقلی دلیل پیش کی جائے۔  
یہ اس مطالیبہ کو پُروکھ رکنے کے لیے حاضر ہوں۔

اس میں تک نہیں کہ انسان کی فطرت میں خدا کی معرفت کا جو ہر موجود ہے اور یہ بات بھی اس کی فطرت ہی میں ہے کہ وہ صرف خدا کی بندگی کے جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا الرَّوْم [۲] اور حدیث نبوی میں آیا ہے کہ مُكَلَّ مَوْلُودٌ يُؤْلَدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ۔ لیکن اس فطری استعداد کے قوت سے فعل میں آنے کے لیے چند شرائط ہیں، اور باذنِ تأمل یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ شرائط ہر شخص میں پوری نہیں ہوتیں۔

پہلی شرط قوتِ مشاہدہ کا استعمال اور صحیح استعمال ہے، تاکہ انسان انکھیں کھول کر آفاق والنفس میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھے اور صفاتِ الہی کے ان نشانات کو سمجھا نہ جو ہر فرد سے اور خواہ انسان کے اپنے وجود میں پائے جلتے ہیں لیکن نوع انسان کی ایک بڑی اکثریت ایسی ہے جو اس طرح کا مشاہدہ نہیں کرتی۔ وہ آثار و مظاہر کے صرف ظاہری پہلو کو دیکھتے ہیں، مگر ان کے باطن کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ چنانچہ قرآن اس کی شکایت کرتا ہے کہ فَكَانُتْ مِنْ أَيْتَهُ فِي السَّمَاوَاتِ فَالْأَسْرُفِ يَمْرُّ وَنَّ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعِضُّونَ [۶] دیویت [۶] آسمانوں اور زمین میں اللہ کی کتنی بھی نشانیاں ہیں جن پر سے لوگ یونہی گزر جائے ہیں اور غور و فکر نہیں کرتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ أَبْيَانِنَا لَغَفِيلُونَ دیویت [۶] لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ مرے سے مشاہدہ کی قوت ہی استعمال نہیں کرتے ان کے لیے معرفت کا دروازہ کجھی نہیں کھل سکتا۔

لئے ہر چیز جو پیدا ہوتا ہے اسلام کی فطرت ہی پر پیدا ہوتا ہے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ انسان میں غور و فکر کا مادہ موجود ہو، اور وہ بھی صحیح و سلیم ہو، تاکہ انسان اپنے مشاہدات کو صحیح طریقے سے ترتیب دے سکے کہ ان سے صحیح نتائج اخذ کر سکے۔ یہ شرط پہلی شرط سے بھی زیادہ کیا جاتا ہے۔ اول تو غور و فکر کرنے والے افراد ہی نوع انسانی میں بہت کم ہیں، اور جو میں ان میں بھی صحیح الفکر افراد کم پائے جاتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ وَلَكُنَ الْكُفَّارُ لَا يَعْلَمُونَ اور وَلَكُنَ الْكُفَّارُ مِنَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ۔ پس غور و فکر کا فقدان اور صحت فکر کی کمی ایں موائع میں سے ہے جو انسان کو علم حق تک پہنچنے سے روکتے اور اسے میراث راستوں پر ڈال دیتے ہیں۔ اگرچہ راہ راست کے نشانات ہر طرف موجود ہیں مگر جو شخص ان نشانات کو دیکھتا ہی نہ ہو، یا دیکھتا تو ان سے ٹھیک تبیخ نہ لکھتا ہو وہ کیونکہ صحیح راستہ پا سکتا ہے؟ یہی بات قرآن مجید میں کہی گئی ہے کہ ہم اپنی نشانیاں کھوں گے اور کھوں گئے جو عقل رکھتے ہوں۔ وَكَذَلِكَ لُعْصِيْلُ الْأَيْتِ يَقُولُمْ يَعْقِلُونَ دَالِمُوم: ۱۲۸ اور دیکھیے کہ یہی بات دوسرے موقع پر کتنے زور کے ساتھ کہی گئی ہے:-

وَلَقَدْ دَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ  
الْجِنِّينَ وَالإِنْسِينَ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا  
يَفْقَهُونَ بِمَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا  
يُبَصِّرُونَ بِمَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَعْمَلُونَ  
بِهَا أَوْلَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَصَمٌّ  
أَوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔

راعافت: ۱۴۹)

ہم نے جتوں اور انسانوں میں سے ایک بڑی تعداد کو دونخ کے لیے پیدا کیا ہے جن کا حال یہ ہے کہ ان رکھتے ہیں مگر ان سے سمجھنے بوجتنے کی خدمت نہیں لیتے اسکھیں رکھتے ہیں مگر ان سے دیکھنے نہیں کاہ رکھتے ہیں مگر ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح میں بلکہ ان سے بھی زیادہ گراہ، یہ جو ہی لوگ ہیں جو غفلت برتنے والے ہیں۔

تیسرا شرط یہ ہے کہ اس کی طبیعت ایسی سلیم ہو کہ وہ سوسائٹی کے اثرات، بارپادا کی تربیت اور خاندانی و قومی روایات سے متاثر نہ ہو اور ان سب پر دوں کو چاک کر کے تجویزیت کو صاف دیکھ لے۔ یہ شرط پہلی دونوں شرطوں سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ بڑے ذہنے ذی علم، عاقل اور فلسفی لوگوں کو دیکھا ہے کہ سوسائٹی اور خاندان کے اثرات سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ جس دُگر پر ماحدوں نے ان کو ڈال دیا ہے، اسی پر پھرے جا رہے ہیں

اور اسی کو حق سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید اس کو بھی گراہی کا اہم سبب بتاتا ہے۔ **قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا فَاعْلِمُوا إِنَّا أَذْكَرَنَا إِنَّمَا أَذْكَرُ كَانَ أَبَاوْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْلَمُونَ رَأْيَهُمْ** (۱۷)

چونچی شرط یہ ہے کہ انسان میں حق پہنچی اور اس کے ساتھ قوت ارادی آئی زبردست ہو کہ وہ خود اپنے نفس کی خواہشات اور روحانیات کا مقابلہ کر سکے کیونکہ خواہش نفس اول تو معرفت حق ہی میں مانع ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص حق کو پہچان بھی لے تو وہ اس کو پہنچے علم کے مطابق عمل کرنے سے روکتی ہے، قدم قدم پر مراجحت کرتی ہے۔ انسان کے نفس میں یہ ایسی زبردست قوت ہے جو اکثر اس کی عقل و فکر پر چھپا جاتی ہے اور اسی اوقات اس کو جانتے ہو جختے غلط راستوں پر ٹھیکار دیتی ہے۔ معمول آدمی تردد کنار ٹڑے پر ٹڑے لوگ بھی جو اپنے علم و فضل اور اپنی عقل و بصیرت اور فہم و فراسست کے لحاظ سے یکلائے دزدھا ہوتے ہیں، اس رہنمہ کی شرارتیوں سے نجتنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس پڑکو قرآن مجید میں بھی گراہی کا سبب قرار دیا گیا۔ **وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَجَاءَهُ بِعِنْدِهِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ وَاتَّقْصَصَ**، (۵) اس سے ٹرھ کر گراہ کوں ہو گا جس نے اللہ کی طرف لے کاں ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی ہوائے نفس کی پیروی کی۔ **أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهَهُ هُوَا كُوَا وَأَخْنَثَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى نَصْرِهِ خِشَاؤًا ثُمَّ رَاجَبَهُ** (۶)

تو کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس ہی کو اپنا خدا بنایا۔ باوجود یہ وہ علم رکھتا تھا مگر (جب اس نے ایسا کیا تو) اللہ نے اسے ٹھیکار دیا اور اس کے دل پر رہنگاری اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اور تو اور اسی اوقات پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی رہنمی کے خطرے پیش آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت راوی جیسے جلیل القدر پیغمبر کو ایک موقع پر نسبتیہ کی گئی ہے کہ **لَا تَتَبَعِ الْمَهْوَى فَيُضْلِلَكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ** (ص: ۱۷) اور ہوتے نفس کی پیروی نہ کرنا درمذہ تھیں اللہ کے راستے سے ٹھیکار دے گی۔

آخری شرط یہ ہے کہ انسان کی وجہانی قوتیں بیدار ہوں، اس کے ذہن کا سانچہ ایسا ہو کہ صحیح اور حق بات سوچنے اور سمجھنے کے لیے خود فکر اور استدلال عقلی کا زیادہ محتاج نہ ہو، بلکہ فطرت ناوجہ غلط بات کو قبول کرنے سے انکار کروتیا ہو اور قیاسیں و

استدال کے بغیر معمور (Institution) کی قوت سے پہنچ اور حق بات تک پہنچ جانے۔ یہ شرط سب سے زیادہ کڑی مگر صرف دست کی تکمیل کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے انسان کا شہد خواہ کتنا ہی صحیح ہو، غور و فکر اور تعقل و تدبیر کی قوت سے وہ کتنا ہی بہرہ مند ہو، اور تقیدی غیر و بندگی نفس کی زنجیروں سے کتنا ہی آزاد ہو، لیکن جو حقیقتیں اس کے حواس سے مادر اور ہیں اور جن کی کنہ پر اس کی عقول پوری طرح حادی ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی، ان کا حلم اور حقیقی علم انسان کو محض آثار کے مشاہدے اور محض آزادانہ فکر کی بدولت حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ ان حقیقتوں کے قریب تک پہنچ سکتا ہے، مگر ان کا اور اکٹنیں کر سکتا۔ وہ عقل کے زور پر زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے کہ شاید ایسا ہو، اغلب ہے کہ ایسا ہو، یا صدر سے عدد یہ کہ ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن محض تعقل اس کو اتنی قوت بہم نہیں پہنچ سکتا کہ وہ جسم و لقین کے ساتھ کہہ سکے کہ فی الواقع ایسا ہے اور یہی حقیقت اور صداقت ہے، اور اس کے سوا جو کچھ ہے قطعاً باطل اور غلط ہے۔ یہ جسم اور حقیقیں اور ایمان کامل کی کیفیت صرف "حدس" سے پیدا ہوتی ہے۔ عفاف کی آخری منزل میں پہنچ کر قیاس و استدلال کام نہیں دینا یہاں بھل کی سی سرعت کے ساتھ ذہن میں ایک روشنی تنوادار ہوتی ہے اور وہ آن کی آن میں حقیقت کا مشاہدہ کر ادیتی ہے، ایسا بھی مشاہدہ جیسا کہ ہم اپنی آنکھوں سے کوئی مریٰ چیز دیکھو رہے ہیں۔ اسی مشاہدہ پر جسم و لقین کی بناء قائم ہوتی ہے۔ اس وقت انسان کا اعتقاد گمان اور اندازے اور انکل جیسی کمزور اور متزلزل بُلیا دوں پر نہیں ہوتا بلکہ دل کی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے ایک ایسی دلجمی بھالی بات پر ایمان لاتا ہے جس کی صداقت میں شک اور شبہ اور جانبِ مخالفت کے امکان کا کوئی شاہراہ نہ کہ نہیں ہوتا۔ اسی کا نام معرفت کاں ہے۔ اور جب تک معرفت کا یہ درجہ حاصل نہ ہو، انسان نہ پورا پورا خدا شناس ہو سکتا ہے اور نہ خدا کے لیے اس کی بندگی خالص ہو سکتی ہے۔ لیکن حدس کی یہ روشنی جس پر معرفت کی تکمیل موقوف ہے، انسان کے اپنے بیس کی نہیں۔ نہ وہ اس کی حقیقت سے واثق ہے، نہ اس کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اور نہ کسب و کر شش سے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ محض خدادا دا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید میں "نور خدادا دا" اور "برہان"

اوڑ ہدایتِ الہی“ اور ”تَعْلِيمُ خَدَا وَنَدِی“ وغیرہ الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے مثلاً ارشاد ہوتا ہے کہ **وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهَ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ (النور: ۴)** جس کو اللہ نے روشنی نہ دی ہواں کے لیے پھر کوئی روشنی نہیں۔ حضرت یوسف کے متعلق فرمایا ہے کہ **لَوْلَا نَزَّأَ بِرَهَانَ رَبِّهِ رَيْسَتْ (۲۳)** اگر وہ اپنے رب کی بُریان نہ دیکھ لیتا تو وہ بھی بھٹک جاتا۔ **مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوْكِمْ ہُوتا ہے كَه قَلْ إِنِّي هَدَى إِنِّي إِلَى صَراطٍ مُّسْتَقِيمٍ (العِنكَابُونَ: ۱۰)** لوگوں سے کہہ دو کہ مجھ کو میرے رب نے راہ راست کی طرف ہدایت بخشی ہے۔ حضرت موسیٰ کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ **وَلَمَّا بَكَّعَ أَشْدَدَهُ وَاسْتَوْنَى أَتَيْنَاهُ حَكْمًا قَعْدًا رَّصْصَ (۱۱)** اور جب وہ پُوری جوانی کو پنچا اور پُورا آدمی بن گیا تو ہم نے اس کو قوتِ فیصلہ اور علم عطا کی۔

اب ان پارچے شرطوں پر غور کیجیے۔ اگر آپ کو ان میں سے کسی شرط کی ضرورت سے انکار ہے تو وجہ انکار ارشاد ہو، اگر کسی شرط کے بغیر انسان صداقت اور حقیقت تک پہنچ سکتا ہو تو دلیل پیش فرماتی جاتے اور اگر حقیقت تک پہنچنے کے لیے ان پانچوں شرطوں کا پُورا ہونا آپ کی راستے میں لازم ہے تو بتائیے کہ کتنے لاکھ ہیں کتنے کروڑ بلکہ کتنے ارب انسانوں میں سے ایک میں یہ شرطیں اس کمال کے ساتھ پوری ہوتی ہیں کہ وہ خداوند حیل و علاجی سرحد ادراک سے وادا الوراءستی کی معرفت کامل حاصل کر سکے؟ اگر آپ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جیسی گران کیا ہے، تو پھر فرمائیے کہ ان کریڈول نہ لگا خدا کا کیا حشر ہو جو اس سے محروم ہیں یا اگر بہرہ مند بھی ہیں تو اس درجہ میں نہیں؟ کیا ہر شخص کو اس کے ناقص زرائع کے ساتھ چھوڑ دیا جائے کہ وہ خود اپنی اندھی انگلیوں اور مفلوج پاؤں کے ساتھ خود ہی راستہ ٹھوٹ کر سکے، جس چیز کو چاہیے نیک نیتی کے ساتھ خدا سمجھ دے، اور جس طرح چاہیے اس کی پوچھ کرے؟ اگر آپ کلیپی خیال ہے تو آپ کیوں نہیں کہتے کہ ہر شخص کو اپنے مرض کا علاج آپ کرنا چاہیے، کسی طبیب اور داکٹر کی ضرورت نہیں ہر شخص کو اپناراستہ آپ تلاش کرنا چاہیے، کسی سے راستہ پوچھنے اور کسی کو راستہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہر شخص کو خود ہی علم حاصل کرنا چاہیے، کسی استاد اور معلم کی حاجت نہیں۔ کیا اس

دنیا کا پورا نظام یونہی چل رہا ہے؟

انسان کے محدود ذہن میں اتنی سماں نہیں ہے کہ تمام جہاں کی قابلیتیں بیک وقت ایک ہی شخص میں جمع ہو جائیں حتیٰ کہ وہ اپنے ہر کام میں دوسروں کی مردی سے بے نیاز ہے۔ دوسری طرف انسان کی ضروریات اتنی وسیع اور گوناگون ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے خاص قسم کی قابلیت درکار ہے اور زندگی کا ہر شعبہ اپنے لیے مناسب حال قابلیتیں چاہتا ہے۔ اسی بنابر اللہ تعالیٰ نے مختلف انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف لوگوں کو مختلف قابلیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے کسی کو طلب سے لگاؤ ہے اور وہ لوگوں کی طبقی ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ کسی کو قانون سے لگاؤ ہے کسی کو تجارت سے، کسی کو کاشتکاری سے، کسی کو صنعت و حرف سے، کسی کو حکومت و سیاست سے۔ اور یہ سب اپنے اپنے شعبے میں نوع انسانی کے محتاج الیہ ہیں۔ ہر شعبہ زندگی کے مخصوص معاملات میں دوسرے تمام شعبوں کے لوگ اسی خاص شعبے کے آدمیوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جو شخص اس نظام کو توڑ کر آپ ہی اپنا طبیب، اپنا وکیل، اپنا مزارع، اپنا بیوپاری اور اپنا صنیع بننے کی کوشش کرے گا، وہ خواہ لکھنی ہی "نیک نیتی" کے ساتھ اس حماقت کا مرکب ہو، فطرت کے نظام کو توڑنے کا نتیجہ بہر حال ظاہر ہو کر رہے گا اور وہ یقیناً ناکام زندگی بسرا کرے گا۔

یہ نظام جس طرح زندگی کے تمام معاملات میں درست ہے، اسی طرح مذہب کے معاملے میں بھی درست ہے۔ یہاں بھی ہر شخص اس خاص قابلیت سے بہرہ مند نہیں ہے جو معبود کو پہچاننے اور صحیح طریقے سے اس کی عبادت کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ قابلیت بھی خاص خاص لوگوں کو عطا کی گئی ہے۔ انہوں نے معبود کو پہچانہ ہے اور اس کی نشانیاں کھول کھول کر سیان کر دی ہیں۔ اس کی عبادت و بندگی کا صحیح طریقہ دریافت کیا ہے اور اس کو بتا بھی گئے ہیں۔ عقلمند انسان کا کام ہے کہ اس شعبے میں اسی شعبہ کے ماہروں پر اعتماد کرے، جیسی تعلیم انہوں نے دی ہے اس کو قلبِ سوچ میں جگہ دے، اور جو طریقہ بندگی انہوں نے قول اور عمل سے تبادلیا ہے اسی کا اتباع

کرے وہ بلاشبہ اس معاملہ میں بھی اپنی عقل کو استعمال کر سکتا ہے لیکن یہاں عقل کے استعمال کی صحیح صورت یہ نہیں ہے کہ وہ خود اپنی ناقص قوتوں اور اپنے محدود ذرائع پر اعتماد کر کے راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے اور جو راستہ اپنے نزدیک صحیح معلوم ہو اس پر چلنے لگے بلکہ اس کی صحیح صورت یہ ہے کہ وہ اپنے لیے صحیح رہنمای تلاش کرے اور جو لوگ مذہب کے میدان میں رہنمائی کے مدعا ہیں ان سب کی سیرتوں اور ان کی تعلیمات پر اپنی حد تک ایک تحقیقی نظر ڈال کر معلوم کرے کہ ان میں سے کون زیادہ بہتر اور صحیح راہ دکھانے والا ہے، کس کی ذات میں وہ پانچوں شرطیں بدرجہ اتم پوری ہو گئی ہیں جو ہدایت یافتہ ہونے کے لیے ضروری ہیں، اور کس کی تعلیم سب سے زیادہ قابل عمل ہے۔ اس امتحان پر جو شخص پورا اترے اس کی تعلیم کو مان لینا چاہیے اور اس کے اتباع کی کوشش کرنی چاہیے۔

اس معمول طریقہ کو چھوڑ کر جو شخص غیر معمول طریقہ اختیار کر لیا وہ خواہ کتنا ہی ہنیک نیت ہو بہر حال وہ اپنی غلطی کے بُرے نتائج ضرور دیکھے گا۔ غلطی خواہ یہ نیت سے کی جاتے یا بد نیت سے اس کی ذمہ داری اور اس کے وباں سے انسان بچ نہیں سکتا۔ جو شخص بیمار ہو اور فن طب کے ماہر کو تلاش کرنے اور اس پر اعتماد کرنے کے بجائے اپنے ناقص علم پر اعتماد کر کے خود اپنا علاج کرنے لگے وہ اپنی اس غلطی کا نتیجہ ضرور رکھتے گا۔ خواہ اس نے یہ غلطی کتنی ہی نیک نیت سے کی ہے۔ جو شخص قانون کے معاملہ میں ماہر قانون کو چھوڑ کر خود اپنی ناقص راستے پر عمل کرے گا وہ اپنی حماقت کے نتائج سے نہ بچ سکے گا۔ چاہے اس نے یہ حرکت انتہائی نیک نیت کے ساتھ کی ہو۔ غلطی بہر حال غلطی ہے اور بہر غلطی کے جو فطری نتائج متعدد ہیں وہ بہر حال میں ظاہر ہو کر رہتے ہیں۔ البتہ بد نیت سے ایک جرم کا اضافہ اور ہو جانا ہے۔

اب میں ان آیات کی طرف توجہ کرتا ہمیں جو آپ نے اپنے نقطہ نظر کی تائید میں پیش فرمائی ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے اس قاعدة کلیہ کو سمجھ دیجیے کہ کسی مسئلہ میں قرآن مجید سے استدلال کرنے کے لیے ایک دو آیتوں کو چھانٹ کر نکال لیٹا کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے،

بجکہ اس کے لیے پورے قرآن پر نظر ڈالنی ضروری ہے تاکہ مسئلہ کے تمام پہلوں سامنے آجائیں اب کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کوئی مسلسل تفصیل نہیں ہے جس میں ترتیب کے علاوہ ہر ہر مسئلہ کو ایک ایک جگہ مفصل بیان کیا گیا ہو، بلکہ یہ مجموعہ ہے ان آیات کا جو ۲۳۱ سال کی طویل مدت میں موقع اور ضروریات کے لحاظ سے رقمان فرقان نازل ہوتی رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے چند نہایات مسائل ہیں وہ سب کسی ایک جگہ اپنی پوری پُردی تفصیلات کے ساتھ بیان نہیں کر دیتے گئے ہیں، بلکہ پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں اور مختلف آیات میں موقع محل کے لحاظ سے ان کے خلاف پہلوں پر روشنی ڈالی جائی ہے پس اگر آپ رسالت کے مسئلہ میں قرآن کی تعلیم ٹھیک ٹھیک معلوم کرنا پڑتا ہے میں تو پورے قرآن پر مجموعی نظر ڈالیے۔ ایک دو ایتوں کو چنان کر مسئلہ سے الگ کر لیں تو غلط فہمی میں بدلنا ہو جائیں گے۔

اس فاعدے کے مطابق جب آپ قرآن کا مطلع کریں گے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ قرآن کا معاہدہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر شخص آپ اپنا راستہ لداش کرنے کے لیے آزاد ہے اور ہر راستہ جس کو وہ نیک نیتی کے ساتھ درست سمجھتا ہے وہی تحقیقت میں بھی صحیح ہے قرآن سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت بنی آدم کو زمین پر آتا ہوا اسی وقت اس نے ان کو سیدھا راستہ بتانے کا کام خود اپنے ذمہ لے لیا تھا اور ان سے صاف کہہ دیا تھا کہ تمہارے لیے نجات کی صورت میں ہی ہے کہ میری طرف سے جو ہدایت تمہیں پہنچے اس کی پیروی کرو فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَا كُمْرُكُمْ حِصْنَى هُدُى فَمَنْ تَتَّقَعُ هُدَىيَ فَلَا يَخْرُقُ مُؤْمِنُمْ وَلَا هُمْ يَخْرُقُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أَفَلَمْ يَأْكُلُوا أَصْحَابُ النَّارِ فَمِمْ فِيهَا خَلِدُونَ (البقرة: ۲۹، ۳۰)

پھر اس نے یہ جیسی فرمادیا تھا کہ یہ ہدایت ہر شخص کے پاس فرداً فرداً نہیں جیسی باشے گی بلکہ میں خود تمہیں سے کچھ لوگوں کا انتخاب کروں گا اور ان پر اپنی ہدایات نازل کر دیکھا اور ان کو تمہارے پاس رسول نبی کرہ جوں گا۔ ہر شخص جو میرے رسول کو اور اس کے لائے ہوئے پیغام کو پہنچے دل سے ملنے گا اور یہ ہدایت پہنچے گا، یعنی اَدَمَ إِنَّمَا يَأْتِيَنَا كُمْرُكُمْ وَرُسُلُكُمْ يَعْصُمُونَ عَذَابَكُمْ إِنَّمَا يَنْهَا فَلَا يَخُوفُ عَلَيْهِمْ

وَلَا هُنْ مَحِيطُونَ رَأَيْتَ (۵۷) جو میرے پیغامبروں کو نہ ملنے گا وہ اس کی منزرا پا گے  
إِنْ كُلُّ الْأَكْذَبُ الرُّسُلَ فَقَدْ عَقَابٌ رَصِيدٌ (۱۱) اور حبہ قیامت کے روز اس کو غلب  
ریا جائے کا تو اس سے کہا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے اور انہوں نے  
تم کو خدا کی آیات نہیں سنادی تھیں اور اس دن کے انجام سے آگاہ نہیں کر دیا تھا ہاکم  
يَا إِنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ بِيَدِكُمْ إِلَيْكُمْ رَأْيٌ يَعْلَمُونَ عَلَيْكُمْ رَأْيٌ لِّقَاءُ رَبِّيْدٍ مَكْرُ  
هذا رالنمر (۱۱)

اس کے ساتھ ہی قرآن مجید صاف کہتا ہے کہ جو شخص اللہ کے رسولوں کو نہ مانے اس  
کے لیے اللہ کو مانا ہرگز نافع نہیں ہے:-

يَقِيْنًا جُو لوگ اللہ اکابر اس کے رسولوں سے کفر  
كَرْتَهُنَّ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اکابر کے رسولوں  
کے درمیان فرق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر  
ایمان لائیں گے اور بین کا انکار کریں گے اور  
چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ کل کوئی راہ نہیں  
کریں، وہ لوگ یقیناً کافر ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ يَا أَنْتَهُ وَ  
رَسُولُهُ وَمُرْسَلِيهِ وَمُرْسَلِهِ وَمُرْسَلِهِ وَ  
يَقِيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمُرْسَلِهِ وَ  
يَقِيْنُهُنَّ وَمُرْسَلُهُنَّ وَمُرْسَلُهُنَّ وَمُرْسَلُهُنَّ  
يَقِيْنُهُنَّ وَمُرْسَلُهُنَّ وَمُرْسَلُهُنَّ وَمُرْسَلُهُنَّ  
يَقِيْنُهُنَّ وَمُرْسَلُهُنَّ وَمُرْسَلُهُنَّ وَمُرْسَلُهُنَّ  
يَقِيْنُهُنَّ وَمُرْسَلُهُنَّ وَمُرْسَلُهُنَّ وَمُرْسَلُهُنَّ

رَأَيْتَ (۱۵۰) رائے (۱۵۱)

قرآن کے نزدیک مومن وہی ہے جو اللہ کے ساتھ اس کے رسول پر بھی ایمان لائے  
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا  
مومن دراصل وہی ہیں جو اللہ اکابر اس کے محل  
يَا أَنْتَهُ وَرَسُولِهِ (رجہت: ۱۵۲) پر ایمان لائے۔

اور جو شخص رسول کے ذریعہ سے ہدایت کا راستہ واضح ہو بلکہ کے بعد بھی اس کو

لئے واضح رہے ہے کہ رسولوں کی تکفیر یہی ہے کہ ان کے دعویٰتے رسالت کو اپنے سے انکار کیا جائے۔  
پس انکار خواہ نیک نیتی سے ہو یا بذلیتی سے بہر حال انکار ہے۔ التقدیمی کی صورت میں انکار کی ذمہ داری یا اُو  
درحد جاتی ہے۔ جو شخص مخدعاً است کو صحیح محکم احتیاک کرے وہ مگر اس ہے۔ اور جو صحیح جانتے ہوئے خلطہ کو  
پرچھے وہ مگر اسی کے ساتھ منغض و بھی ہے۔

اختیار کرنے سے انکار کرے وہ جہنم سے بچ نہیں سکتا۔ اس معاملہ میں نیک نیتی اور بد نیتی کا کوئی سوال نہیں ہے۔

اور جو شخص ہدایت کے واضح ہو جائے کے بعد بھی رسول سے جھکڑا کرے اور مومنوں کے راستے پر نہ چلے اس کو ہم اسی طرف پھیر دیں لگے جس کی طرف وہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں جھونک دیں گے اور وہ بہت بُرا ٹھکانہ ہے۔

وَمَنْ يُشَاقِقُ الرَّسُولَ فَمَنْ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدُىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ كُوْلِهِ مَا تَوَلَّ وَنَصَبَ لِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءِتْ مَصِيرًا (النَّاسَ: ۱۱۵)

یہ بات قرآن مجید کی تعلیم کے اصول سے ہے اور قرآن میں آپ کہیں ایسی بات نہیں پاسکتے جو اس کے خلاف ہو۔ آپ نے جن آیات کو سیاق و سیاق سے الگ کر کے پیش فرمایا ہے وہ بظاہر آپ کو اس سے متناقض معلوم ہوتی ہیں لیکن اگر آپ صورۃ آل عمران کو جھٹے رکوع سے لے کر مارضویں رکوع نکل مسلسل پڑھیں تو متناقض کا شاذہ نک نہ رہے گا۔ پچھلے رکوع میں رسول اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ،

يَعْلَمُ حَقًّا تِيزَ رَبِّكَ طَرفَ سَعِيَتْ  
تَوْتِيكَ دَارُوا مِنْ سَعِيَتْ هُوَ جَانِبُهُ  
پَھْرَجَوْكَنْ اسَكَ بَارِسَيْ مِنْ تَجْهِيزَهُ  
كَرَسَ جَبَكَهُ تِيزَ پَاسَ عَلَمَ آچَكَلَهُ تَزَكَهُ  
کَآفَ... پَھْرَجَمَ مِباَلَهُ کَرَسَ -

الْحَقُّ مِنْ دِيَنِكَ فَلَا تَكُونَ  
مِنَ الْمُمُتَرِّيْنَ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ  
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ  
فَقُلْ تَعَالَوْا ... شَرِيكَتْهُ -  
(آل عمران: ۴۰، ۴۱)

اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ اہل کتاب کو ایک سیدھی اور صاف بات یعنی توحید خالص کی طرف دعوت دو اور ان سے کہو کہ اب تک ہم جس کے باسے میں تم جھگڑتے ہو وہ ہو دی یا نصرانی نہ تھا، بلکہ وہ خالص موحد تھا، اور اس کے ساتھ اصلی تعلق وہی لوگ رکھتے ہیں جو اس کا اتباع کرتے ہیں پھر فرمایا جاتا ہے کہ تمام پیغمبروں سے (اور بالتفصیل ان کی امتیوں سے) ہمیشہ یہ عہد دیا جاتا رہا ہے کہ ہر نبی جو

خدا کی طرف سے تہاری کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے آتے، اس پر ایمان لانا اوس کی مدد کرتا۔ اس عہد سے جو لوگ پھر جائیں وہ فاسق ہیں۔ آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے کہ اب راہیم اور مصلیٰ اور رحمتی اور حسینی اور دوسرے نہیں پڑے جو کچھ اتراء ہے اس سب پر ایمان لاؤ جیسی اسلام ہے اور جو شخص اس اسلام کے سوا کسی اور دین کا خواہاں ہو اس کا وہ دین ہرگز مقبول نہ ہو گا اور وہ آخرت میں نقصان انھاتے گا۔ **وَمَنْ يَتَبَيَّنَ عَدُوًا لِّأَسْلَامِ فَإِنَّمَا يَنْهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ** **فَكُنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَيْرِ بُشِّرَ** (آل عمران: ۱۷۶) اگر ایک کتاب بیان کرتے جاتا ہے کہ وکوف امت اہل الکتب نکات خوبیاً لهمہ اہل عمران: ۱۷۶) اگر ایک کتاب بیان کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا ہے میں ہمہ المؤمنون وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاقِهُونَ میں میں سے تھوڑے سے ایمان لائے اور اکثر نافرمان ہیں۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ بیان میاں سے مراد رسول عربی پر ایمان ہے کیونکہ جو لوگ "اہل کتاب" ہیں وہ موسیٰ یا علیہ السلام کو پا دنوں کو اور ان کی لالی ہوتی کتابوں کو مانتے ہیں، اور خدا کے بھی قابل ہیں۔

آخری آیت جو سورۃ حمد سے آپ نے نقل فرمائی ہے، اس میں ان نام لوگوں کو جو پچھلے انبیاء پر ایمان لا پکھے ہیں، وہ چیزوں کی دعوت دی گئی ہے۔ ایک یہ کہ خدا سے ڈریں اور تلقہ، یعنی اختیار کریں، وہ سرے پر کہ خدا کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ پھر فرمایا کہ اگر تم یہ دونوں باتیں اختیار کرو گے تو تم کو خدا کی رحمت کے دو حصے میں گے، یعنی ایک حصہ انبیاء تے سابقین پر ایمان اور آخری کے اجر میں اور دوسری حصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے اجر میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ پچھلے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی دی ہوتی علمیں پڑھیا کہ بھیک عامل ہیں ان کو بھی خدا کی رحمت کا کچھ نہ کچھ حصہ ملے گا۔ اس کی تائید وہی آیات سے بھی ہوتی ہے۔ **مِثْلًا ذَلِيلٍ يَمْتَكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّمَا** **نَصِيبُ أَجْرًا لِمُصْلِحِينَ** راعرف: ۱۷۷) یا **أَهْلَ الْكِتَابِ لَئِنْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَقِيقُوا** **الْتَّوْرَاةَ وَإِنَّمَا تَحْمِلُ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رِتَبَكُمْ** رالمائدہ: ۱۷۷) ایک دوسرے موقع پر بھی تواریخ میا ہے:-

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهَا أُنْزَلَ إِلَيْكَ  
مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْلَىٰ -

کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کتاب تیرے اپر  
اتاری گئی ہے وہ حق ہے، اس شخص کے ماند  
ہو سکتا ہے جو اندھا ہے۔

(المرعد: ۱۹)

اور یہ بھی تو ارشاد ہوا ہے کہ جو لوگ پچھلی کتابوں کا صصح علم رکھتے ہیں وہ جانتے  
ہیں کہ قرآن خدا کی طرف سے آیا ہے اور برحق ہے۔ **وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ أُنْكِتَابَ يَعْلَمُونَ**  
**إِنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ** (الفاطمہ: ۱۱۳)

ہندوؤں مضمونوں کی آیتوں کو ملانے سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ جو  
لوگ جہالت اور نابینائی کے باعث رسول عربی کی صداقت کے قائل نہیں ہیں، مگر ابھی  
سابقین پر ایمان رکھتے ہیں اور صلاح و تقویٰ کی زندگی بسر کرتے ہیں ان کو اللہ کی رحمت کا  
آتنا حصہ ملے گا کہ ان کی مزرا میں تخفیف ہو جاتے گی۔ **فَإِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ**۔

د ترجمان القرآن۔ جمادی الاولی ۱۴۲۹ھ۔ ستمبر ۱۹۰۷ء

---

## ایمان بالرسالت

پچھلے مضمون کو دیکھ کر وہی صاحبِ جن کے استفسار پر وہ مضمون لکھا گیا تھا،  
پھر لکھتے ہیں:-

”ایمان بالرسالت کے متعلق آپ کا عالمانہ تبصرہ پڑھ کر بہت خوشی ہوئی۔

میرے خیال میں ایک دوسرے ایکی حل طلب ہیں جو مختصرًا معرفہ میں ذیل

ہیں:

(۱) آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں خدا کی معرفت اور اس کے لیے  
بندگی کے خلوص کی استعداد موجود ہے ... لیکن اس فطری استعداد کے  
قوت سے فصل میں آنے کے لیے چند شرائط میں اور باقی تامیل یہ معلوم ہو سکتا  
ہے کہ یہ شرائط ہر شخص میں پوری نہیں ہوتیں۔ اس کے بعد ان شرائط کو تفصیل  
سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ فرمودہ اللہ لا یکلیف اللہ  
لَفْسُهُ الْأَوْسَعُ هَا کے مطابق ہر شخص اپنی وسعت علم و فکر تک مختلف ہے جیسا کہ  
شریعہ سوال تک مذکور ہے۔ اگر تربیت، ماحول اور استعداد ذاتی تکمیل شرائط  
میں حاصل ہیں تو اس کی کی ذمہ داری اس منتخب پر کیوں عائد ہو؟ انتساب طریق  
میں اس نے اپنی بیانت کے مطابق تفکر اور تعلق سے کام لیا اور اسی حد تک  
وہ مختلف تھا۔ اس کو مور دی غذاب وال زام کرنا بظاہر تکلیف ملا ایضاً تھا۔  
دیوب، خاب فرماتے ہیں کہ ”قرآن مجید کوئی مسلسل تصنیف نہیں جس میں ترتیب  
کے ساتھ ہر مسئلے کو ایک جگہ مفصل بیان کیا گیا ہو۔ بلکہ یہ مجموعہ ہے ان آیات  
کا جو ۲۳ سال کی طویل مدت میں موقع اور ضرورت کے لحاظ سے وقتاً فرقاً  
نازل ہوتی رہی ہیں۔“ مگر پھر بھی ارشاد ہوتا ہے کہ ”سورہ آل عمران کو پچھلے

رکح سے بارہویں رکوح کم سلسی پڑھا جائے تاکہ تناقض کا شاید بہک نہ ہے۔  
 سوال مجھنے سے پہلے بھی پڑھا تھا اور دوبارہ بھی ان سب آیات کو پڑھ دیں گے  
 فرع نہیں ہوتی۔ اہل کتاب کے جملگوں میں شرک، خیر و کریم کو کچھ کراہیک  
 مستدل روشن کی طرف دعوت دی گئی تھی کہ *تَعَاوُنًا إِلَى كُلِّنِيَةِ سَوَادِيْنِيَةِ*  
*وَنَهِيَّكُمْ*۔ ان کلمات اوس دعوت کا کیا مفہوم اور مقصود تھا؟ نبلاہر تو یہ ہے  
 کہ تم اگر اپنی سچی تعلیم پر عمل کرو گے اور شرک چھوڑ دے گے تو دعوت الی اللہ کے  
 شرک کام میں تم اور ہم بسیار ہوں گے۔ دل نہیں ملتا کہ یہ انعام دینی کی  
 طور پر فرع الوقتی یا رفع الاسم کی یہ کیسے گئے اور کہ فی الحجۃت شرک  
 فی العمل اور دعوت مقصود نہ تھا۔

رج، سوال لکھتے وقت فی اللہ ہن اہل کتاب ہی تھے اور کیا یہ سفر قدری  
 یہے اشتہار اپنی کی گئی تھیں۔ جہاں کہیں اہل کتاب کے اس گردہ کی تعریف  
 کی گئی ہے جو دیانت دار تھے، خدا ترس تھے، ایمن تھے، شب گزار تھے جیسی  
 مفسرین نے اس کی وہی تفسیر کی ہے جس کی طرف آپ گئے ہیں لیکن کہ یہ وہ گردہ  
 ہے جو سماں ہو چکا تھا جیسے کہ عبداللہ بن سلام، عبدالیہ، ناصدی علی ہجران، خیریہ،  
 مگر افسوس کہ اس سے تسلی نہیں ہوتی اور نہ ہی الفاظ قرآن اس کے حامل ہیں۔  
 شَدَّادٌ تَوَآمَتْ أَهْلُ الْكِتَابَ كَمَانَ حَيْرَانَ لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَ  
 أَكْثَرُهُمُ الظَّالِمُونَ (کلہران: ۱۱) کے ہمیں کہا تھا ہیں کہ ان ہیں سے تھوڑے  
 ایمان ہے اور اکثر نافرمان ہیں۔ مومنوں اور فاسقوں دونوں ساتھ ساتھ مدد کر  
 ہیں اور دونوں اسکم فاعل کے صیغہ ہیں۔ ان ہیں سے ایکس کے معنی ماضی کے  
 پیشے اور دوسرے کے حال کے اور پھر الفاظ منہج اور اکثر ہم کے نہیں  
 کو متبعی ذکر نا۔ لستی بخش نہیں گی لائیخی علی المتأمل۔ مگر دوسری آیت و اخن  
 ترین ہے جس میں ایسی تاریل کی گنجائش ہی نہیں اور جس کا ترجمہ جناب نے  
 نہیں فرمایا۔ یعنی *لَيْسُوا مَسَوَّدَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَمْ لَمْ يَأْتِهُ*

بَيْتُكُمْ أَيْتِ اللَّهُ أَنَا جَائِلٌ وَهُمْ فَسِيجُونَ - يُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَنَهَاوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَكَسَارَعُونَ فِي الْحَيَّاتِ رَأَوْلَدَكَ مِنَ الصَّالِحِينَ - وَمَا  
يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَذُنْ يَكْفُرُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا تَعْصَمُونَ يُسْبِكُ  
سب براہینیں، اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی ایسیں راتوں  
کھڑے پڑھتے رہتے ہیں۔ اور سجدے کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور سعید  
آخرت پر نیک کاموں کا حکم کرتے ہیں اور بے کاموں سے منع کرتے ہیں اونکے  
کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور سچی لوگ صالحین میں سے ہیں۔ وہ کسی طرح کی بھی نیکی  
کریں گے اس کی ہرگز تناقضی نہ ہوگی اور متعین کہ اللہ خوب جانتا ہے تاں  
کی تائید قرآن شریعت کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے جن میں فشاری کی تعریف  
کی ہے کہ ان میں دیندار طبقہ ہے اور وہ مخبر نہیں ہیں۔ اگر آیات مذکوہ میں وہی  
لوگ معلوم ہوتے جو جنابے لے رہے ہیں تو فصاحت اور بالاخت تقریب کو مدعا  
رکھتے ہیں سے الفاظ مختلف ہوتے۔

رَدِّ يَا يَاهَا الَّذِيْتَ أَمْنَوْا أَنْقُوْا لَهُ أَمْنَوْا بِمَرْسُولِهِ يُؤْتِكُمْ  
رِكْفَلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِيْهِ (ص: ۳) سچے حق جذب ملتے ہیں کہ اس میں تمام لوگوں کو وجہ  
پچھے اپیاد پر ایمان لاچکے ہیں وہ چیزوں کی دعوت وی گئی ہے۔ یک یہ کہ خدا  
قدیس اور تقوی انتیار کریں دوسرا یہ کہ خدا کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم  
پر ایمان لایں۔ پھر فرمایا گیا کہ اگر تم یہ دلوں باشیں انتیار کر دگے تو تم کو خدا کی دعوت  
سے روختے ہیں گے یعنی یک حصہ زیبادتیں پر ایمان اور تقوی کے اجر  
میں اور دوسرا حصہ ایمان بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اجر میں۔ اس سے معلوم ہوتا  
ہے کہ جو لوگ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ پچھے اپیاد پر ایمان رکھتے ہیں اور ان  
کی دی ہمنی تعلیم پڑھیک تھیک عامل ہیں ان کو جی خدا کی رحمت کا ایک حصہ  
لے گا۔ اس کی تائید دوسری آیات سے بھی ہوتی ہے مثلاً قائلین میسیکون

بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ”مگر ان سب  
آیات کو ملا کر جو تجوہ آپ نے آخر مضمون میں نکالا ہے وہ تعجب انگیز ہے  
یعنی ان کو القدر کی رحمت کا صرف اتنا حصہ ملے گا کہ ان کی سزا میں تخفیف بھوگی۔  
تسلی بھی کیا اور روکھا بھی کھایا۔

کم علمی کی وجہ سے یہ منکر سوجھے ہیں اگر خدا ب دینگر عالم کرام فرید توجہ  
فرما کر ان کو رفع کریں گے تو اشاد اللہ عند الناس مشکرا وہ عند اللہ ما جو ر  
ہوں گے۔

آپ نے جو اعتراضات پیش فرماتے ہیں ان کے جو ایات مختصرًا ذیج ذیل ہیں:  
۱) آپ کا استدلال اگر صحیح مان لیا جائے تو اس سے نہ صرف منکر رسالت کو بربر حقیقی  
تسلیم کرنا لازم ہے بلکہ ہر شخص کے مسلک کو اس کی حد تک صحیح مان لینا لازم آ جائے گا،  
خواہ وہ مشرک ہو یا دہری یا کوئی اور۔ کیونکہ جب ہر شخص اپنی وسعت علم و فکر کی حد تک مختلف  
ہے اور تلاشی حق میں غلطی یا کوتاہی کی ذمہ داری اس پر کچھ نہیں ہے تو یہ طرح وہ موحد ہو در  
الزام مستحق عذاب نہیں ہے جو غور و فکر کے باوجود رسالت میں ”نیک نیتی“ کے ساتھ  
ٹنک رکھتا ہے۔ اسی طرح وہ مشرک بھی کچھ عقوبات کا مستحق نہ ہونا چاہیے جو ”نیک  
نیتی“ کے ساتھ کسی تپھر پا درخت یا جانور کو خدا سمجھتا ہے، اور وہ دہری بھی کسی سزا کا مستوجب  
نہ ہونا چاہیے جو سرے سے خدا ہی کے وجود میں ”نیک نیتی“ کے ساتھ شکوہ رکھتا ہے اس  
یہی کہ یہ سب بھی تو اپنی وسعت علم و فکر تک ہی مختلف ہیں اور ان کے علم و فکر کی رسائی  
بھی تو وہیں تک ہے جہاں تک یہ پہنچے ہیں۔ اس قاعدہ کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو مون  
اور کافر اور مشرک کا امتیاز سراسر لغو فرار پائے گا اور تبلیغ دین کے لیے سرے سے کوئی  
عقلی بیماری باقی نہ رہے گی۔ کیونکہ دین جن باتوں کی طرف بلاتا ہے ان کو اگر کوئی شخص اپنی  
کوتاہی فکر کی بنابر، مگر ”نیک نیتی“ کے ساتھ رد کر دے، تب بھی وہ بربر حق ہی رہے گا اور  
اپنے اس فعل کے لیے کسی الزام یا کسی سزا کا مستحق نہ ہو گا۔

آپ اس قاعدہ کی بناءً ایت لا یکلِفُ اللَّهُ لَغْسًا الْأَوْسُعُمَا پر رکھتے ہیں۔ لیکن  
(بلقرہ ۲۸۴)

میں عرض کرتا ہوں کہ اگر اس کا وہی مفہوم ہے جو آپ نے سمجھا ہے تو یہ آیت قرآن مجید کی پوری تعلیم کے خلاف ہے، اور اس صورت میں یہ تسلیم کرنا لازم آتا ہے کہ قرآن نے دو بالکل متفاہض اصول پیش کیے ہیں۔ ایک طرف تو وہ انسان کو خدا اور اس کے ملائکہ کو نہ کتاب  
اور رسول اور آخرت پر ایمان لانے کی وحیت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم ان چیزوں کو نہ مانو گے تو کافر ہو گے اور تم کو آخرت میں سزا دی جائے گی۔ دوسری طرف ہی قرآن رآپ کے زعم کے مطابق، کہتا ہے کہ تم صرف اپنی وسعت علم و فکر تک ملختے ہو، اگر تھا یہ فکر کی رسائی ان پانچوں ایمانیات، یا ان میں سے کسی ایک تک نہ ہو، اور اس نارسائی عکس کی بنا پر تم ایک کو یا سب کو مانند سے الگا بھی کر دو، اور ان کے خلاف کوئی دوسرا عقیدہ رکھو، تب بھی تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور تم کسی الزام یا منزه کے مستحق نہیں ہو۔ یقین ملنیے کہ اگر قرآن مجید کی تعلیم میں خیثیتاً انصاریخ ناقص موجود ہوتا تو کوئی حساب عقل انسان اس کو خدا کی کتاب نہ مانتا۔

اس اشکال کا وہی حل ہے جو میں اپنے سابق مضمون میں بیان کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ تکلیف ہی نہیں دی ہے کہ وہ اپنی محدود قدرتوں سے اس کی معرفت تک پہنچے اور اس کی بندگی کا صحیح طریقہ دریافت کرنے کی کوشش کرے جس خدمتے انسان کو بنیا یا ہے وہ جانتا ہے کہ انسان کی وسعت علم و فکر کیا تک ہے اس کو معلوم ہے کہ عام انسانوں کی قوت فکر اور صلاحیت اکتساب علم اتنی ہے ہی نہیں کہ وہ اس بلند مقام تک پہنچ سکیں جہاں اس جیسی مادیتے سرحد ادراک ہستی کی معرفت حاصل ہوئی ہے۔ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ عام انسان اپنی پیدائشی کمزوریوں اور ماحول کے اثرات سے اس قدر پاک اور منترہ نہیں ہو سکتے کہ محض اپنے اجتہاد سے صرف خداوند عالم کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر دیں۔ اس لیے اس نے ان کی وسعت و طاقت سے زیادہ ان پر تکلیف کا بارہ والا ہی نہیں۔ اس نے تو خود انسانوں ہی میں سے بعض خاص اشخاص کو منتخب کر کے انہیں راہ راست کا علم دیا اور ان کو اس بات پر مأمور کیا کہ اپنے ابتدائی نواع کو اس کی نشانیاں کھوں کھوں کر بتائیں اور ان کی

عقل و فہم کے مطابقی انہیں تعلیم دیں۔ یا ابھی ادمر اماں یا بتینگر رسول مسٹر  
 یقہنون عَذَّبْکُمْ ایتی فَمَنِ اتَّقَیٰ فَأَهْلَكَهُ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُنْ  
 بَخْرَهُوْنَ دَلَالِ اعْرَافٍ: ۲۵) میں تخلیقیت جو کچھ بھی دی گئی ہے وہ اس امری ہے کہ  
 انسان خدا کے بھیجے ہوتے رسولوں کی سیرت، اور ان کی تعلیم پر غور کرے، اور جب بھیجے  
 کہ وہ جس لاستے کی طرف بلاد ہے میں اس میں ان کی کلی ذاتی خصوصیتیں نہ ہو  
 جھوٹ بولنے والے اور وحکوم کہ وہیں والے لوگ ہیں، نہ کسی ایسی بات کی طرف  
 بلا رہے ہیں جو تقویتے اور سلاح کے خلاف ہو، تو ان پر ایسا ان  
 لاستے اور ان کی پیشہ ویہ کرے۔ اب تخلیقیت کو مالا بیلاق نہیں  
 کہا جا سکتا۔ اگر پداشت کو انسان کے علم و عقل سے اتنا قریب کر دینے  
 کے بعد بھی کوئی شخص نیک یا بد نیتی کے ساتھ اس کو قبول  
 نہیں کرتا اور اس کے خلاف چلتا ہے تو اس کو اپنی اس کو تابی کا انعام ضرور  
 دیکھتا پڑے گا۔

آپ پھر ملپٹ کر کہیں مگر کہ اگر کوئی شخص اپنی وسعت علم و فکر کی حد تک رسولوں  
 کی سیرت اور ان کی تعلیم پر غور کرنے کے باوجود ان کی رسالت پر مطمئن نہ ہو سکے تو اس  
 کو تامیث فہم و نارسانی فکر کی اس پر کوئی ذمہ داری نہیں اور اس کو محرر و الزم و متحن غذاب  
 نہ ہونا چاہیے۔ میں عرض کروں گا کہ جب کوئی شے انسان محیثیت انسان کی حد عقل و فہم سے  
 باہر ہوا وہ کوئی انسان اس تک نہ پہنچے تو البتہ وہ مخدود ہے کیونکہ اس شے کی یہ شان  
 ہی نہیں ہے کہ انسان اس تک پہنچ سکے لیکن اگر کوئی چیز اس حد کے اندر ہو، اور اس کی شان  
 یہ ہو کہ انسان محیثیت انسان ہونے کے اپنی بشری قوتوں کے ساتھ اس حد تک پہنچ سکتا ہے  
 اور پھر کوئی شخص اس تک نہ پہنچے تو یہ دو حال سے خالی نہ ہو گا، یا تو اس نہ سائی میں ان کی  
 ہوا سے نفس کا دخل ہو گا، یا یہ نارسانی خالصہ اس کی کوئی ہم پہنچی ہو گی۔ پہلی صورت  
 میں تو اس کے مجرم ہونے میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا۔ بہری دوسرا صورت، تو آپ کو خواہ اس  
 کے عقل انسان پر کتنا بھی رحم آتے، بہر حال اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی کو تابی

بے جس توجہ پر بخواہے وہ حق نہیں ہے اور یہ کسی طرح بھی قرینِ انصاف نہیں کہ جو حق تک پہنچا ہے وہ انجام کار میں ان لوگوں کے برابر ہو جو حق تک پہنچ گئے ہیں۔

اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ ہر شخص جو کچھ سمجھے اور سمجھے کا اپنی دعوتِ علم و فکر کی حد تک ہی سوچنے اور سمجھنے لگا۔ اس حد سے آگے جانا اس کے لیے کی بات نہیں ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آیا حق ہو رصداقت ہر شخص کی الفرادی سمجھدیو جو جو کے مطابقی بدلتے والی چیز ہے، یا ایک متعین شے ہے خواہ کوئی شخص اسے مجھے یاد نہ سمجھے؟ اگر آپ پہلی بات کے قائل ہیں تو گویا آپ یہ کہتے ہیں کہ مثلاً ۳ اور ۵ کا مجموعہ کوئی مخصوص عدد نہیں ہے، بلکہ ہر شخص اپنی حد تک غور و فکر کرنے کے بعد "نیک نیتی" کے ساتھ جس عدد پر بھی پہنچ جائے وہی صحیح مجموعہ ہے خواہ وہ ۷ ہو یا ۱۸ یا ۸۰، مگر یہ ایسی غیر معقول بات ہے کہ مجھے امید نہیں کہ آپ اس کے قائل ہوں۔ لہذا آپ کو لاحالہ دوسرا شق مانی ٹوپے کی، یعنی یہ کہ ۳ اور ۵ کا مجموعہ بہر حال ۸ ہے خواہ کسی کی حد علم و فکر وہاں تک پہنچنے یا نہ پہنچنے اب یہ ظاہر ہے کہ جو شخص ۳ اور ۵ کے مجموعہ کو ۷ یا ۱۸ یا کچھ اور کہتا ہے خواہ کو تاہم ہی کی بنابر "نیک نیتی" کے ساتھ ایسا کہے یا جان بوججد کر بدنیتی کے ساتھ، دونوں صورتوں میں اس کا حساب غلط ہو گا، اس کی فرد حساب اس غلطی کی وجہ سے آخر تک غلط ہو گی، اور اس کی تمام محنت جو اس نے فرد تیار کرنے میں صرف کی ہے ضائع ہو جائے گی۔

"نیک نیتی" اور "بد نیتی" کا کتنی دخل حساب کی صحت میں محدث میں نہیں ہے، نہ یہ ہو سکتا ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ غلط حساب لگانے والے کو اس شخص کے برابر کر دیا جائے جس نے صحیح حساب لگایا ہے۔ البتہ اتنا فرد ہو گا کہ نیک نیت احمد کو اتنی مزرا نہ دی جائے گی جتنی بد نیت شریر کو دی جائے گی۔

(۴) قرآن مجید کی ترتیب کے بارے میں جو کچھ عرض کیا گیا تھا اس سے یہ کہنا مقصود نہ تھا کہ آیات قرآنی میں کوئی ربط نہیں ہے، بلکہ اس بات کی طرف اشارہ مقصود تھا کہ قرآن مجید میں ایک ایک مسئلہ پر تسلیم کے ساتھ یہ جا بجٹ نہیں کی گئی ہے، بلکہ جہاں جیسا موقع پیش آیا ہے مسائل کے پہلو میں سے ایک پہلو یا چند پہلوں کو بیان کر

ویاگیا ہے، اس یہے قرآن مجید کے مطابع رکنے والے کو لازم ہے کہ جب وہ کسی مسئلہ پر کرنی راستے قائم کرنا چاہے تو عمومی طور پر قرآن کی پیدی تعلیم پیش نظر رکھے۔ وہ اگر وہ محض کسی ایک آیت یا چند آیات پر حصر کرے گا اور دوسری آیات کو جواہر مسئلہ سے تعلق رکھتی ہیں نظر انداز کر دے گا تو صحیح راستے قائم نہ کر سکے گا۔

(۴۲) تعجب ہے کہ آپ نے سوہنہ آل عمران کو چھٹے رکوع سے سے کر بارھویں رکوع تک بارہا پڑھا اور پھر بھی مشکل سفع نہ ہوتی۔ حالانکہ چھٹے رکوع کے آغاز ہی میں آپ دیکھ رکھتے تھے کہ جو لوگ حضرت ابراہیم اور عیقوب اور موسیٰ اور دوسرے زبانیاد بنی اسرائیل علیہم السلام پر ایمان رکھتے تھے ان کو اس بنا پر دنیا اور آخرت میں عذاب شدید کی دھمکی دی گئی ہے کہ وہ حضرت علیینی پر ایمان نہ لائے تھے۔ غریب یجھے کو یہ لوگ مطلع اور ساتھ کے منکر نہ تھے۔ صرف ایک رسول کا دعویٰ تھے رسالتِ نُن کر انہوں نے اپنی وسعتِ علم و فکر تک غور کیا اور جب ان کا دل اس پر نہ لمحکا تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ مگر اس پر **لَا يَكْلُفُ اللَّهُ كُفُسًا إِلَّا دُسُّحَمًا** (الخطاب محو پیغمبر نے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چاری نہ کیا بلکہ فرمایا کہ **قَاتَعَهُمْ عَذَابٌ مُّعَذَّبُونَ** ایضاً شدید ہے اف الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ دالِّ عمران: ۷۵) نہ مرتباً مثالم پر بلکہ قرآن مجید میں کسی دوسری جگہ بھی کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اس عذاب کی دعید سے وہ لوگ مستثنی ہیں جو اگر پھر حضرت علیینی کی رسالت میں بک نیتی کے ساتھ شرک رکھتے ہیں مگر شرک سے محنت بہ اور تو حید و تقویٰ کے طریق پر قائم ہیں۔

(۴۳) الجهنم کی ٹبری وجہ وہ آیت ہے جس میں اپنی کتاب کو ایک کلمہ سوارکی طرف بلا یاگیا ہے، اور اس میں رسالتِ محمدی پر ایمان لانے کا ذکر نہیں ہے قبل اس کے کہ آیت پر بحث کی جاتے، آیت کے اصل الفاظ نئیجے:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِنَّ كَلِمَتَنِي سَوَاءٌ بَعْتَنَا وَ سَبَّنَا أَلَا نَعِيدُ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ	أَسْأَلْ مُحَمَّدًا كُبُرَةَ الْأَرْضِ كُلَّهُ كُلَّهُ مُحَمَّدٌ سَوَاءٌ بَعْتَنَا وَ سَبَّنَا يَسَارٌ يَسَارٌ وَ يَمِينٌ يَمِينٌ
--	---

شَيْئًا وَلَا يَتَحَذَّرُ بَعْضًا بَعْضًا آرْبَابًا  
 مِنْ دُوْنِ دُوْنِ اللَّهِ فَإِنْ تَوْلَوْا فَمُولُوا  
 اسْتَهْدِفُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔

کسی کی عبادت نہ کریں اور ہم اس کے ساتھ  
 کسی کو شرکیں نہ پھیرائیں اور ہم میں سے کوئی  
 کسی کو خدا کے سوا اپنارب نہ بنالے پھر اگر وہ  
 اس دعوت سے بعد گردانی کریں تو کہد و کہ گواہ  
 رہو ہم مسلم ہیں۔

دآل عمران: ۴۲)

اس آیت میں کوئی سالغظہ ہے جس سے آپ نے یہ معنی نکال لئے کہ اس کلام سے مقصد  
 یہود و نصاریٰ کو دعوت الٰی اللہ کے کام میں مسلمانوں کے ساتھ شرکتِ عمل کی دعوت دینا  
 تھا؟ اور یہ کہاں کہا گیا ہے کہ اگر تم اپنی سچی تعلیم پر عمل کر دے گے اور شرک کو جھپوڑ دو گے تو  
 دعوت الٰی اللہ کے مشترک کام میں ہم اور تم ملیساں ہونگے؟ اور اس معنی کی طرف کوئی سال  
 اشارہ ہے کہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لانے والے ایمان لانے والوں  
 کی طرح حق پر ہیں اور ان کے برابر درجہ رکھتے ہیں؟

اصل بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب (یہود و  
 نصاریٰ) کے سامنے اپنا دعوائے رسالت پیش کیا اور وہ آپ سے جھگڑا کرنے لگے جیسا  
 کہ آیت مبارکہ میں اس آیت سے اد پر ہی بیان کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بنی کو  
 حکم دیا کہ تم ان کو اس بات کی طرف دعوت دو جو تمہارے اور ان کے درمیان مشترک ہے  
 یعنی یہ کہ:

اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔

اللہ کے ساتھ کسی کو شرکیں نہ کرو۔

اللہ کے سوا کسی کو اپنارب اور اپنا اللہ اور حقیقی فرمانرو اور حاکم نہ بناؤ۔

یہ تینیوں باتیں وہ تھیں جو موسیٰ اور علیہ السلام کی اصل تعلیمات میں موجود  
 تھیں، مگر یہود و نصاریٰ ان کو جھپوڑ لیجھے تھے۔ نصاریٰ نے حضرت علیٰ اور مریم علیہما  
 السلام کو معبود بنالیا تھا۔ یہودی اور نصرانی دو توں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شرکیں  
 کرنے لگے تھے قائلتُ إِلَيْهِ وَدُعْنَرَبِنُ اللَّهِ وَقَاتَلَتِ النَّصَارَىٰ مُسَيْبَحُهُ أَنْ

اللَّهُ رَأَى تَوْبَةَ ۝۳۰) یہود و نصاری دنوں نے اپنے علماء و مشائخ اور زمرے میں عہدہ داروں کو خدا بنا رکھا تھا۔ اِتَّخَذُوا اَحْبَادَهُمْ وَرَجُلَيْهَا نَهْمٌ اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اَهْلِهِ (التوبہ: ۳۰) چونکہ یہود و نصاری کی گرامی کا آغاز اسی سبب سے ہوا تھا کہ انہوں نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کی بنیادی تعلیم کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے حکم ہوا کہ پہلے ان کو اس چیز کی طرف بلا اور جوان کے اپنے تسلیم کردہ مذہب کی تعلیم بھی ہے اور تمہارے دین کی بنیاد بھی۔ اس دعوت سے دو فائدے مقصود تھے۔ ایک یہ کہ اہل کتاب میں سے جو آنحضرت پسند اور سلیم الطبع ہو گا کہ اپنے مذہب کے صدیوں کے متوارث عقائد باطلہ کو چھوڑ دینے پر آمادہ ہو جاتے گا، اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت تسلیم کر لینے میں کوئی مشکل حائل نہ رہے گی۔ دوسرے یہ کہ اس کلذہ سو ایک دعوت سے یہود اور نصاری دنوں کو معلوم ہو جاتے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی چیز کی طرف بلانے والے ہیں جس کی طرف عیسیٰ اور موسیٰ اور دوسرے بنیام علیہم السلام بلاتے تھے۔ پھر ان کی تصدیق کرنے والے کے لیے ان کی تکذیب کرنے کی کوئی معقول وجہ ہے؟ یہ اس آیت کا بھروسہ اور واضح مفہوم ہے۔ اس سے یہ بات کہاں لکھتی ہے کہ اہل کتاب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطابق نہ تھا، اور اس سے یہ بات کیسے نکالی جاسکتی ہے کہ اگر اہل کتاب صرف "اپنی سچی تعلیم" پر عمل کریں اور شرک چھوڑ دیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے یا آپ کی رسالت میں شک رکھنے کے باوجود ہدایت یا فتنہ اور مستحق نجات ہوں گے؟ کیا یہ آیت اس آیت کو منسوخ کرتی ہے جس میں تمام نوع انسانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے؟ قل يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا... فَإِمْنُوا بِاللَّهِ وَرَبِّكُمْ إِلَهُ الْعَزِيزِ... كَعَذَّلَكُمْ نَهْتَدِّ دُونَ دَاعِرَاتٍ (۱۵۸) اور کیا یہ آیت اس آیت کی بھی تاریخ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو اس نبی کی نبوت اور اس کے لائے ہوئے پیغام کو نہ لئے گا وہ خسروں میں رہے گا؛ وَمَنْ يَكُفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (المیراث: ۱۱۱) کیا قرآن میں کوئی مثال ایسی ملتی ہے کہ کسی قوم کے پاس رسول بھیجا جائے اور وہ اس کو نہ مانے اور

اور بھر جبی ہدایت یا فقرہ اور مسٹھی نجات ہی رہے؟ اگر خدا کی طرف سے آتے ہوتے رسول کو ماننا اور نہ ماننا دونوں لیکیاں ہوں اور نہ ماننے کی صورت میں بھی اسی طرح نجات نصیب ہو سکے جس طرح ماننے کی صورت میں ہوتی ہے، تو پیغمبروں کے نصیحتے سے ٹرھ کر لغو اور بیٹھ فعل اور کیا ہو گا؟ بظاہر ایسا خیال کرتے ہیں ٹرھی رواداری نظر آتی ہے۔ مگر حقیقت میں خود کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی طرف اس بات کو غسوب کرنا خدا کو معاف اللہ نہ دان ثابت کرنا ہے۔

(۵) ضمن جو کے ماتحت آپؐ کو کچھ فرمایا ہے اس کے جواب میں وہ بات کافی ہے جو میں ایمی عرض کر چکا ہوں۔ مگر جن دو آیتوں کی طرف آپؐ نے اشارہ فرمایا ہے ان کی فرمائش رعیت ضروری ہے۔ وَلَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْكِتَابَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَلَا إِنْزَالَ لَهُمْ میں امن سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس آیت میں جن کا ذکر اہل کتاب کے لفظ سے کیا گیا ہے ان کا اہل کتاب ہونا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ پر اپنی کتاب پر، اپنے رسول یا رسولوں پر، ملاجکہ پر اور یہم آخر پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب آپؐ ہی فرماتے ہے کہ اور کس پر ایمان لانے کی کسر باقی رہ گئی ہے؟ اسی طرح إِذْ هُنَّ مُؤْمِنُونَ میں انہی اہل کتاب میں سے بعض کو جب مومن کہا گیا ہے تو اس کا مفہوم بھی بخرا اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ مومنین وہ اہل کتاب ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے؟ اور معلوم ہے کہ وہ چند ہی تھے۔ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائتے اور انہی کو ”فامتن“ کہا گیا ہے میں نے ترجمہ میں ماضی اور حال کا فرق مفہوم واضح کرنے کے لیے کر دیا تھا۔ ورنہ اگر آیت کا ترجیح اس طرح کیا جائے کہ ”ان میں سے بعض مومن ہیں اور اکثر فامتن“ تو اس سے بھی مفہوم نہیں پڑتا۔

پہلی دوسری آیت، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب میں بھی مدارج کا فرق ہے۔ ان میں سے جو گرفہ راتوں کو عبادت کرتا اور کتاب پڑھتا ہے اور خدا اور یہم آخر پر ایمان رکھتا ہے، اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی بسرا کرتا ہے، اور نہ صرف خود نیکو کا کرے بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیتا اور بدی سے روکتا ہے، وہ اس گروہ سے تو پہر حال بہروز

یعنی تردد رجیمیں ہے جو آیاتِ الہی کا منکر اور حق سے تجاوز کرنے والہ بوجگار و نافرمان ہے  
غایہ ہے کہ اگر ان دونوں گروہوں کو بھیان کیجا جائے اور ان کا انجام ایک ہی ساہنہ کی  
عدل کے خلاف ہوگا۔ ان بیکاروں کے مقابلہ میں ان نیکوں کا رسول کی قدر تعین ہوئی چاہیے  
اور سہیکی بھی۔ مگر یہ پہلے ہی کہہ دیا کہ ان متنقی اور نیک ایں کتاب کے حق میں بھی بہتر ہی تھا  
کہ وہ نبی اُمی پر ایمان لے آتے دل کا من آہل ایکتاب لکھاں خداوند پر کیوں نکل خدا نے  
جس نبی کو بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اس کی بات مانی جائے روغا اُرسننا من  
رَسُولُ إِلَيْكُمْ أَطَاعَ يَادُنِ اللَّهِ، جُنُونٌ خُذلَكَرِ رَسُولُكَرِ بَاتُ نَهِيْسُ مَا نَأَوْهُ وَإِلَّا صَلَ خَلَكَ  
بَاتُ نَهِيْسُ مَا نَأَوْهُ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اسی کا نام «فتنہ» ہے رضنم  
الْمُؤْمِنُونَ وَالْكُفَّارُ هُمُ الْغَايَةُ سُقُونَ، اور فتنہ کرنے والے کو دارالناسین ضرور کیا  
جائے گا۔

(۴) آیت یوْنِکُمْ كَفَلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ کی تفسیر میں جو کچھ میں نے عرض کیا ہے وہ  
کلمہ شکست کے ساتھ ہے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ پہنچا کر اور نیک ایں کتاب کو  
اللہ کی رحمت میں سے کتنا حصہ ملے گا اور ان کے اعمال کی قدر کس صورت میں ہوگی؟ اس کا اللہ  
ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ نے اپنی کتاب میں جب اس کی کوئی تصریح نہیں کی ہے تو مجھے اور  
کسی کو بھی اپنی راستے سے اس کی تعین کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں یقین کے ساتھ جو کچھ کہہ سکتا ہو  
وہ بس اسی قدر ہے کہ نہ تو وہ اس اوفی درجہ میں رکھے جائیں گے جو بدکار کافروں کے لیے ہے  
اور نہ ان کامل الائیمان لوگوں کے بہتر تباہ کر دیتے جائیں گے جو تمام رسولوں کے ساتھ موصی  
الْعَدْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پر اور تمام کتابوں کے ساتھ قرآن مجید پر ایمان لائے ہیں لیکے  
ترجمان القرآن۔ شعبان شاہزادہ نوبر سکندر

لہ اس ضمن کی اشاعت کے بعد ایک مرتبہ تک نظر مانی کا آفاق نہ ہوا تھا اب جو اس مقام  
پر لگا ہ پڑی تو وہ حدیثیں یاد آگئیں جو آیت زیرِ حیث کی شیک شیک تفسیر کرتی ہیں۔ ایک یہ یہ کہ:  
وَالَّذِي نَفَسَ اللَّهُ مُبِيدٌ لَّا يُكَبِّرُ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی  
رباتی صفائی پر

(تفصیل حاشیہ صفحہ سابق)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
نَصَارَىٰ نَبِيُّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَكُرْبَلَاءُ مُؤْمِنُوْنَ  
أَرْسَلْتُ فِي الْأَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ  
النَّارِ۔

جَانَ هے کہ اس وقت کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے  
خواہ وہ بیوی ہو یا عیسائی، جو میری رسالت کی خبر  
سے اور اس پیغام کو جو میں لایا ہوں سننے  
اور پھر دونوں میں شامل نہ ہو۔

بُدَّاْهِ مُسْلِمٌ،

دوسری یہ کہ:

ثَلَاثَةُ لِهُمْ أَجْعَانٌ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ  
الْكِتَابِ أَمْنٌ بِزِيَّهٖ قَاتِلٌ مُّحْمَدٌ.. إِنَّ  
إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُوسَى

تین لوگیں جن کو دوسرے اجر ملنے کا، ایک وہ شخص جو  
ہل کتاب میں سے تھا پہلے پانے نہیں کروتا تھا جیسا

(بخاری مسلم)

اب محمد پر بھی ایمان لے آیا۔۔۔

بننا ہر تو یہ عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ شخص پہلے نبی کو مانتا ہے اور پھر بعد والے نبی کو بھی مانتے  
لکھا سے تو دوسرے اجر ملتے، مگر جس نے بعد والے نبی کو نادہ پہلے نبی کو مانتے کے اجر سے بھی محروم ہو جاتے۔  
سطحی نظر میں سیدھا صاحب توبیٰ نظر آتا ہے کہ اگر دونوں بیویوں کو مانتے کے دو اجر میں تو ایک کے مانند پر  
ایک اجر ہونا چاہیے مگر یہ صرف یا صرف کام فالطہ ہے جو خود سے سے تامل سے دوسرے ہو جاتا ہے فرض کیجئے  
کہ ایک شخص ہے جو حکومت کے مقرر کیے ہوئے پہلے گورنر کے تحت عمل خدمات بجا لاتا تاہم پھر حکومت  
نے اس کی وجہہ دوسرا گورنر بھیجا تو وہ اس کی باتحتی بھی اسی حُسن خدمت کے ساتھ کرنا کہا۔ حکومت کہتی ہے  
کہ یہ اس کی بھی خدمت کا صدقہ بھی دینگے اور بعد کی خدمات کا بھی اپ کیا حکومت کے اس بیان اپ یہ  
تیجہ نہ کلانے میں حق بجا نہ ہو گے کہ جس شخص نہ پہلے گورنر کو تو مانتا اور اس کی خوبی طاعت کی مگر  
دوسرے گورنر کو اس نے تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا اسے حکومت ان خدمات کا اجر تو مزدوجی دیگی  
جو اس نے پہلے گورنر کے ماحتہ انجام دی تھیں؟ اس سوال کا جو کچھ بھی آپ جواب میں گے وہی اس  
مسئلے کا جواب بھی ہے کہ دونوں بغیر و بن کے مانتے والے کا اجر دوسرے کیوں ہے اور بعد میں آنے  
والے بغیر کو انکار کر کے جو شخص پہلے بغیر کی کے مانتے والے ساتھ وابستہ رہتے وہ کس نیا پر سر سے کسی  
اجر کا مستحق ہی نہیں رہتا۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ اگر وہ بدکاریاں اور خلکہ و ستم نہیں کرتا تو اس کا خشان  
لگوں کا سامنہ ہو گا جو ظالم اور بدکار ہیں۔

# قرآن پر پہب سے بُرا اہمیت

رَأَنَ الْمُذَيْنَ أَمْنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِرِينَ مَنْ أَهْمَنَ  
بِأَدْلِكَ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ  
وَلَا هُمْ حَيْزُونُونَ - (البقرة: ۹۲)

یوں تو قرآن مجید کی آیات میں معنوی تحریف کرنے کی ہر سانسی میں کوئی نہیں کی گئی ہیں، اور ہر دوسری میں کچھ نظر لوگوں کا یہی شیوه رہا ہے کہ کتابِ الہی کے واضح ارشادات کو توڑ مرد کر اپنے نفس کی خواہشات یا اپنے دوستوں کے رجحانات و مطالبات کے مطابق ڈھانلتے رہیں لیکن زمانہ حال میں جو معنوی تحریف اکبت مندرجہ عنوان میں کی گئی ہے، اس سے بڑھ کر مگر اس کو تحریف شاید ہی کبھی کی گئی ہو۔ دوسری تحریفات تو زیادہ تر احکام کی قطع و بردید پر مشتمل ہیں، یا تعلیمات اسلامی کے اجزاء میں سے کسی جزو پر ضرب لگاتی ہیں، مگر یہ تحریف سر سے سے اس بیوادی کو اکھیر دھینکتی ہے جسی پر قرآن مجید تمام عالم کو ایک صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتا ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر اس کی زد اس قاعدہ کلییہ پر براہ راست پڑتی ہے جو نورِ انسانی کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اور جس کے تحت ابتدائے آفرینش سے بعثتِ محمدی صلحِ حکم تشریل کتب اور احوالِ رسول کا اسلسلہ جاری رہا ہے حقیقت میں اس تحریفت نے روحِ صنایعت کی وہ خدمت انجمان دی ہے جس سے ائمۃ کفر و حنلال بھی عاجز رہ گئے تھے یہ ایک طرف تو غیر مسلموں کو قرآن کی دعوتِ حق قبول نہ کرنے کے لیے خود قرآن ہی سے دلیل بھی پہنچاتی ہے، دوسری طرف مسلمانوں کی جماعت میں جو منافقین اسلام کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے چین ہیں ان کو پر کفر و اسلام کا امتیاز الحادیینے کی اجازت خود اسلام سی کی زبانے دلواتی ہے، اور تیسرا طرف جو اچھے خاصے صاحبِ ایمان لوگ خدا کی کتاب اور

اس کے رسول کی پیروی پر قائم ہیں، ان کے ایمان کو بھی متزلزل کر دیتی ہے، حتیٰ کہ وہ بچارے اس شک میں پڑ جاتے ہیں کہ جب قرآن اور رسالتِ محمدی سے انکار کر کے بھی انسان نجات پا سکتا ہے، اور جب نجات کے لیے صرے سے کتاب اور رسالت پر ایمان لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر اسلام کی پابندی محض ہے معنی ہے، اور ہمارا مسلمان ہونا یا مہندو، یہ سی، پارسی، یہودی وغیرہ ہونا یکساں ہے غرض یہ ایک شاہ حرب (Master Stroke) ہے جو ہر طرف سے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی، اسلام کو نشانہ بناتی ہے۔ اور دینی چاہیے اس ذہانت کی جس نے کتاب بہایت سے ضلالت کا یہ میتھیاز کالا! — شاید قرآن پر اس سے ٹراہتنا کچھی نہیں لگایا گی۔

مجھے بکثرت محسوسوں میں اس تحریف کے کوششے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ یہی نے دیکھا کہ جدید تعلیم یافتہ حضرات بُری طرح اس کے شکار ہو رہے ہیں۔ ناظرین "ترجمان القرآن" میں سے بھی متعدد اصحاب نے مجھے لکھا کہ اس آیت کی "جدید تفسیر" سے سخت غلط فہمیاں ہیل رہی ہیں لعین غیر مسلم شہیر کی تحریفیں اور تقریروں سے بھی اندازہ ہوا کہ اس "تفسیر نو" سے کافی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس فتنے کو دیکھو کہ یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کا صحیح مفہوم قرآن مجید سے منعین کیا جاتے، اور جو معنی اس کو پہنچتے گئے ہیں ان کی تردید خود قرآن ہی سے کروی جاتے۔ کیونکہ جب فاعل خود اپنے قول کی تشریح کر دے تو کسی شخص کو اپنے طور پر اس کے قول کو کچھ دوسرے معنی پہنانے کا حق ہی نہیں رہتا۔

سب سے پہلے آیت کے اصل الفاظ ملاحظہ کر لیجئے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ  
هَادُوا وَالْمُنْكَرِيَ وَالصَّابِرِيُّونَ مَنْ  
آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ  
صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ  
وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

بے شک جو لوگ ایمان لاتے ریعنی مسلمان، اور جو بُرود ہوتے اور نصاریٰ اور صابیٰ، ان میں سے جو کوئی بھی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لا یا اور جس نے بھی نیک عمل کیے ان سب کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں اجر ہے اور ان کے

(البقرة: ۷۲)

یہے خوف اور رنج کی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی مضمون کا اعادہ سودہ مائدہ کے دسویں درجہ میں بھی محتویات سے تغیر لفظی کے ساتھ کیا گیا ہے، دونوں آیتوں کا مفہوم متعین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان کا تجزیہ کر کے ایک ایک لفظ کا مفہوم متعین کیا جائے اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ جو بات ان آیتوں میں مختصر ایمان کی گئی ہے، اس کی تفصیل خود قرآن میں دوسرے مقامات پر کس طرح کی گئی ہے۔

**إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا -** اس کا الفظی ترجمہ صرف اس قدر ہے کہ یہ شک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں مگر اس مبتدا کی خبر من امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَجْهِي اللَّهِ بِإِيمَانٍ لَا يَا اَوْلَى يَوْمٍ آخِرٍ پر میں دوبارہ ایمان لاتے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے یہ حال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان لاتے والے کا ایمان لانا کیا معنی رکھتا ہے؟ آئین سے اگر وہ لوگ مراد ہوں جو خدا اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو ان کے لیے دوبارہ من امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ کہنا ضروری ہو گا۔ ہذا یہ ماننا لازم آتا ہے کہ آئین امَنُوا سے مراد شخص کہ وہ اپنی اسلام ہے، اور اس کے مقابلہ میں من امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ نے وہ شخص مراد ہے جو درحقیقت ایمان کامل کا حامل ہو، بلکہ اس کے کروہ کسی گروہ سے انساب رکھتا ہے۔

نزول قرآن کے عہد میں گردہ بندی کے جو تحریکات و مانعوں پر مسلط تھے وہی آج بھی مسلط ہیں اور ان کو پیش نظر لکھ کر یہ سمجھتا ہفت آسان ہے کہ قرآن مجید یہاں دراصل فرقہ کر رہا ہے ان لوگوں کے درمیان جو اپنی ایمان کے گروہ سے انساب رکھتے ہوں اور ان کے درمیان جو فی الواقع حقیقت ایمان کے حامل ہوں۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا فرقہ بندی کے نقطہ نظر سے ہی اتنا حصہ میں تینز کرتی ہے۔ ایک شخص کو مومن یا مسلم کہا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ جیعتوں کی تقسیم کے اعتبار سے وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہے۔ اس سے بحث نہیں کہ وہ درحقیقت بھی "مسلم" ہے یا نہیں اسی طرح ایک عیسائی، ایک یہودی، ایک بوذریجی اس کے ظاہری متسابب کا لحاظ کرتے

ہوتے عیسائی، یہودی وغیرہ کہا جاتا ہے قطع نظر اس سے کہ حقیقت میں وہ اپنے گھوکے ایمانیات پر اعتقاد رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ اسی قسم کی صورت حال نزول قرآن کے عہد میں بھی حقیقی کہ حقیقت سے قطع نظر کر کے نور انسانی کو ظاہر کے اعتبار سے گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ لوگ اس لحاظ سے اشخاص اور جماعتوں کے درمیان امتیاز کرتے تھے کہ فلاں شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا آدمی ہے، اور فلاں یہودیوں کے گروہ سے ہے، اور فلاں نصرانیوں کے فرقہ والا ہے۔ چنانچہ اسی جماعتی تقسیم کے نتائج سے منافقین بھی گروہ ایمان رائیٰ ذیت امْتُوا (۱) میں شمار کیے جاتے تھے مجھے، ملائکہ نی الواقع وہ ایمان نہ رکھتے تھے۔

یہاں اللہ تعالیٰ اسی نقطہ نظر کی غلطی واضح کرنا چاہتا ہے، اس بیان وہ حقیقت نفس الامری کو بیان کرنے سے پہلے گروہوں کا ذکر ان کے جدا جداناہوں سے کر رہا ہے اور ابتداء اس نے مسلمانوں کے گروہ سے کی ہے۔

(۲) وَالَّذِينَ هَادُوا - لفظی ترجمہ: "وہ لوگ جو یہودی ہوئے" مقصود یہاں بھی وہی ہے جس کی تحریک اور کمی گئی ہے۔ "یہودی ہوتے" سے مراد یہ نہیں کہ یہوں نے حقیقت میں یہودیوں کا عقیدہ اور مسکن اختیار کیا ہے ان کے لیے وہ حلم ہے جو آگ کے چل کر بیان ہونے والا ہے۔ بلکہ ذرا صل گروہ ایل یہود میں شمار ہونے والوں کو الَّذِينَ هَا دُفَا سے تعبیر کیا گیا ہے۔

(۳) وَالنَّصُّرَى - سلسلہ کلام کے تحت یہاں نصاری سے مراد بھی اعتقادی عیسائی "نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو عیسائیوں کی قوم میں شمار ہوتے ہیں۔

(۴) وَالصَّابِرِينَ - یہ لفظ ایل عرب کی زبان میں عراق و المجزرہ وغیرہ علاقوں کے اس گروہ کے بیسے بولا جاتا تھا جس میں انبیاء کے متقدموں کی تبعیدات کے ساتھ کو اک پرستی اور ملائکہ پرستی کے عقاید خلط ملٹھ ہو گئے تھے۔ یہاں بھی صابیرین سے مراد مصن اس گروہ کے لوگ ہیں، نہ کہ صابریت پر اعتقاد رکھنے والے۔

(۵) هَمُّ الْأَمْتَ يَا اللَّهُ وَالْيَوْمُ الْآخِرُ وَعَمِلَ صَالِحًا فَكَهُوا جَرْهُمْ

عندَ رَبِّهِمْ - لفظی ترجمہ یہ ہے "جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور روزِ آخرت پر اور جس نے  
بھی نیک عمل کیے ایسے لوگوں کا اجر ان نکے پروردگار کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی  
خوف ہے اور نہ رنج" ۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے دراصل اس خیال کی تردید کی ہے جو عام طور پر پھیلا ہوا  
ہے کہ انسانوں کی تقسیم نام و نسبہ اور ظاہری انتسابات کے اعتبار سے جو مختلف  
قوموں اور گروہوں میں ہو گئی ہے اسی کے مطابق ان کا حشر بھی ہو گا۔ پہلو دنی یہ  
سمجھتا ہے کہ جو پہلویوں کے گروہ میں شامل ہے وہی نجات پانے والا ہے، اس  
گروہ کے باہر کسی کے لیے نجات نہیں ہے۔ نصرانی یہ لگان کرتا ہے کہ نصرانیوں کے  
گروہ میں شامل ہو جانا گویا اہل حق میں شامل ہو جانے ہے، اور اس گروہ سے باہر سب اہل  
باطل میں مسلمان بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ محض گروہ اہل اسلام میں نام او  
غائز ان اور چند ظاہری اشکال و مراسم کے اعتبار سے شامل ہو جانا ہی مسلمان ہونا ہے،  
اور اس لحاظ سے جو لوگ اس گروہ میں شامل ہیں وہ ان لوگوں پر شرف رکھتے ہیں جو  
اس لحاظ سے ان میں شامل نہیں ہیں۔ ان غلط خیالات کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا  
ہے کہ انسان اور انسان میں حقیقی فرق و امتیاز ظاہری گروہ بندی سے نہیں ہوتا بلکہ  
اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہے۔ جو مومن کہلاتا ہے مگر حقیقت میں ایمان اور عمل  
صالح سے بہرہ ورنہیں وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے اور اس کا انعام وہ نہیں ہو سکتا  
جو مومنین کے لیے مخصوص ہے۔ اسی طرح جو یہودی یا نصرانی یا صابی گروہوں کی طرف  
نسب ہے، اگر وہ ایمان اور عمل صالح کی صفات سے متصف ہو جائے تو حقیقت  
میں یہودی یا صابی نہیں بلکہ مومن ہے۔ اور اس کا حشر وہ ہو گا جو مومنین و صالحین کے  
لیے مقرر کیا گیا ہے، لیکن اگر وہ ان صفات سے عاری ہو تو جس طرح مسلمانوں کے گروہ  
میں شامل ہونا کسی شخص کے لیے نافع نہیں ہو سکتا۔

قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر یہود و نصاریٰ کی اس گروہ پرستی کا خصوصیت

کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور اس کی ترمیدی کی کمی ہے۔ مثلاً فرمایا:

انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں شر جا برجا گا  
تاؤ فتنیکہ وہ یہودی نہ ہو بلکہ صرانی نہ ہو بلکہ محض  
ان کے من سمجھوتے ہیں۔ اے محمد! ان سے کہو کہ  
کہ اگر تم پتھے ہو تو دلیل لاق۔ ہاں جو بھی خدا کے لئے  
سترسلیم ختم کر دیجا اور نیکو کارہ دیجتا اس کے لیے  
اپنے پردہ گارکے ہاں اجر ہے اور ایسے ہی لوگوں  
کے لیے کوئی خوف اور رنج نہیں ہے۔

یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے  
اور اس کے پیارے ہیں اے محمد! ان سے پوچھو  
کہ پھر اللہ تھمارے گناہوں کی قسم کو منزرا کیوں دیتا  
ہے؟ وصال قم بھی دیسے ہی انسان ہو سبی خدا  
نے اور انسان پیدا کیے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ہم کو الگ ہرگز نہ پھوٹے گی اور  
اگر چھوٹی گئی تو زیادہ سے زیادہ چند روز زیادہ  
باتیں انہوں نے خود گھر لی ہیں اپنی نے ان کو پہنچے  
دین کے پارے میں دھوکہ دے رکھا ہے۔ پھر  
اس وقت کیسی کچھ گزرے گی جب ہم ان کو اس  
دن جمع کریں گے جس کے آئنے میں کوئی مشتبہ نہیں ہے۔  
اور ہر شخص کو اپنے کیے کامیاب رحلے گا اور لوگوں کے ساتھ ظلم نہ ہو گا بلکہ وہی کیا جاتے گا جس کے وہ

حقیقت میں مستحق ہوں گے۔

قُلْ إِنَّمَا كَانَتْ تِكْرِيمُ الدَّارِ الْأَخِرَةِ  
عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةٌ مِّنْ دُّنْيَانَا

قَالُوا إِنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ  
كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ قُلْ كَمْ أَمَّا بِهِمْ  
فَلْ هَانُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِنَّ  
بَلِّي مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ  
مُحْسِنٌ فَلَكُمْ أَجْرٌ إِذْنَ دِينِهِ وَلَا  
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ مُجْزَنُونَ۔  
رالمیقرہ: ۱۱۲، ۱۱۱)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ  
مَحْنُ أَبْنَاءَ اللَّهِ وَأَجْتَمَعُهُـ۔ قُلْ  
فَلِمَرْ يَعْدِي كُمْ بِذَذْنِكُمْ بِلَّمْ أَنْتُمْ  
بَشَرٌ مِّمَّا فِي خَلْقَـ۔

رالمائدہ: ۱۸)

قَالُوا إِنْ تَسْتَأْنَدُ النَّارُ إِلَّا آتَيْنَا  
مَعْدُودًا مَا كَانُوا بِهِ  
كَانُوا يَفْتَرُونَ فَلَكَيْفَ إِذَا حَمَّلُـ  
هُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَبِّ لِيَهُ وَرُفِيْقَتْ كُلُّ  
نَفْسٍ مَا كَسِيْتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ  
رآل عمران: ۱۵۴، ۱۵۵)

اور ہر شخص کو اپنے کیے کامیاب رحلے گا اور لوگوں کے ساتھ ظلم نہ ہو گا بلکہ وہی کیا جاتے گا جس کے وہ  
کامگیریں تھیں اسے ہی لیے ہے اور درستے  
اے محمد! ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ہاں آخرت  
کامگیریں تھیں اسے ہی لیے ہے اور درستے

**فَتَمَّتُوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ**  
 لوگ اس میں حصہ دار نہیں ہیں، تب تو ہیں  
 موت کی تناکنی چاہیے اگر تم پتھے ہو۔  
 (البقرہ: ۹۶)

ان تمام آیات میں یہی حقیقت واضح کی گئی ہے کہ اللہ کا کسی گروہ کے ساتھ کوئی رشته نہیں ہے۔ نجات پر کسی قوم کا احراہ ہے قم اس بنا پر کسی خاص برداشت کا حق نہیں رکھتے کہ فلاں قوم میں پیدا ہوئے ہو، یا فلاں جماعت سے مسوب ہو، خدا کی زگاہ میں انسان پتھے کی خیوبی سے سب برابر ہیں۔ کوئی قوم نہ بجائے خود چیزی اور مقبول بارگاہ ہے لورنہ کوئی صرف اس بیسے راندہ درگاہ کہ وہ فلاں نام سے موسوم اور فلاں طبقہ سے مسوب ہے۔ خدا کے ہاں اصل ودن انسابات اور قومیتوں کا نہیں ہے بلکہ اصول اور حکایت کا ہے۔ پتھے دل سے ایمان لاوے گے اور نیک عمل کرو گے تو اچھا بدله پاؤ گے اور اگر ایمان عمل صاف سے خالی رہے گے تو کوئی چیز تمہیں پڑی جزا سے نہ بچائے گی خواہ تم کسی گروہ سے تعنت رکھتے ہو۔ اسی مضمون کو مسلمانوں اور اہل کتاب دونوں سے خطاب کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے:

**لَيَسْ يَا مَانِيْكُمْ وَلَا أَمَانِيْ**  
**أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلُ سُوْءً**  
**يُجْزَى بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ ذُوْنٍ**  
**اللَّهُ وَلِيَا وَلَا نَصِيرًا - وَ مَنْ**  
**يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ**  
**أَدْأُنْتِي وَهُوَ مُوْهِنٌ فَأُولَئِكَ**  
**يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ**  
**لَقَيْرَاءً -**  
 عاقبت کا مدار تھا ری خراہشات پر ہے اور  
 نہ اہل کتاب کی تناول پر جو بڑا عمل کرے گا  
 اس کا بدلہ پائے گا اور خدا کی پکڑ سے بچانے  
 کے لیے اس کو کوئی حامی و مددگار نہ ملے گا اور  
 جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ فرمایا  
 ہو، گروہ مدد ہو یا عورت ہے لیے لوگ جنت  
 میں جائیں گے۔ دونوں قسم کے آدمیوں کے  
 ساتھ تسلی برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔  
 (النسار: ۱۲۴، ۱۲۵)

یہی بات ہے جس کو گفتہ زیر بحث میں ایک دوسرے انداز سے بیان کیا گیا ہے۔  
 جس سلسلہ کلام میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اس میں بحث یہ تھی ہی نہیں کہ موسیٰ ہونے  
 کے لیے کن کن باقیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور صارع ہونے کے لیے عمل کا ضابطہ کیا

ہونا پاہیے۔ یہ تفصیلات قرآن میں دوسری جگہ بیان ہوتی ہیں۔ وہاں تو محن یہ قاعدہ کلیدی بیان کرنا مقصود تھا کہ خدا کے ہاں اصل اعتبار حقائق نفس الامری کا ہے نہ کہ ان خارجی منظاہر اور سطحی اشکال اور نمائشی اتصالات کا جن پر دنیا کے لوگ کٹتے مرتے ہیں۔ اسی لیے وہاں حقائق نفس الامری کی طرف ایک مختصر اشارہ کروایا گیا۔ اب اگر اس سے کوئی شخص یہ معنی لکھتا ہے کہ اس آیت میں چونکہ صرف خدا اور آخرت پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے میں یہی دو چیزیں انسان کی نجات کے لیے کافی ہیں، ان کے بعد کسی رسول یا کسی کتاب کو مانتے تو کسی شریعت کا اتباع کرنے کی ضرورت نہیں، یا یہ کہے کہ قرآن کی دعوت کا انشاء اس سے زیادہ کچھ اور نہیں ہے کہ ہندو یا ہندو بن جاتے اور یہودی یا ہمہ یہودی بن کر رہے اور ہر شخص اسی ذریبہ کا پورا اتباع کرے جس کا وہ معتقد ہے، باقی رہا قرآن اور سالم محمدی پر ایمان تو وہ نجات کے لیے شرط نہیں، تو ایسے شخص کے متعلق ہم صاف ہتھی ہیں کہ وہ قرآن کی تفسیر نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اس کی بات تسلیم ہی نہیں کی جا سکتی جب تک کہ ان دو آیتوں کو مستثنی کر کے سارے قرآن کا انکار نہ کرو دیا جائے۔

اس میں شک نہیں کہ دین کی اصل ایمان باللہ ہی نہ ہے، اور اسی لیے آیات زیریں بہت میں سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا گیا ہے، مگر ایمان باللہ کے مضمون یہ نہیں ہیں کہ میں خدا کے وجود کا اور اس کی وعدائیت کا اقرار کر دیا جاتے۔ قرآن واضح طور پر خود ہی ہم کو بتاتا ہے کہ ایمان باللہ سے اس کی مراد کیا ہے۔

بَلِّيْ مَنْ أَسْلَمَ وَرَجَحَهُ اللَّهُ  
وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَكَهُ أَجْرٌ إِنَّمَا دِرْبُهُ  
فَلَأَخْرُوفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ بِخَرْفَهُ  
يَهُمْ اِيمَانُ الْلَّهِ كَمَا كَرِيْبُهُ  
خَدَائِيْكَ رِضَائِيْكَ مِطْبَعُ بَنَادِيْقَ

جس نے اپنے آپ کو خدا کے پسروں کو دیا اور نیکو کا  
اعتیار کی اس کے لیے اپنے رب کے ہاں اجر ہے  
اوڑیسے لوگوں کے لیے کوئی خوف اور بیٹھیں  
یہاں ایمان باللہ کی تشریع کر دی گئی ہے کہ اس سے مراد "اسلام" یعنی اپنے آپ کو  
خدا کی رضا کا مطیع بناؤ یا ہے اور اس کا اجر بھی ٹھیک وہی بیان کیا گیا ہے جو آیت  
اَنَّ الَّذِينَ اَمْتُوا قَاتَلِيْنَ هَادُوا رَبَّهُو (۶۷) میں بیان کیا گیا تھا یعنی ایسا کرنے والے کا اجریں  
کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے نہ خوف ہے نہ رنج۔

پھر وہ میرے مقامات پر فرمی تشریع کی گئی کہ ایسا ایمان یا "اسلام" آدمی کو صرف

ابنیاء اور کتبِ آسمانی کی وساطت ہی سے مل سکتا ہے، یہ علکن نہیں بلکہ خود اپنی جگہ غور و فکر کر کے خدا اور آخرت کے متعلق ایک تحسیدہ اور اخلاقی تحریک ایک نظریہ قائم کرے، یا اپنے ذاتی انتساب سے کامنے کر کچھ باتیں اس کے اور کچھ اس ذریب کی چن لئے، اور وہ قرآن کی نظر میں مون قرار پائے۔

**قُولُوا إِمْنَأْ يَا مَالِكَ وَمَا أُنْزِلَ**

**إِكْيَنَأْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ**

**وَمَا أُنْزِلَ إِلَى الشَّبِيلِيْنَ مِنْ  
رَّتِيْهِمْ لَا نَعْرِفُ بَيْنَ أَحَدِهِمْ  
وَمَنْ حَنَّ لَهُ مُسْلِمُوْنَ - فَإِنْ أَمْنَأْ  
يُمْثِلُ مَا أَمْتَحِمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَ وَ  
فَإِنْ تُوْلُوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ**

جو بخاری طرف آئی ہے اور ان کے  
ابراہیم اور اسماعیل اور ایشی دوستی  
یعقوب کی طرف آتمی کی تھیں  
کتابوں پر جو تمام انبیاء کو ان کے  
طرف سے نی کیسی ہم ایغیرہ  
الگ نہیں کرنے اور یہم اسی خدا کے

(را بقرہ: ۱۳۷، ۱۳۸) رسلم، یہ اگر وہ ایمان لائیں اسی ط

تم ایمان لائے ہو، تو انہوں نے ہدایت پالی۔ اور اگر وہ ایسے ایمان سے انکار کریں تو  
پسپڑیں۔

آل عمران میں دوبارہ اسی ضمنوں کا اعادہ کیا گیا ہے اور حنون کہ مسلموں  
بیان کرنے کے بعد صاف کہا گیا ہے کہ وَمَنْ يَتَبَعَ عَدِيْدَ الْإِسْلَامِ دِيْنَ أَفَلَمْ  
يَتَّهَوْ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْجُنُسِ دین کا کل ہر انہیں یعنی جو شخص اس دین کو  
کوئی اور دین پسند کرے وہ ہرگز تجول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نامرا در پیش  
پھر اسی صورت میں دوسری جگہ فرمایا:

اگر وہ تم سے محبت کریں تو کہو کہ میں نے  
پیر قلع نے تو اپنے آپ کو خدا کا  
رسلم، بنا دیا ہے۔ پھر اہل کتاب  
اور ان پرحد لوگوں دیگر اہل کتاب

**فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أُسْلَمْ**  
**وَجْهِيَ اللَّهُ وَمَنْ اتَّبَعَنِيْ دَقْلَدِيْلَذِيْنَ**  
**أَوْ قَوْا أَكِتَبَ وَالْأُمَّيَّيْنَ دَأَسْلَكْمُ**  
**فَإِنْ أَسْلَمُوْ فَقَدِ اهْتَدَوْا -**

تم بھی اسی طرح اسلام لائے ہو ؟ اگر وہ اسلام  
دائل عمران: ۱۷۰: رکن  
لامیں تب وہ بے شک ہدایت یافتہ ہوں گے۔  
ان آیات سے پوری صراحت کے ساتھ یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آیت زیر تفسیر میں بیان  
بالقدر سے مراد حضن خدا کو مان لینا نہیں ہے، بلکہ انہیا علیہم السلام اور تب آسمانی کی تعلیم کے  
مطابق ماننا ہے اور اسی کا نام اسلام ہے۔ قرآن نہایت قطعی الفاظ میں بار بار اس امر کا حادث  
کرتا ہے کہ نبی اور کتاب کا واسطہ انسانی ہدایت کے لیے ناگزیر ہے۔ اس واسطہ سے  
بے نیاز ہو کر کوئی شخص ہدایت نہیں پہنچتا۔ اور اس بنا پر کوئی شخص صاحب ایمان ہو یہی  
نہیں سکتا جب تک کہ وہ خدا کے ساتھ اس کے بغیر وہ پر بھی ایمان نہ لائے۔  
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا  
رسول پر ایمان لامیں۔  
رسول پر ایمان لامیں۔ دال المنور: ۷۹:

اوْ جُو كُفَّارُ اللَّهِ وَ مُلْكِهِ اُوْسَ کی  
کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت سے کفر  
کرے وہ گرامی میں بہت دُور نکل گی۔

اوْ كُفَّارُ الْمُبْتَدَأِ تھیں جنہوں نے اپنے پروپرٹی  
اور اس کے رسولوں کی سربراہی کی تو ہم نے ان سے  
سخت باز پرس کی اور ان کو بڑی بڑی سزا دی اور  
انہوں نے اپنے کیے کامزہ چکھا اور آخر کار نہ  
عاقیبہ اُمرِہا حُسْنًا۔ را الطلق: ۴۶: گھائٹے میں رہے۔

یہ ان بے شمار آیات میں سے چند میں جن میں صفات صفات بیان کیا گیا ہے کہ  
ایمان بالقدر کے ساتھ ایمان بالرسل کا تعلق غیر منفك ہے اور صفات کا منکر کسی طرح  
خدا کا مومن نہیں ہو سکت۔ پھر یہ بھی بیان کر دیا گی کہ ایمان بالكتب اور ایمان بالرسل کے معنی  
یہی نہیں ہیں کہ رسولوں کی عظمت دربارگی کا اعتراف کر دیا جائے اور زبان سے کہہ دیا جائے  
کہ ہم ان کو بھی مانتے ہیں اور ان کی لائی ہوتی کتابوں کو بھی۔ ایمان کے لیے مختص اس طرح کا

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ  
وَمَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ  
وَكُفَّارُهُ وَرَسُولُهُ وَالْمَيْوِمُ الْآخِرِ  
فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا لَا يَعْبُدُ أَوْ اشارة: ۳۳)  
وَكَانَتْ مِنْ فَرِيقَةِ عَنْتَ عَنْ  
أَمْرِ رَبِّهَا وَرَسُولِهِ فَحَا سَبَقَهَا حَتَّى  
شَدِيدًا وَعَذَّبَهَا عَذَّابًا نُكْرًا  
فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ  
عَاقِبَةُ أَمْرِهَا حُسْنًا۔ را الطلق: ۴۶: گھائٹے میں رہے۔

ایک عظیمی اشتراط کافی نہیں ہے جیسا کہ ربہو تعالیٰ حضرات پاگان دھمی جی کی قسم کے لوگ کرتے ہیں، بلکہ عملی اطاعت اور اتباع مجید ضروری ہے اور اس قاعدہ کلیئے کو قبیلہ کرنا ایک ناگزیر شرط ہے کہ نبی کا قول آخری قول (Final Authority) ہے اور اس کے مقابلہ میں اپنی محبت پلانے کا کسی مومن کو حق نہیں۔

ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی پیسے بھیجا ہے  
کہ فرمائی خداوندی کے نت اس کی اطاعت کرو  
جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی  
اطاعت کی۔

جز شخص نے رسول سے جبرا لایا، وہاں حاکیکہ  
ہدایت اس پرداخت ہو چکی ہوا وہ مومنوں کے  
طریقے رسمی اطاعت رسول کو حضور کرنی  
دوسراراستہ اختیار کیا، تو بعد از وہ ملکی یعنی  
اسے اصری ہوڑیں گے اور اس سے حنفی میں جزوی  
اور اس کا بہت بڑا لٹکانا ہو گا۔

کسی مومن مرد یا عورت کو یہ حق نہیں پہنچا کہ جب  
خداوند اس کا رسول کسی امر کا فیصلہ کر دے تو پھر وہ  
خود اپنے حاملہ میں اپنے اختیار سے کتنی فیصلہ کر جو  
اللہ اور اس کے رسول کی جس نے تافرانی کی تو  
کھلی گراہی میں جتنا بھوگا۔

نہیں، تیرے رب کی قسم وہ برگز مومنی نہیں ہو جی  
جنہیں تک کروہ اپنے باہمی اختلاف میں رکنے نی  
تمہ کو فیصلہ کرنے والانداز میں  
اور جو فیصلہ تو کرسے اس پر اپنے دل

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا  
يَطَّاعَ رَبُّ ذُنُوبِهِ اللَّهِ      رَالنَّسَاءَ: ۷۳  
مَنْ تُعْظِمْ رَبُّ الْمُسْكُنَ فَعَدَ أَطَاعَ  
اللَّهَ -      رَالنَّسَاءَ: ۸۰

وَمَنْ يُشَاءُ قَرِيرُ الرَّسُولِ مِنْ  
يَعْدُ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَمَنْ يَعْمَلْ  
غَيْرَ مَبِينٍ الْمُؤْمِنُونَ فُرِّجُهُ مَا  
تَوَلَّ وَلَنْصِلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ  
مَصِيرًا -

رَالنَّسَاءَ: ۱۱۵  
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَكُونَ مُؤْمِنًا  
إِذَا فَتَحَتَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَصْرَا أَنْ  
يَكُونُ لَهُمَا لَحْيَةٌ مِنْ أَخْرِ جُمُ  
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَعَدَ حَنَّلَ  
مَنَّلَا مُهِنَّا -      رَالْأَخْرَابَ: ۳۶

فَلَا وَرِبَّ لَأَدْبُرُ مِنْ حَقٍّ  
يُحَكِّمُونَكَ فِي مَا تَحْجُرُ بَعْثَتْهُمْ ثَوْرَ  
لَا تَجِدُ وَاقِ الْفُسُومَ حَرَجًا مِنَّا  
قَضَيْتَ وَكَيْلَمُوا قَسْدِيَّا -

(المساء: ۱۶۵)

میں بھی کرنے نگی محسوس نہ کریں بلکہ بے چون چرا  
اس کو تسلیم کر دیں۔

اس کے ماتحت یہ تصریح کی جاتی ہے کہ کسی ایک بی یا ایک کتاب کو یا چند کتابوں کو  
مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ قاسم انبیاء اور قاسم خدا تعالیٰ کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے جتنی  
کہ اگر ایک بی کا بھی انکار کیا جائے کام قوام انبیاء اور خود اللہ تعالیٰ سے بھی کفر لازم آئے گا  
جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ماتحت کفر  
کرتے ہیں، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے  
رسولوں میں تفرقی کریں (یعنی خدا کو مانیں اور رسولوں  
کو نہ مانیں)، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تم بعین رسولوں  
کو مانیں گے اور بعین کو نہ مانیں گے اور چاہتے  
ہیں کہ درمیان کی کوئی رہا اختیار کریں، وہ سبکے  
سب باقیین کافر ہیں۔

یہ اس یہے کہ تمام انبیاء ایک مقابل تفرقی جماعت ہیں اور ایک ہی دین کی  
دعاوت دیتے ہیں۔ لہذا ایک کا انکار سب کا انکار، بلکہ اصل دین کا انکار ہے۔ اگر دس  
آدمی ایک ہی بات سمجھتے ہوں تو تمہارے لیے اس کے سوا چارہ نہیں کہ یا تو سب کی تصویری  
کرو یا سب کی تکذیب کرو۔ جو شخص انہیں سے ذکر چاہکے گا اور ایک کر جھوٹا کہے گا وہ  
در اصل رسولوں کی تکذیب بلکہ خود اس بات کی تکذیب کا مرکب ہو گا جو انہوں نے بالاتفاق  
بیان کی ہے۔

اسے پیغمبر و... اور بلاشبہ تمہاری یہ  
جماعت ایک ہی جماعت ہے اور یہی تمہارا فرقہ گا  
ہوں لہذا مجھ پری سے درود۔

اللہ نے تمہارے لیے دین کا دہی استہ بھیرا ہے  
جس پر جنپنے کا فرست کو حکم دیا اور جس کی وقیت نے خدا

یَا إِيَّاهَا الرَّوْسُلُ... وَإِنَّ  
هذَا أَمْتَكِمْ رَأْمَهْ وَإِحْدَادَهْ وَأَنَا  
رَشِيكْرَفَانِقُونِ۔ (المومنون: ۱۵۴)

شَوَّعَ الْكُفَّارُ مِنَ الدِّينِ مَا رَأَى  
بِهِ نُوحَّاً الَّذِي أَوْجَبْنَا إِلَيْكَ وَمَا

وَصَيْنَا لِهِ أُبُوا هِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى  
أَتْ أَقِيمُوا الَّذِينَ قَلَّا نَسْفَرُ فَوْا صَلِيلُ  
الشُّورِيَّةِ (۱۲۷)

تہاری طرف بھی اور جس کا حکم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا کر اسی دین کو قائم رکھو اور اس میں تغیرہ نہ ڈالو۔

اس فاعلدرہ کلمیہ کے تحت یہ آپ سے آپ لازم آ جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی بھی تصدیق کی جاتے ہیں نکہ اگر کوئی شخص تمام انبیاء پر ایمان لاتے اور ہر فانکھ نظرت پر ایمان لانے سے انکار کر دے، یا تمام کتب آسمانی کو مانے اور صرف قرآن کو نہ ملنے، تو درحقیقت وہ تمام انبیاء اور تمام کتب آسمانی، بلکہ اصل دینِ الہی کا منکر ہو گا جیسا کہ اور پر بیان ہوا۔ اس بات کی تصریح قرآن مجید میں ایک جگہ ہے یہ شمار مقامات پر کی گئی ہے، اور اسی بنیا پر انگیزتے سابقین اور کتب سابقہ کے لئے دالوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے اور ان سے صفات صفات کہا گیا ہے کہ اگر تم ان پر ایمان نہ لاوے گے تو کفر کے مجرم ہو گے۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ  
اللَّهِ صَدِيقٌ لَّهُمْ مَعَهُمْ وَكَانُوا  
مِنْ قَبْلِ كَسْتِنْفَخُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا  
فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ  
فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكُفَّارِ .. (یقون: ۹۸)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ إِنْ نُوَا بِهِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
فَأَلْوَأُوا نُوْمَنْ بِهِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَكَيْفُونَ  
بِهِمَا فَدَاهَهُ - دالبقرہ: ۹۱)

اور جب ان سے کہا گیا کہ ایمان نہ اس چیز پر جو خدا نے بھی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف اسی کتاب کو مانیں گے جو ہمارے پاس آئی ہے۔ اس کے سوادسری کتاب کو لئے ہے وہ انکار کرتے ہیں۔

بِنْزَلَ عَلَيْكَ أُكِتَبَ بِالْحَقِّ  
مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ .. . . . إِنَّ

تصدیق کرنے ہے ان کتابوں کی جو اس سے

پہلے آچکی میں ... بے شک جو لوگ خدا کی  
آئتوں سے منکر میں ان کے پیغمبنت عذاب ہے۔  
اسے اپنی کتاب ایمان سے آواز کتاب پر جو  
ہم نے آماری ہے اور جوان کتابوں کی تصدیق  
کرنے ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہیں  
قبل اس کے کہ ہم چھروں کو بھاکر انہا دیں یا  
ان کو اس طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح  
ہم نے اصحاب سمعت کو لعنت زدہ کیا۔

الَّذِينَ كَفَرُوا بِاِيمَانِ اللَّهِ تَعَظِّمُهُ  
عَذَابُ شَدِيدٍ۔ رَأْيُ عِرَانٍ (۲۳)

يَا يَاهَا الَّذِينَ أَدْنُوا إِلَيْكُمْ إِمَانُوا  
بِمَا أَنْزَلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلٍ  
أَنْ تَنْظُمُسْ وَجْهًا فَتُرْدَهَا عَلَى  
أَدْبَارِهَا أَوْ مُنْدَعْنَهُمْ كَمَا نَعَثَّا  
أَصْحَابَ السَّبِيلِ۔ رَأْيُ النَّسَادٍ (۲۷)

ان سے بھی زیادہ صفاتِ الفاظ میں وہ آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ:  
اوہ اپنی کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ضرور میں  
جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کتاب پر جو  
تمہاری طرف بھیجی گئی اور ان کتابوں پر جوان  
کی طرف بھیجی جا چکی تھیں ... ایسے ہی لوگوں  
کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے۔

فَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ  
يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَمَا  
أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ ... أَوْ لِئَلَّا كَفَرُوا  
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔

رَأْيُ عِرَانٍ (۱۹۹)

یہ آخری آیت نہایت واضح طور پر آیت زیر بحث کی تفسیر کر رہی ہے۔ وہاں کہا گیا تھا کہ مسلمان یہودی، عیسائی، صابی، ان میں سے جو کوئی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا وہ اس کا اجر اپنے پروردگار کے ہاں پاتے گا یہاں اس کی تفسیر اس طرح کردی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گئے بعد صرف وہی اپنی کتاب خدا کے ہاں اجر پا سکیں گے جو اللہ پر اور اس کی بھیجی ہوئی تھیں کتابوں پر ایمان لائے کے ساتھ اس کتاب پر بھی ایمان لائیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے۔ اس سے زیادہ کھلی ہوئی تفسیر اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے باوجود جو شخص آیت زیر بحث سے یہ معنی نکالتا ہے کہ یہودی کا بس پکا یہودی بن جانا اور عیسائی بن جانا قرآن کی نظر میں ہے ایت یا فتحہ اور مستحب اجر ہونے کے لیے کافی ہے، وہ خود قرآن کے صریح بیانات کے خلاف قرآن کی

تغیر کرنا ہے۔ یہ پسح ہے کہ قرآن یہودیوں اور عیسائیوں کو تورات اور انجیل کے اتباع کی دعوت دیتا ہے، مگر یہ بھی خبر ہے کہ اس دعوت کے معنی کیا ہیں؟ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہود و نصاریٰ، قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ کر تورات اور انجیل کا اتباع کریں، بلکہ اس کا مطلب وراسل یہ ہے کہ تورات اور انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لئے ہم سے پیغام کی پیروی کرنے کے لیے یہ بیانات و می گئی تھیں ان کا اتباع کیا جائے چنانچہ قرآن میں صفات کہہ دیا گیا ہے کہ اب تورات اور انجیل کا حصیقی اتباع، قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے:-

لَا يَأْهُلُ الْكِتَابَ كُسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ  
حَتَّىٰ تَعْلَمُوا التَّوْرَاةَ وَالْأَنجِيلَ وَمَا  
أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ -

(العامدة: ۱۹۸)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ  
الْأَعْجَمِيَّ الَّذِي تَجَدُّرُ نَفْسُهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ  
فِي التَّوْرَاةِ وَالْأَنجِيلِ . . . أَوَلَمْ يَ  
هُمْ أَنْعَدُهُنَّ - (عزات: ۱۵)

یہ صرف اسی بنا پر نہیں ہے کہ قرآن اسی تعلیم خداوندی کو پیش کرتا ہے جس کو تورات اور انجیل پیش کرتی تھیں، بلکہ یہ اس وجہ سے بھی ناگزیر ہے کہ قرآن اس تعلیم پر ایسا کام جدید ترین (Latest) بلکہ آخری ایڈیشن (Last Edition) ہے۔ اس میں بہت سی ان چیزوں کا اضافہ کیا گیا ہے جو پہلے ایڈیشنوں میں نہ تھیں، اور بہت سی وہ چیزیں مذکوری نہیں ہیں جن کی اب ضرورت باقی نہیں رہی۔ لہذا جو شخص اس ایڈیشن کو قبول نہ کرے گا وہ صرف خدا کی نافرمانی ہی کا قریب نہ ہو گا۔ بلکہ ان فائدے سے بھی محروم رہ جائے گا جو آخری اور جدید ترین ایڈیشن نہیں انسان کو عطا کیے جائے گی۔

اے اہل کتاب تھا رہتے پاس ہماں پنیر گی  
ہے جو تم کو کتاب اپنی کی بہت سی بے ہمیں  
کھوں کر دیتا ہے جن کو تم سچا پانے ہو راد  
بہت سی چیزوں سے معاف بھی کر دیتے ہے  
اور وہ ان کی بیسے پاک چیزوں کو حلال  
اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے اور ان  
پر سے ذہ بھاری بوجھا مدد وہ طوق و سلاسل  
آمار دیتا ہے جو ان پر لبرے ہوتے تھے۔

نیا اہل الکتب قد جائز کر  
رسولنا یعنی پیغمبر نکر کثیر فتاویٰ کنتم  
خشنونَ من الکتب وَ يعْمَلُونَ  
کثیر۔ (دالہادہ: ۱۵)

وَ سَخِلْ لَهُمَا الظِّيَابَتِ وَ سَخِيرَهُم  
عَلَيْهِمُ الْجَبَيْثَ وَ يَقْتَمُ عَنْهُمْ  
أَصْرَهُمْ فَلَا عَذْلَ أَتَى كَاتَبَتْ عَلَيْهِمْ  
دالا غرفت: ۱۵۸)

نیزہ اس یہی بھی ضروری ہے کہ اہل کتاب نے خدا کی بھی کتابوں میں قصدًا تحریف  
کی اور بہت سی چیزوں کو بحدا دیا۔ اور بعض کتابوں میں مثلاً اصل منزل من الشرائع کو کھو دیا  
جس کی وجہ سے اب کسی طرح ممکن ہی نہیں ہے کہ کتنی اتباع قرآن کے بغیر موہی علیہ  
اسلام اور تورات اور عیسیٰ علیہ السلام اور انہیں کا اتباع کر سکے۔

بِحِرْ قُوْتُ الْكَلِمَةِ عَنْ مَوَاضِعِهِ  
بیرونی، الفائدہ کیان کے اصل معنوں سے  
پھر دیتے ہیں، اور انہوں نے ان پہاڑیں کا  
ایک بڑا حصہ بحدا دیا جو ان کو دی گئی تھیں۔  
... اس بجولوگ کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں  
ان سے ہم نے عہد دیا تھا مگر انہوں نے ان  
ہدایات کا ایک حصہ بحدا دیا تھا جو ان کو دی  
گئی تھیں۔

دَسْوَا حَظَّا مِمَّا ذُكِرَ فَإِلَيْهِ...  
وَ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَضْرَى  
أَخْذَنَا مِمَّا فَهَمْ فَنَسْوَا حَظَّا مِمَّا  
ذُكِرَ فَإِلَيْهِ۔ (دالہادہ: ۱۳۷)

ای یہ ظاہر ہے کہ جن قوموں کے متعلق خود قرآن نے تصدیق کی ہے کہ ان کو خدا  
کی طرف سے کتاب دی کئی تھی، ان کے یہی بھی جب اتباع قرآن کے سوا کوئی راستہ نہیں  
ہے تو پھر ان قوموں کو اتباع قرآن کے بغیر دایت کیا راستہ کیسے جی سکتا ہے جن کا اہل کتاب  
ہونا محسن قاعدہ تکمیل فیکل قوم رہا (در بعد: ) کی بنابرہ فرض کر دیا گیا ہے۔

بلکہ اپنے کہنے میں بڑی رواداری نظر آتی ہے کہ "اسلام صرف اپنے آپ ہی کو برخی نہیں کہتا بلکہ دوسرے نہ را ہب کر بھی سچا سمجھتا ہے، اور اس کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ لوگ جب تک اپنے اپنے نہ ہمبوں کو چھوڑ کر اسلام نے آئیں ہدایت اور نجات سے پہلے یا بہ نہ ہمبوں گے۔ بلکہ وہ تصریح یہ کہ اپنے اپنے نہ ہمبوں کی اصل نعمات کا شائع کرو۔" لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ سراسرا ایک غیر معقول بات ہے کہ لوگوں کے درمیان جس طرح خط مستقيم ایک ہی ہو سکتا ہے، اسی طرح انسان سے خدا کے صراطِ مستقیم بھی ایک ہی ہو سکتی ہے اسلام جب اپنے آپ کو صراطِ مستقیم کہتا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ لازم آ جاتا ہے کہ اس کے سوا جتنے راستے ہیں وہ ان سب کو غلط اور ٹیکھے راستے قرار دے کسی راستے کو صراطِ مستقیم بھی کہنا، اور پھر مختلف راستوں کو راستہ بھی قرار دینا، کسی صاحبِ عقل کا کام نہیں ہے۔ یہ اگر رواداری ہے تو محسن ایک جھوٹی رواداری ہے، اور قرآن الیٰ رواداری سے صاف انکار کرتا ہے۔ قرآن مجید میں تو محمد ﷺ اللہ علیہ وسلم کو صاف یہ اعلان کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ:-

وَإِنْ هَذَا إِصْرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ  
فَإِنْ يَعْمَلُوا مَا يُنْهَا  
أَوْ دُرْسَرَ رَاسُنَوْ پَرْنَچْلُوكَهُ وَهُنَّمُ كُونْ  
بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَا لِكْمُ وَشِكْمُ  
يَهُ لَعْلَكُمْ تَفَقُونَ - (الانعام: ۱۵۲)

محمد ﷺ اللہ علیہ وسلم قائم دنیا کو کھینچ کر اپنی طرف لانے کے لیے آئئے تھے، اس لیے کہ آپ کو اپنے برحق ہونے پر کمال درجہ کا دُوق تھا۔ آپ نہ فردب تھے اور نہ معاذ اللہ خوشامدی کہ تمام مختلف را ہم پر چلنے والوں کے ساتھ مصالحت اور مدارا است (Compromise) کرنے کے لیے تیار ہو چلتے۔

رواداری چنی مختمن چیز ہے۔ اس سے بدرجہا زیادہ غیر مختمن چیز جھوٹ ہے۔ جس شخص کو اس معاملے میں اپنی رواداری کا منلا ہرہ کرنا ہو تو اپنی طرف سے ایسی بات کہہ سکتا ہے، مگر اسے قرآن کی طرف سے وہ بات کہنے کا کیا حق ہے جو اس نہ نہیں کی؟

قرآن قرآن کے مقابلہ میں علی الماعلان کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی پڑی  
سکے بیوں اکمل راستہ بھی صحیح نہیں ہے، تمام نوع انسانی کے لیے اور سماں کے لیے اب  
یہی ایک راستہ ہدایت اور نجات کا راستہ ہے، جو اس کو اختیار نہ کرے گا اس کا انعام  
دنیا میں گراہی اور آخرت میں خُرُان کے سوا کچھ نہ ہو گا:-

**قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ**

خدا کا رسول ہوں۔

اللَّهُ أَكْبَرُ حَمِيمًا - والاعراف: ۱۵۹

اوہ بھی طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ تم  
کو اور ان سب لوگوں کو خبردار کر دیں جن تک

فَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِمَنِ ذَرَّهُ

رَبِّهِ وَمَنْ بَلَغَ - رَالنَّعَمَ: ۱۶

پہنچے۔

آئے محمد! ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے  
خوشخبری دیتے والا اور درلنے والا بنائیا ہے  
آئے ایمان والوں تم سبکے سب اسلام میں داخل  
ہو جاؤ اور شیطان کے بہستوں پر نہ چلو۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ

بَشِيرًا وَنَذِيرًا - راسیا: ۲۸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْخُلُوا

فِي السِّلْمِ كَافَةً وَلَا تَتَبَعُوا خُطُولَتِ

الشَّيْطَنِ - والبقرہ: ۳۰۵

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ

الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَإِنَّمَا

خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ

مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ - الرحمن: ۷۶

وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ

بِيَسِّرٍ وَمَا يَكْفِرُ بِهَا إِلَّا الْفَسِقُونَ

والبقرہ: ۴۹

وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُوْلَئِكَ

هُمُّ الْخَسِرُونَ - والبقرہ: ۱۳۱

آئے انسانوں! یہ رسول تمہارے پاس خدا کی  
طرف سے تھی لے کر کیا ہے یا یمان لا دکای  
میں تمہارے لیے بھلاقی ہے اور اگر کفر کرو گے  
تو جان رکھو کہ خدا آسمانوں اور زمین کامکھ  
آئے محمد! ہم نے تمہاری طرف کھل کھلایا تھا  
بھیجی ہیں اور ان کا انکار کرنے دیجی کرتے ہیں  
جونا فرمان ہیں۔

اور جو اس کا انکار کریں وہی نامراو  
ہوں گے۔

اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب  
لیجی... اور تمہاری آئیوں کے لئے  
سے صرف کافری انکار کرتے ہیں۔

پس خوف کریں وہ لوگ جو رسول کے حکم کی حق  
کرتے ہیں کہ کہیں وہ فتنے میں شپر جائیں یا نہیں.  
کوئی سخت عذاب ان کو نہ آئے۔

جو لوگ ایمان لانے اور جہوں نے نیکیں مل  
لیے اور اس ہدایت کو مان لیا جو محمد پر اماری  
گھنی ہے کہ وہی ان کے پروردگار کی طرف سے  
حق ہے، ان کے کن و خدا نے صفات کر دیئے  
اوہ ان کا حال درست گیا۔ یہ اس لیے کہ جہوں  
نے زماناً انہوں نے باطل کا اتباع کیا اور جہوں  
نے مان لیا انہوں نے اس حق کا اتباع کیا جو  
ان کے پروردگار کی طرف سے ہے۔

اللہ نے تمہاری طرف پیغیر کو تمہاری آنکھی کے  
لیے بخواہے و تم کو اللہ کی محلی محلی آیات سنتا  
ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے  
والوں کو تاریکی سے نکال کر بعد اُن میں لانے  
آئے محمد را کہہ دو کہ اگر تم خدا سے محبت رکھتے  
ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تم سے محبت  
کرے گا... اوسا کروہ اس سے باز  
رہیں تو بے شک اللہ کافروں سے تو محبت نہیں رہیں

یہ نہ سہ جو نہ کہہ بے بالا آیات میں پایا جاتا ہے، یہ صرف اسی کلام میں ہو سکتا ہے

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ  
وَمَا يَعْمَلُونَ بِإِيمَانِهِ إِلَّا  
أُكْفَرُهُنَّ - رَاجِعًا إِلَيْكُمْ (۱۰)  
تَلَمَّذُوا رَبِّ الظِّلَالِينَ يُنْجَاهُ الْغُوْنَ مَعَنِ  
أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِي نَهَارٍ وَّلَيْلٍ  
عَذَابُ الْكُفَّارِ - رَاجِعًا إِلَيْكُمْ (۱۱)  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نَزَّلَ عَلَى  
مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرَ  
عَنْهُمْ مُتَّبِعِيَّا تَهْمَدُ دَأْصَلَمَ بِالْهُمَّةِ  
ذَلِكَ بَأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا  
الْبَيْكَارَ طَلَقَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا  
الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ - رَجُلُوْمُ (۳۰۲)

قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْكِتَابَ ذَكَرَهُ  
رَسُولًا شَفِيلُوا عَدَيْكُمْ أَيْتَ اهْلَهُ  
مُبَشِّرٍ بِتَخْرُجِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلُوا  
الصَّالِحَاتِ إِلَى النَّورِ - رَاجِعًا إِلَيْكُمْ (۱۱۱)  
قُلْ إِنَّ كُنْتُمْ تُحْسِنُونَ اللَّهُ  
قَاتِلُكُمْ مَوْلَى بِحِجَّتِكُمْ اللَّهُ... قَاتِلُ  
تُولُوكُمْ قَاتِلُ اللَّهَ لَا تُحِبُّنَ الْكُفَّارُ  
رَأَلْ مُحَمَّد (۳۱، ۳۲)

جس کے قائل کو اپنے صادق اور حق ہونے پر فُرد اپنے اگلہ ہو اور جو اپنے علم کے مسلطی نوں  
 انسانی کی احیان کا حکم ارادہ رکھتا ہو سلیمانی کلام کی قدر وہ مزید اخلاقی حقیقت رکھنے  
 والے کس طرح کر سکتے ہیں جو صدقۃلت کا یعنی علم بھی نہ رکھتے ہوں اور پھر دنیا میں ہر ایک  
 کو خوش بھی رکھنے کے متمنی ہوں جو تو بڑی سے بڑی بات جو کہہ سکتے ہیں وہ یہی ہوگی کہ  
 بھائیو تم سب اچھے اور سب سچے!

”ترجمان القرآن“۔ محمد شمس الدین۔ مارچ ۱۹۷۸ء

---

## نبوت محمدی کا عقلی ثبوت

تھوڑی دیر کے لیے جہانی آنکھیں بند کر کے تصویر کی آنکھیں بھول بیجے اور ایک ہزار چار سو برس پہچے پلٹ کر دنیا کی حالت پر نظر ڈالیے۔ یہ کسی دنیا تھی؟ انسان اور انسان کے درمیان تباولہ خیالات کے وسائل کس قدر کم تھے۔ قوموں اور ملکوں کے درمیان تعلق کے فراتر کتنے محدود تھے۔ انسان کی معلومات کس قدر کم تھیں۔ اس کے خیالات کس قدر نگ تھے۔ اس پر دم اور توہش کا کس قدر غلبہ تھا۔ چہالت کے انہیں میں علم کی رعشی کتنی دھنڈلی تھی اور اس انہیں کو دھکیل دھکیل کر کتنی وقت توں کے ماتھ پھیل رہی تھیں۔ سونیا میں شمار تھا نہ میلیخون تھا۔ نہ ریڈیو تھا نہ ریل اور ہوا جہاز نہ مطابع اور اشتافت خانے تھے۔ نہ مددوں اور کاجوں کی کثرت تھی۔ نہ اخبارات اور مالے شائع ہوتے تھے۔ کتابیں کثرت سے سکھی جاتی تھیں، نہ کثرت سے ان کی اشتافت ہوتی تھی۔ اس زمانے کے عالم کی معلومات بھی بعض جیشیات سے موجودہ زمانے کے ایک عامی کی پرنسپت کم تھیں۔ اس زمانے کی اوپری سوسائٹی کا آدمی بھی موجودہ زمانے کے ایک فرد کی پرنسپت کم شاکستہ تھا۔ اس زمانہ کا ایک نہایت روشن خیال آدمی بھی آج تک کے تاریک خیال آدمی سے زیادہ ناکب خیال تھا۔ جو باتیں آج ہر کس وناکس کو معلوم ہیں وہ اس زمانہ میں برسوں کی محنت اور تلاش و تحقیق کے بعد بھی بیشکل معلوم ہو سکتی تھیں۔ جو معلومات آج رعشی کی طرح فضائیں پھیلی ہوئی ہیں اور ہر پچے کرہوں سنپھالتے ہی حاصل ہو جاتی ہیں ان کے لیے اس زمانہ میں مینکریوں میں کے صفر کے حد تک تھے اور ہر ان کی جتوں میں سب سے باقی تھیں۔ جن بالوں کو آج اور امام و خرافات مجھا جاتا ہے وہ اس زمانے کے "حقائق" تھے۔ جن افکار کو آج ناشائستہ اور وحشیانہ کہا جاتا ہے وہ اس زمانے کے عام معمود تھے۔ جن ملکوں سے آج انسان کا ضمیر نہ فرت کرتا ہے وہ اس زمانے کے اخلاقیات ہیں۔

نہ صرف جائز تھے بلکہ کوئی شخص یہ خیال بھی نہ کر سکتا تھا کہ ان کے خلاف بھی کوئی طلاق یہ ہو سکتا ہے۔ انسان کی عجائب پرستی اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ وہ کسی چیز میں اس وقت تک کوئی صداقت، کوئی بزرگی، کوئی پاکیزگی تسلیم ہی نہ کر سکتا تھا جب تک کہ وہ فوق ان歆ت نہ ہو، خلافتِ عادت نہ ہو، غیر معمولی نہ ہو، حتیٰ کہ انسان خود اپنے آپ کو اس قدر ذلیل سمجھتا تھا کہ کسی انسان کا خدار سیدہ ہونا اور کسی خدار سیدہ ہستی کا انسان ہونا اس کے تصور کی رسائی سے بہت دور تھا۔

اس تاریکے دور میں زمین کا ایک گوشہ ایسا تھا جہاں تاریکی کا قصر اور بھی زیادہ بڑھا ہوا تھا۔ جو ملک اس زمانے کے معیارِ تمدن کے محاذات سے متقدم تھے ان کے درمیان عرب کا ملک سب سے الگ تھا۔ پڑا ہوا تھا۔ اس کے اوپر گرد ایران، روم، اور مصر کے ملکوں میں علوم و فنون اور تہذیب و شاستریگی کی کچھ روشنی پائی جاتی تھی۔ مگر تکے پڑے پڑے سمندروں نے عرب کو ان سے جدا کر رکھا تھا۔ عرب سو اگر اذٹوں پر ہیزی کی راہ ملے کر کے ان ملکوں میں تجارت کے لیے جاتے تھے اور صرف اموال کا مبادلہ کر کے واپس آ جاتے تھے۔ علم و تہذیب کی کوئی روشنی ان کے ساتھ نہ آتی تھی۔ ان کے ملک میں نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کتب خانہ تھا، نہ لوگوں میں تعلیم کا چرچا تھا، نہ علوم و فنون سے کوئی پیشی نہیں تھی تمام ملک میں گنتی کے چند آدمی تھے جنہیں کچھ لکھنا پڑھنا آتا تھا اگر وہ بھی آنا نہیں کر سکتے۔ اس زمانے کے علوم و فنون سے آشنا ہوتے۔ ان کے پاس ایک اعلیٰ درجے کی باقاعدہ زبان ضرور تھی جس میں بلند خیالات کو ادا کرنے کی غیر معمولی صلاحیت تھی۔ ان میں ہترن اور بی غراق بھی موجود تھا۔ مگر ان کے لٹریچر کے جو کچھ باقیات ہم تک پہنچے ہیں ان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی معلومات کس قدر محدود تھیں، تہذیب و تمدن میں ان کا درجہ کس قدر لپٹ تھا، ان پر اور ہام کا کس قدر غلبہ تھا، ان کے خیالات اور ان کی عادات میں کتنی جہالت اور وحشت تھی، ان کے اخلاقی تصورات کتنے بحدے تھے۔

وہاں کوئی باقاعدہ حکومت نہ تھی، کوئی ضابطہ اور قانون نہ تھا، ہر قبیلہ اپنی جگہ خود حکما تھا اور صرف "جنگل کے قانون" کی پیروی کی جاتی تھی۔ جس کا جس پر میں چلتا اسے مار

ڈالتا اور اس کے مال پر قابض ہو جاتا۔ یہ بات ایک عرب بدعتی کے فہم سے بالآخر تھی کہ جو شخص اس کے قبیلہ کا نہیں ہے اسے وہ کیوں نہ مار دالے اور اس کے مال پر کیوں نہ متصرف ہو جائے۔

اخلاق و تہذیب و شاستری کے جو کچھ بھی تصورات ان لوگوں میں تھے وہ نہایت ادنیٰ اور سخت ناتراشیدہ تھے۔ پاک اور ناپاک، جائز اور ناجائز، شاکستہ اور ناشاکستہ کی تباہی سے وہ تقریباً ناٹشتہ تھے۔ ان کی زندگی نہایت گندی تھی، ان کے طریقے خشناختے تھے۔ زنا، جوا، شراب، چوری، رہنمی اور قتل و خوزیزی ان کی زندگی کے معمولات تھے۔ وہ ایک دوسرا سے کے سامنے بیتے تکلف برہنہ ہو جاتے تھے۔ ان کی عورتی تک نشگی ہو کر کبھی کا طوات کرتی تھیں۔ وہ اپنی لاڑکیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کر دیتے تھے محفوظ اس جا پلانہ خیال کی بنابر کر کریں ان کا داماد نہیں۔ وہ اپنے بیپوں کے مرنے کے بعد اپنی سوتی مائیں سے نکاح کر لیتے تھے۔ انہیں کھلنے اور لباس اور جہارت کے محوی آداب تک معلوم نہ تھے۔

مدیرب کے باپ میں وہ ان تمام جہالتوں اور ضلالتوں کے حصہ دار تھے جن میں اس زمانہ کی دنیا بتلا تھی۔ بُت پرستی، ارواح پرستی، کوکب پرستی، غرض ایک خدا کی پرستش کے سوا اس وقت دنیا میں جتنی "پرستیاں" پائی جاتی تھیں وہ سب ان میں رنج تھیں۔ انبیاء سے قدیم اور ان کی تعلیمات کے متعلق کوئی صحیح علم ان کے پاس نہ تھا۔ وہ آتنا ضرور جانتے تھے کہ ابراہیم اور اسماعیل ان کے باپ ہیں مگر یہ نہ جانتے تھے کہ ان دونوں باپ بلیوں کا دین کیا تھا اور وہ کس کی عبادت کرتے تھے۔ عاد اور ثمود کے قصہ بھی ان میں مشہور تھے مگر ان کی خورداستیں عرب کے مورخین نے نقل کی ہیں ان کو پڑھ جائیے، کہیں آپ کو صلح اور ہود کی تعلیمات کا نشان نہ ملے گا۔ ان کو یہ زیوں اور علیساً یوں کے واسطے سے انبیاء تے بنی اسرائیل کی کہانیاں بھی پہنچی تھیں، مگر وہ جیسی کچھ تھیں ان کا اندازہ کرنے کے لیے صرف ایک نظر ان اسرائیلی روایات پر ڈال لینا کافی ہے جو مقررین اسلام نے نقل کی ہیں، آپ کو معصوم ہو جائے گا کہ ایں عرب اور

خود بھی اسرائیل جن انبیاء سے واقع تھے وہ کیسے انسان تھا اور نبوت کے متصل ان لوگوں کا تصور کس قدر کھٹیا درجہ کا تھا۔

ایسے زمانہ میں، ایسے ملک میں ایک شخص پیدا ہوا ہے بچپن ہی میں ماں باپ اور دادا کا سایہ اس کے سر سے الٹھ جاتا ہے۔ اس لیے اس کی گزی گزی حالت میں ایک عرب بچے کو جو تھوڑی بہت تربیت مل سکتی تھی وہ بھی اس کو نہیں ملتی۔ ہوش سنجھا تا ہے تو بدی دڑکن کے ساتھ بکریاں چرانے لگتا ہے۔ جوان ہوتا ہے تو سو اگری میں لگ جاتا ہے لہذا بیٹھنا، بلنا جن اسب کچھ کاہنی عربوں کے ساتھ ہے جن کا حال اور کاپ نے دیکھو یا تعلیم کا نام تک نہیں، حتیٰ کہ ٹڑھنا لکھنا تک نہیں آتا۔ کسی عالم کی صحبت بھی میراث ہوتی کہ عالم کا وجود اس وقت تمام عرب میں کہیں نہ تھا۔ چند مرتبہ اسے عرب سے باہر قدم نکلنے کا اتفاق ضرور ہوا مگر یہ سفر صرف شام کے علاقے تک تھے اور دیسے ہی تجارتی سفر تھے جیسے اس زمانہ میں عرب کے تجارتی قافلے کیا کرتے تھے۔ بالفرض اگر ان اسفار کے وراء میں اس نے کچھ آشام علم و تہذیب کا مشاہدہ کیا اور کچھ اہل علم سے ملاقات کا اتفاق بھی ہوا تو ظاہر ہے کہ ایسے منتشر مشاہدات اور ایسی ہنگامی ملاقاتوں سے کسی انسان کی سیرت نہیں بن جاتی۔ ان کا اثر کسی شخص پر انشا زبردست نہیں ہو سکتا کہ وہ پہنچے ما جوں سے بالکل آزاد، بالکل مختلف اور اتنا بلند ہو جائے کہ اس میں اور اس کے ماحول میں کچھ نسبت ہی نہ ہے۔ ان سے ایسا علم حاصل ہونا ممکن نہیں ہے جو ایک ان پڑھ بدھی کو ایک ملک کا نہیں تمام دنیا کا، اور ایک زمانہ کا نہیں تمام زمانوں کا پیدا رہنا وسے اگر کسی درجہ میں اس نے باہر کے لوگوں سے علمی استفادہ کیا بھی ہو تو جو معلومات اس وقت دنیا میں کسی کو حاصل ہی نہ تھیں، مذہب، اخلاق، تہذیب اور تمدن کے جو تھنوں اور اصول اس وقت دنیا میں کہیں موجود ہی نہ تھے، انسانی سیرت کے جو خوبیں اس وقت کہیں پاس تھیں نہ جانتے تھے، ان کے حصوں کا کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا تھا۔

صرف عرب ہی کا نہیں دنیا کا ماحول پیش نظر رکھیے اور دیکھیے۔ یہ شخص جن لوگوں میں پیدا ہوا جن میں بچپن گزارا، جن کے ساتھ پل کر جوان

ہوا، جن سے اس کا میل جوں رہا، جن سے اس کے معاملات رہے، ابتداء ہی سے عادت میں، اخلاق میں وہ ان سب سے مختلف نظر آتا ہے۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کی صفت پر اس کی ساری قوم گوارا ہی دیتی ہے۔ اس کے کسی بدتریں دشمن نے بھی کبھی اس پر پیغام نہیں لگایا کہ اس نے فلاں موقع پر جھوٹ بول لائی۔ وہ کسی سے بدکلامی نہیں کرتا کسی نے اس کی زبان سے کبھی گالی یا کوئی غمیر یات نہیں سنی۔ وہ لوگوں سے ہر قسم کے معاملات کرتا ہے مگر کبھی کسی سے تلخ کلامی اور توتوں میں کی نورت ہی نہیں آتی۔ اس کی زبان میں سختی کے بجائے شیرخی ہے اور وہ بھی ایسی کہ جو اس سے ملتا ہے گرویدہ ہو جاتا ہے۔ وہ کسی سے بدمعاملگی نہیں کرتا۔ کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ برسوں سو و اگری کا پیشہ کرنے کے باوجود کسی کا ایک پیسہ بھی ناجائز طریقہ سے نہیں لیتا۔ جن لوگوں سے اس کے معاملات پیش آتے ہیں وہ سب اس کی ایمانداری پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ ساری قوم اس کو امین کہتی ہے۔ دشمن تک اس کے پاس اپنے فیضی مال رکھولتے ہیں اور وہ ان کی بھی خاختت کرتا ہے۔

بیچالوگوں کے درمیان وہ ایسا چیزادار ہے کہ ہوش سنپھاننے کے بعد کسی نے اس کو برہنہ نہیں دیکھا۔ بد اخلاقوں کے درمیان وہ ایسا پاکیزہ اخلاق ہے کہ کبھی کسی بدکاری میں مبتلا نہیں ہوتا، شراب اور جوئے کو ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ ناشائستہ لوگوں کے درمیان وہ ایسا شائستہ ہے کہ ہر بد تکریری اور گندگی سے نفرت کرتا ہے اور اس کے ہر کام میں سخراں اور پاکیزگی پاٹی جاتی ہے۔ منگدوں کے درمیان وہ ایسا نرم دل ہے کہ ہر ایک کے دکھ دودھ میں شرکیہ ہوتا ہے، تیمیں اور بیواؤں کی مدد کرتا ہے، مسافروں کی میزانی کرتا ہے، کسی کو اس سے دکھ نہیں پہنچتا اور وہ دوسروں کی خاطر دکھ اٹھاتا ہے۔ دشیوں کے درمیان وہ ایسا صلح پسند ہے کہ اپنی قوم میں فساد اور خوزریزی کی گرم بازاری دیکھ کر اس کو اذیت ہوتی ہے، اپنے قبیلہ کی لڑائیوں سے وامن بچاتا ہے اور مصالحت کی کوششوں میں پیش پیش رہتا ہے۔ بُت پرستوں کے درمیان وہ ایسا سلیم الغطرت اور صحیح العقل ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز اسے پوچھنے کے لائق نظر نہیں آتی، کسی خلق کے آگے اس کا سر نہیں جھکتا، بتوں کے چڑھاوے کا کھانا بھی وہ قبول نہیں کرتا، اس کا

دل خود بخود شرک کے اور مخلوق پرستی سے نفرت کرتا ہے۔

اس ماحول میں یہ شخص ایسا ممتاز نظر آتا ہے جیسے گھٹائوپ انڈھیرے میں ایک شمع روشن ہے یا پتھروں کے ڈھیر میں ایک ہیرا جیک رہا ہے۔

تقریباً چالیں سال تک ایسی پاک، صاف، ہش رویانہ زندگی بسر کرنے کے بعد اس کی زندگی میں ایک انقلاب شروع ہوتا ہے۔ وہ اس تاریکی سے گھبرا لختا ہے جو اس کو ہر طرف سے محیط نظر آ رہی تھی۔ وہ جہالت، بدلخلافی، بدکرداری، بد نظمی، شرک اور بُت پرستی کے اس ہوناک سمندر سے نکل جانا چاہتا ہے جو اس کو گھیرے ہوتے تھا۔ اس ماحول میں کوئی چیز بھی اس کو اپنی طبیعت کے مناسب نظر نہیں آتی۔ وہ سبکے الگ ہو کر آبادی سے دُور پہاڑوں کی صحبت میں چاہا کر بیٹھنے لگتا ہے تہہاتی اور سکون کے علم میں گئی کئی دن گزارتا ہے۔ روز سے رکھو رکھ کر اپنی روح اور اپنے دل و دماغ کو اونزیا و پاک صاف کرتا ہے۔ سو نجاتا ہے، غور فکر کرتا ہے، کوئی ایسی روشی ڈھونڈھتا ہے جس سے وہ اس چاروں طرف چھائی ہوئی تاریکی کو دُور کر دے۔ ایسی طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے جس سے اس بگڑی ہوئی دنیا کو توڑھپوڑ کر بھر سے سفوار دے۔

یکاکب اس کی حالت میں ایک عظیم انسان تغیر رونما ہوتا ہے۔ یک دم میں اس کے دل میں وہ روشی آ جاتی ہے جو بیلے اس میں نہ تھی۔ اچانک اس کے انزوں قلت بھر جاتی ہے جس سے وہ اس وقت تک خالی تھا وہ غار کی تہہاتی سے نکل آتا ہے۔ اپنی قوم کے پاس آتا ہے۔ اس سے کہتا ہے کہ یہ بت جن کے آگے تم جھکتے ہو، یہ سب بے حقیقت چیزیں ہیں، انہیں چھپوڑ دو۔ کوئی انسان، کوئی ذریت، کوئی پتھر، کوئی روح، کوئی سیارہ اس قابل نہیں کہ تم اس کے آگے سر جھکاؤ اور اس کی بندگی و عبادت کرو۔

اوہ اس کی فرمابندواری و اطاعت کرو۔ یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں ایک خدا کی مخلوق ہیں۔ دری ٹھہرا اور ان سب کا پیدا کرنے والا وہی مارنے اور جلا نے والا ہے۔ اسی کی بندگی کرو۔ اسی کا حکم مانواو اسی کے آگے سر جھکاؤ۔ یہ چوری، یہ بوٹ مار، یہ قتل و غارت، یہ خلکم و ستم، یہ بد کاریاں

جو تم کرتے ہو، سب گناہ میں۔ انہیں چھپوڑو، خدا انہیں پسند نہیں کرتا، پچ بولو، انصاف کرو، نہ کسی کی جان لو، نہ کسی کا مال چینو۔ جو کچھ دوق کے ساتھ لو، جو کچھ دوق کے ساتھ دو۔ تم سب انسان ہو۔ انسان اور انسان سب برابر ہیں۔ نہ کوئی ذلت کا داع لے کر پیدا ہوا اور نہ کوئی عزت کا تغیرے کر دنیا میں آیا۔ بزرگی اور شرف نسل اور نسب میں نہیں، صرف خدا پرستی اور شکی اور پاکیزگی میں ہے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے اور نیک اور پاک ہے وہی اعلیٰ درجہ کا انسان ہے، اور جو ایسا نہیں وہ کچھ بھی نہیں۔ مرنے کے بعد تم سب کو اپنے خدا کے پاس حاضر ہونا ہے۔ تم میں سے ہر شخص اپنے اعمال کے لیے خدا کے سامنے جوابدہ ہے، اس خدا کے سامنے جو سب کچھ دلختا اور جانتا ہے۔ تم کوئی چیز اس سے چھپا نہیں سکتے۔ تمہاری زندگی کا کارنامہ اس کے سامنے بیس کم و کاست پیش ہو گا اور اسی کارنامے کے لحاظ سے وہ تمہارے بے انجام کا فیصلہ کریگا۔ اس عادلِ حقیقی کے ہاتھ نہ کوئی سفارش کام آتے گی، نہ رشتہ چلے گی، نہ کسی کا نسب پوچھا جاتے گا۔ وہی صرف ایمان اور نیک عمل کی پوچھ ہو گی۔ جس کے پاس یہ سامان ہو گا وہ جنت میں جاتے گا اور جس کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہ ہو گا وہ نام اور نذرخ میں ڈالا جاتے گا۔

یہ تفاوہ پیغام جسے کروہ غار سے نکلا۔

جاہل قوم اس کی دشمن ہو جاتی ہے۔ گالیاں دیتی ہے۔ پھر مارتی ہے۔ ایک دن دو دن نہیں اکٹھے تیرہ برس تک اس پر سخت سے سخت ظلم توڑتی ہے۔ یہاں تک کہ اسے دھن سے نکال باہر کرتی ہے۔ اور پھر نکالنے پر بھی دم نہیں لیتی۔ جہاں وہ جا کر پناہ لیتا ہے مریاں بھی اسے ہر طرح ستاتی ہے۔ تمام عوب کو اس کے خلاف ایجاد رہتی ہے اور کامل آٹھ برس اس کے خلاف پر سر پکار رہتی ہے۔ وہ ان سب تکلیفوں کو صہتا ہے مگر اپنی بات سے نہیں ٹلتا۔

یہ قوم اس کی دشمن کہوں ہوتی ہے کیا زر اور زمین کا جگہ اٹھا کیا خون کا کوئی دھوی تھا؟ کیا وہ ان سے دنیا کی کوئی چیز بھی مانگ رہا تھا؟ نہیں، ساری دشمنی صرف

اس بات پر تھی کہ وہ ایک خدا کی بندگی اور پرہیزگاری اور نیکوکاری کی تعلیم کیوں دیتا ہے، بت پرستی اور شرک اور بد عملی کے خلاف تبلیغ کیوں کرتا ہے، پچاریوں اور پروہتوں کی پیشوائی پر کیوں حرب لگاتا ہے، سرداروں کی سرداری کا ظلم کیوں توڑتا ہے، انسان اور انسان کے درمیان سے اور پنج نیچے کا فرق کیوں مٹانا چاہتا ہے، قبائلی اور نسلی تعصبات کو جاہلیت کیوں قرار دیتا ہے، زمانہ قریم سے موسمی کا جو نظام بذریح اور ہاصل ہے اسے کیوں توڑنا چاہتا ہے۔ قوم کہتی تھی کہ یہ یادیں جو توہ کہہ رہا ہے، یہ سب خاندانی روایات اور قومی طریقہ کے خلاف ہیں تو ان کو چھوڑ دے ورنہ ہم تیرا جینا مشکل کر دیں گے۔

اچھا تو اس شخص نے یہ تکلیفیں کیوں اٹھائیں؟ قوم اس کو بادشاہی دینے پر آمدہ تھی، دولت کے ڈھیر اس کے قدموں میں ڈالنے کو تیار تھی، بشریت کے وہ اس تعلیم سے باز آ جاتے۔ مگر اس نے ان سب کو ٹھکرایا اور اپنی تعلیم کی خاطر تھپر کھانا اور ظلم سہنا قبول کیا۔ یہ آخر کیوں؟ کیا ان کے خدا پرست اور نیکوکار بن جانے میں اس کا کوئی ذاتی فائدہ تھا؟ کیا کوئی ایسا فائدہ تھا جس کے مقابلہ میں ریاست اور امارت اور دولت اور علیش کے سارے لارج بھی ناقابل التفات تھے؟ کیا کوئی ایسا فائدہ تھا جس کی خاطر ایک شخص سخت سے سخت جسمانی اور روحانی اذیتوں میں مبتلا ہونا اور کامل ۱۲ سال بیتلارہنا بھی گوارا کر سکتا ہو؟ غور کرو! کیا نیک نفسی، ایثار اور ہمدردی بنی فرع کا اس سے بھی عیند تر کوئی مرتبہ تھا رے تصور میں آسکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی فائدہ کی خاطر نہیں، دوسروں کے بھے کی خاطر تکلیفیں اٹھاتے؟ جن کی بھلائی اور بہتری کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، وہی اس کو تھپر باریں، گالیاں دیں، گھر سے بے گھر کر دیں، غریبی میں بھی اس کا پچھاونا چھوڑیں، اور ان سب باتوں پر بھی وہ ان کا بھلا چاہنے سے باز نہ آتے۔

چھردیکھو! یہ کوئی جھوٹا شخص کسی بے اصل بات کے پیچے ایسی مصیتیں بُدا کر سکتا ہے؟ کیا کوئی پیر نکے ڈرانے والا انسان محض گمان اور قیاس سے کوئی بات

کہہ کر اس پر آنا جم سُنتا ہے کہ مصیبتوں کے پہاڑ اس پر ٹوٹ جائیں، زمین اس پر نگ کر دی جاتے، تمام ملک اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، بڑی بڑی فوجیں اس پر امڑا منڈ کر جائیں، مگر وہ اپنی بات سے یک سرموہنے پر آمد نہ ہو؛ یہ استفافت، یہ عزم، یہ ثبات، خود کو ایسی دے رہا ہے کہ اس کو اپنی صداقت پر قین اور کامل تھیں تھا۔ اگر اس کے دل میں شک اور شبہ کا ادنیٰ شامیہ بھی ہوتا تو وہ مسل ۱۲ سال تک حصہ کے ان پے درپے طوفانوں کے مقابلہ میں بھی نہ ٹھیر سکتا۔  
یہ تو اس شخص کے انقلاب حال کا ایک پہلو تھا۔ دوسرا پہلو اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے۔

چالیس برس کی عمر تک وہ ایک عوب تھا عام عربوں کی طرح۔ اس دوران میں کسی نے اس سو دا گر کو ایک خطیب، ایک جاودہ بیان مقرر کی جیشیت سے نہ جانا۔ کسی نے اس کو حکمت اور وانما کی باتیں کرتے نہ سن۔ کسی نے اس کو اہمیات اور فلسفہ اخلاق اور قانون اور سیاست اور معاملات اور عرائیات کے مسائل پر بحث کرتے نہ دیکھا۔ کسی نے اس سے خدا اور ملائکہ اور آسمانی کتابوں اور تکھلے انہیا اور رامہم قدیمہ اور قیامت اور حیات بعد الموت اور درجہ و جنت کے متعلق ایک نقطہ بھی نہ سن۔ وہ پاکیزہ اخلاق، شاستہ اطوار اور بہترین سیرت تو ضرور رکھتا تھا، مگر چالیس برس کی عمر کو پہنچنے تک اس کی ذات میں کوئی بھی غیر معمولی بات نہ پائی گئی جس سے لوگ متوقع ہوتے کہ یہ شخص اب کچھ بننے والا ہے۔ اس وقت تک جانشے والے اس کو محض ایک خاموش، امن پسند اور رہایت شرفیت انسان کی جیشیت سے جانتے تھے۔ مگر چالیس برس کے بعد جب وہ اپنے غار سے ایک نیا پیغام لے کر نکلا تو یہ لخت اس کی کایا ہی پیٹ ہوئی تھی۔

اب وہ ایک حیرت انگیز کلام سنارہا تھا جس کو سُن کر سارا عوب بہوت ہو گیا۔ اس کلام کی شدت تاثیر کا یہ حال تھا کہ اس کے کڑ دشمن بھی اس کو سنتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ دل میں اُتر نہ جاتے۔ اس کی فضاحت و بلاغت اور زور بیان کا بیان

تحاکر تمام قوم عرب کو جس میں بڑے ہوئے شاعر خلیف اور زبان آوری کے مدعی تھے، اس نے چیلنج دیا اور بار بار چیلنج دیا کہ تم سب مل کر ایک ہی سودت اس کے مانند نہ ہو، مگر کوئی اس کے مقابلہ کی جرأت نہ کر سکا۔ ایسا بے مثل کلام کم جی عربہ کے کافروں نے سنایا ہی نہ تھا۔

اب یا ایک وہ ایک بے مثل حکیم، ایک لاجواب مصلح اخلاق و تمدن، ایک حیرت انگیز ماہر سیاست، ایک زبردست مقتن، ایک اعلیٰ درجہ کا نجح، ایک بے نظیر سپہ سالار بن کر ظاہر ہوا۔ اس نے، اس ان پڑھنا شرائیں نے حکمت اور زمانی کی یادیں کہنی شروع کر دیں جونہ اس سے پہلے کسی نے کہی تھیں نہ اس کے بعد کوئی کہہ سکا۔ وہ اتنی اہمیات کے عظیم اشان مسائل پر فصیدہ کوں تقریبی کرنے لگا۔ تاریخ آقوماً سکا۔ اور مذاہب عالم پر تفتیش اور اختلافات اقوام کے فیصلے کرنے لگا۔ اخلاق اور تہذیب اور شاستری کا درس دینے لگا۔

اس نے معاشرت اور صیحت اور اجتماعی معاملات اور میں الاقوامی تعلقات کے متعلق قوانین بنانے شروع کر دیئے اور ایسے قوانین بناتے کہ بڑے بڑے علماء اور عقلاً غور و خوض اور عمر بھر کے تجربات کے بعد مشتمل ان کی حکمتون کو سمجھ سکتے ہیں، اور دنیا کے تجربات جتنے بڑتے جاتے ہیں ان کی حکمتیں اور زیادہ کھنٹی جاتی ہیں۔

وہ خاموش پڑا من سو و اگر، جس نے کم جی تمام عمر توارہ چلائی تھی، کم جی کوئی فوجی تربیت نہ پائی تھی، حتیٰ کہ جو عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ ایک لڑائی میں محض ایک تاشائی کی حیثیت سے شرکیب ہوا تھا، دیکھتے دیکھتے وہ ایک ایسا اپہار سپاہی بن گیا جس کا قدم سخت سے سخت معرکوں میں بھی اپنے مقام سے ایک اپنے نہ ہٹا۔ ایسا زبردست جنرل بن گیا جس نے ۹ سال کے اندر تمام ملک عرب کو فتح کر لیا۔ ایسا حیرت انگیز ملٹری لیڈر بن گیا کہ اس کی پیدا کی ہوئی فوجی تبلیغ اور جنگی روح کے اثر سے یہے سروسامان عربوں نے چند سال میں دنیا کی دو عظیم اشان فوجی طاقتوں کو اکٹھ کر رکھ دیا۔

وہ الگ تھلک رہنے والا سکون پسند انسان جس کے اندر کسی نے چالیس برس تک سلبی فسپی کی بوجی ترپائی تھی، لیکا ایک انسان زبردست ریفارمر اور مدیر بن کر فلاہر ہوا کہ ۲۶ سال کے اندر اس نے ۱۲ لاکھ مردیع میل میں بھیلے ہوتے ریاستان کے منتشر، جگجو، جاہل، ہر کسی غیر عمد اور ہمہ شہر آپس میں لڑنے والے قبائل کو، ریل اور تار اور ٹیڈیو اور پریس کی مدد کے بغیر ایک مذہب، ایک تہذیب، ایک قانون اور ایک نظام حکومت کا تابع بنایا اس نے ان کے خیالات بدل دیئے، ان کے اخلاق بدل دیئے۔ ان کی ناشائستگی کو اعلیٰ درجہ کی شائستگی میں، ان کی وحشت کو بہترین مردمیت میں، ان کی پذیرداری کو اور پذا خلائق کو صلاح و تقویٰ اور مکامِ اخلاق میں، ان کی سرکشی اور اناسکی کو انہیا درجہ کی پابندی قانون اور اطاعت امر میں تبدیل کر دیا۔ اس بانجھ قوم کو جس کی گود میں صدیوں سے کوئی ایک بھی قابل ذکر انسان پیدا نہ ہوا تھا، اس نے ایسا مردم خیز نایا کہ اس میں ہزار درہزار اعاظم رجال اٹھ کھڑے ہوتے، اور دنیا کو دین اور اخلاق اور تہذیب کا درس دینے کے لیے چار دنگ ب عالم میں بھیل گئے۔

اور بہ کام اس نے ظلم اور جبر اور دعا اور فربی سے انجام نہیں دیا بلکہ دل مروہ لئے واسے اخلاق اور روحوں کو مسخر کر لئے واسی شرافت اور دماغوں پر قبضہ کر لئے واسی تعییم سے انجام دیا۔ اس نے اپنے اخلاق سے دشمنوں کو دوست بنایا۔ رحم اور شفقت سے دلوں کو موسم کیا۔ عدل اور انصاف سے حکومت کی حق اور صداقت سے کبھی بیک ہو تو اخراج نہ کیا۔ جگ میں بھی کسی سے بد عہدی اور دعا نہ کی۔ اپنے بدترین دشمنوں پر بھی ظلم نہ کیا۔ جو اس کے خون کے پا سے تھے، جنہوں نے اس کو تھرا مارے تھے، اس کو وطن سے نکالا تھا، اس کے خلاف تمام عرب کو کھلا کر دیا تھا، حتیٰ کہ جنہوں نے جوش عداوت میں اس کے چھا کا لکھ جتہک نکال کر چاڑا لاتھا، ان کو بھی اس نے فتح پاک نہیں دیا۔ اپنی ذات کے لیے کبھی اس نے کسی سے بدلہ نہ لیا۔

ان سب باتوں کے ساتھ اس کے ضبطِ نفس بلکہ بے نفسی کا بہ عالم تھا کہ جب وہ تمام ملک کا بادشاہ ہو گیا اس وقت بھی وہ جیسا فقیر ہے تھا ویسا ہی فقیر ہا بچوں کے

چھپر میں رہتا تھا۔ بوریے پر سوتا تھا۔ مٹوا جھوٹا پہنچتا تھا۔ غریبوں کی سی غذا کھاتا تھا۔ نکتے  
نک کر گزتا تھا۔ رات رات بھرا پسے خدا کی عبادت میں کھڑا رہتا تھا۔ غریبوں اور  
میہبین کی خدمت کرتا تھا۔ ایک مزدور کی طرح کام کرنے میں بھی استائل  
رہتا۔ آخر وقت تک اس کے اندر شاہزادگانہ تھا۔ اور امیرانہ ترقی اور بڑے آدمیوں کے  
سے نکتہ کی فرائی بُجھی پیدا نہ ہوتی۔ وہ ایک عام آدمی کی طرح لوگوں سے ملتا تھا۔ ان کے  
دکھ دید میں شرکت ہوتا تھا۔ خواہ کے درمیان اس طرح بیجھتا تھا کہ ابھی آدمی کوی معلوم  
کرنا مشکل ہوتا تھا کہ اس محفل میں قوم کا سردار، نک کا بادشاہ کون ہے۔ اتنا بڑا آدمی  
ہونے کے باوجود چھپرٹے سے چھوٹے آدمی کے ساتھ بھی ایسا برٹاؤ کرتا تھا کہ گویا وہ  
اسی جیسا ایک انسان ہے۔ تمام عرک ہدو چہدیں اس نے اپنی ذات کے لیے کچھ  
بھی نہ چھوڑا۔ اپنا پورا ترکہ اپنی قوم پر وقعت کر دیا۔ اپنے پیر دوں پر اس نے اپنے پا  
اپنی اولاد کے کچھ بھی حقوق فاتحہ نہ لیے۔ حتیٰ کہ اپنی اولاد کو زکوٰۃ یعنی کے حق سے بھی  
حروم کر دیا۔ شخص اس خوفت سے کہ کہیں آگے چل کر اس کے پیر دوں کی اولاد تک کو  
ساری زکوٰۃ نہ دیشے لگ جائیں۔

ابھی اس عظیم اشان آدمی کے کالات کی فہرست ختم نہیں ہوتی۔ اس نے تربیت  
کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے آپ کو تاریخِ عالم پر چیختیت مجموعی ایک نظر و انتی چاہئے  
اپ کی حیثیت کے کو صحرائے عرب کا یہ ان پڑھ بادیں شیئں جو چودہ سورس پہلے اس تاریک  
قدور میں پیدا ہوا تھا۔ دراصل دورِ حدید کا بانی اور تمام دنیا کا لیڈر ہے۔ وہ نہ صرف ان کا  
لیڈر ہے جو اس سے لیڈر مانتے ہیں، بلکہ ان کا بھی لیڈر ہے جو اسے نہیں مانتے۔ ان کو اس  
امر کا احساس تک نہیں کہ جس کے خلاف وہ زبانِ حسوتے ہیں اس کی رہنمائی اس طرح  
ان کے خیالات میں، ان کے اصولی حیات اور قوانینِ عمل میں اور ان کے عصرِ حدید کی  
روز میں پوسٹ ہو گئی ہے۔

یہی شخص ہے جس نے دنیا کے تصورات کا رُخ دہشت اور عجائب پرستی اور  
رمیانیت کی طرف سے ہٹا کر عقولیت اور حقیقت پسندی اور مستحبانہ دنیا داری کی طرف

پھر دیا۔ اسی نے محسوس سعیز سے مانگنے والی رنیا میں عقلی جزوں کو سمجھنے اور انہی کو مبدلے خداقت مانتے کا مذاق پیدا کی۔ اسی نے خرقِ عادت میں خدا کی خدائی کے آثار دھوندئے والوں کی آنکھیں بھروسیں اور انہیں آثارِ نظرت (Natural Phenomena) میں خدا کی نشانیاں و سمجھنے کا خواز بنا لیا۔ اسی نے خیالی جھوڑ سے دوڑانے والوں کو قیاس آلاتی نے عقل اور حس اور وجدان کے اختیازی حدود انسان کو تباہتے۔ مادیت اور روحانیت میں مناسبت پیدا کی۔ دین سے علم و عمل کا اور علم و عمل سے دین کا۔ عالم کی۔ ذہب کی طاقت سے دنیا میں سائنس فک اپرٹ اور سائنس فک اپرٹ سے صحیح مذہبیت پیدا کی۔ اسی نے شرک اور مخلوق پرستی کی بنیاد مل کو احتمالاً اور علم کی طاقت سے تو جدید کا اعتقاد ایسی مضبوطی کے ساتھ قائم کی کہ مشرکوں اور بدبخت پرستوں کے ذہب بھی قادر ہانیت کا زندگ انقدر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اسی نے اخلاق اور روحانیت کے بنیادی تصورات کو بدلا۔ جو لوگ ترک دنیا اور نفس کشی کو عین اخلاق سمجھتے تھے، جن کے نزدیک نفس و جسم کے حقوق ادا کرنے اور دنیوی زندگی کے معاملات میں حصہ یعنی کے ساتھ روحانی ترقی اور نجات ممکن ہی نہ تھی، ان کو اسی نے تبدیل اور سماج اور دنیوی عمل کے اندر فضیلت اخلاق اور ارتقاء روحانی اور حصول نجات کا راستہ دکھایا۔ پھر وہی ہے جس نے انسان کی اس کی حقیقی قدر و قیمت سے آنکھوں کی۔ جو لوگ بھیگران اور اوتار اور ابی اللہ کے سوا کسی کو چاری دریچا تسلیم کرنے پر تیار نہ تھے، ان کو اسی نے بتایا کہ انسان اور تمہارے ہی جیسا انسان آسمانی یا دشائیت کا نامشدہ اور خداوند عالم کا خلیفہ ہو سکتا ہے جو لوگ ہر طاقت انسان کو اپنا خدا بناتے تھے ان کو اسی نے سمجھایا کہ انسان بجز انسان کے اور سمجھو نہیں ہے۔ نہ کوئی شخص تقدس اور حکمرانی اسے آتائی کا پیدائشی حق یہ کہ آیا ہے، اور نہ کسی پر ناپاکی اور مخلوقیت اور غلامی کا پیدائشی داعی گا ہتو ہے۔ اسی تعلیم نے دنیا میں وحدت انسانی اور مساوات اور جبریت اور آزادی کے تجیلات پیدا کیے ہیں۔ تصورات سے آنگے ٹڑھیے۔ آپ کو اس امی کی ریڈز شپ کے عمل تابع دنیا

کے قوانین اور طریقیں اور معاملات میں اس کثرت سے نظر آتیں گے کہ ان کا ثمار مشکل ہو جائے گا۔ اخلاق اور تہذیب، شاستری اور طہارت و نظافت کے کتنے ہی اصول ہیں جو اس کی تعلیم سے نکل کر تمام دنیا میں پھیل گئے ہیں۔ معاشرت کے جو قوانین اس نے بنائے تھے دنیا نے کس قدر ان کی خوشہ چینی کی اور اب تک کیے جا رہی ہے۔ معاشرت کے جو اصول اس نے سمجھے تھے ان سے دنیا میں کتنی تحریکیں پیدا ہوئیں اور اب تک پیدا ہوئے جا رہی ہیں۔ حکومت کے جو طریقے اس نے اختیار کیے تھے، ان سے دنیا کے سیاسی نظریات میں کتنے انقلاب برپا ہوئے اور ہوندے ہیں۔ عدل اور قانون کے جو اصول اس نے وضع کیے تھے انہوں نے دنیا کے عدالتی نظامات اور فاقہ افکار کو کس قدر متاثر کیا اور اب تک ان کی تاثیر خاموشی کے ساتھ جاری ہے۔ جنگ اور صلح اور بین الاقوامی تعلقات کی تہذیب جس شخص نے حمد़اً دنیا میں قائم کی وہ دراصل یہی عرب کا اتمی ہے۔ وہ نہ پہلے دنیا اس سے تاداقت تھی کہ جنگ کی بھی کوئی تہذیب ہو سکتی ہے اور مختلف قوموں میں مشترک انسانیت کی بنیاد پر بھی معاملات ہونے ممکن ہیں۔

انسانی تاریخ کے منتظر میں اس حرمت انگلیز انسان کی ملند و بالا شخصیت انتہی اُبھری ہوئی نظر آتی ہے کہ ابتداء سے کراپ تک کے بڑے سے بڑے تاریخی انسان جن کو دنیا اکابر (Heroes) میں شمار کرتی ہے، جب اس کے مقابلہ میں لاتے جاتے ہیں تو اس کے آگے پوئے نظر آتے ہیں۔ دنیا کے اکابر میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے کمال کی چک دیک انسانی زندگی کے ایک دو شعبوں سے آگے بڑھ سکی ہو۔ کوئی نظریات کا پادشاه ہے مگر عملی قوت نہیں رکھتا۔ کوئی عمل کا پلاسٹیک ہے مگر خاکریں کمزور ہے کسی کے کمالات سیاسی تدبیریک محدود ہیں۔ کوئی محض فوجی ذہانت کا منظہر ہے۔ کسی کی نظر اجتماعی زندگی کے ایک پلپور پرانی زیادہ گہری جمی ہے کہ دوسرے پلپور اوجھل ہو گئے ہیں۔ کسی نے اخلاق اور روحانیت کو لیا تو میثافت و سیاست کو خدا دیا۔ کسی نے میثافت و سیاست کو لیا تو اخلاق و روحانیت کو نظر انداز کر دیا۔ غرض نایخ

میں، ہر طرفے یک رخے پر وہی اُندر آتے ہیں۔ لگر تھا یہی ایک شخصیت ایسی ہے جس میں نام کمالات جمع ہیں۔ وہ خود ہی فلسفی اور حکیم بھی ہے۔ اور خود ہی اپنے فلسفہ کو عملی زندگی میں تمازج کرنے والا بھی۔ وہ سیاسی مدرس بھی ہے، فوجی فلڈر بھی ہے، واسطے قانون بھی ہے، مسلم اخلاق بھی ہے، غربی اور رومنی پیشو ابھی ہے۔ اس کی نظر انسان کی پوری زندگی پر بھیستی ہے اور جھوٹی چھوٹی تفصیلات تک جاتی ہے۔ لحاظ کے اور پیشے کے آواب اور جسم کی صفاتی کے طریقوں سے کہ کہیں القاہی تعلقات تک ایک ایک چیز کے متعلق وہ احکام اور پدایات دیتا ہے، اپنے نظریات کے متعلق ایک مستعمل تہذیب (Civilization) وجود میں لا کر دکھادیتا ہے اور زندگی کے تمام مختلاف پہلوؤں میں ایسا صحیح توازن (Equilibrium) قائم کرتا ہے کہ افراط و تفرط کا کہیں نہ شان نہ نظر نہیں آتا۔ کیا اس جامعیت کا کوئی دوسرا شخص تمہاری نظر میں ہے؟ دنیا کی ڈری ٹری تاریخی شخصیتوں میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں جو کم و بیش اپنے ماحول کی پیدا کردہ نہ ہو۔ مگر اس شخص کی شان سے زیادی تکمیل کے باوجودیں سے ماحول کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا، اور نہ کسی دلیل کے یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ عرب کا ماحول اس وقت تاریخی طور پر ایسے ایک انسان کی پیدائش کا مقتضی تھا۔ بہت بھی تھیں تا ان کو تم جو کچھ کہہ سکتے ہو وہ اس سے زیادہ کچھ نہ ہو گا کہ تاریخی اسباب عرب میں ایک ایسے لیڈر کے ظہور کا تقاضا کرتے تھے جو قبائلی انتشار کو مندا کر ایک قوم بناتا، اور ملائکہ کو فتح کر کے عربوں کی "حاشی فلاں و بیوو کا سامان کرتا۔" یعنی ایسا نہیں پہنچت لیڈر جو اس وقت کی تمام عربی خصوصیات کا حامل ہوتا، ظلم، بیرحمی، خون رینری اور مکرو دغا، غرض ہر ممکن تدبیر سے اپنی قوم کو خوش حال بناتا اور ایک سلطنت پیدا کر کے اپنے پیمانوں کے لیے پھوڑ جاتا۔ اس کے سوا اس وقت کی عربی تاریخ کا کوئی تفاوت نہیں کہ سکتے۔ میگل کے قلقہ تاریخ یا مارکس کی مادی تعبیر تاریخ کے نقطہ نظر سے تم حد سے صد بھی حکم لگا سکتے ہو کہ اس وقت اس ماحول میں ایک قوم اور ایک سلطنت بنانے والا خطا ہر ہونا چاہیے تھا، یا انکا ہر ہونا سکتا تھا۔ مگر میگل یا مارکسی فلسفہ اس واقعہ کی

تو جیہے کیونکرے گا کہ اس وقت، اس ماحول میں ایسا شخص پیدا ہوا جو ہترین اخلاق سکھانے والا، انسانیت کو سنوارنے اور نقوص کا تذکیرہ کرنے والا اور جاہلیت کے ادیام و تعصبات کو منانے والا تھا۔ جس کی نظر قوم اور نسل اور علک کی حدیں تو کر پوری انسانیت پر بھیل گئی۔ جس نے اپنی قوم کے لیے نہیں بلکہ عالم انسانی کے لیے ایک اخلاقی بروجمنی اور تدنی و سیاسی نظام کی بنادی۔ جس نے معاشری معاملات اور سیاست مدن اور میں الاقوامی تعلقات کو عالم خیال میں نہیں بلکہ عالم واقعہ میں اخلاقی بنیادوں پر قائم کر کے دکھایا اور روحانیت و ماوتیت کی ایسی معتقد اور متوزن آمیزش کی جو آج جو حکمت و دانائی کا ویسا ہی شامکار ہے جیسا اس وقت تھا۔ ایسے شخص کو قوم عرب جاہلیت کے ماحول کی پیداوار کہہ سکتے ہو؟

بھی نہیں کہ وہ شخص اپنے ماحول کی پیداوار نظر نہیں کرتا، بلکہ جب بھم اس کے کارناٹ پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمان و مکان کی قیود سے آزاد ہے۔ اس کی نظر دلت اور حالات کی بندشوں کو قدمتی ہوئی صدیوں اور ہزاریوں (Millenniums) کے پردوں کو چاک کرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ وہ انسان کوہر نہ مانتے اور ہر ماحول میں دیکھتا ہے اور اس کی زندگی کے لیے ایسی اخلاقی اور عملی پڑایات دیتا ہے جو ہر حال میں کیساں مناسبت کے ساتھ تھیک تھی ہیں۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کو تاریخ نے پہاڑ کر دیا ہے جن کی قدریت ہم صرف اس جیشیت سے کر سکتے ہیں کہ اپنے زمانے کے اچھے رہنا تھے۔ سب سے الگ اور سب سے فتاوی، وہ ان شہزادیاں کا ایسا رہنا ہے جو تاریخ کے ساتھ حرکت (March) مگر تاہے اور پر دودھ میں ویسا ہی بعدیہ (Modern) نظر آتا ہے جیسا اس سے پہلے دوسرے کے لیے تھا۔

تم جن لوگوں کو فیاضی کے ساتھ "تاریخ بنانے والے" (Makers of History)

کا نقش دیتے ہو وہ تاریخ کے بنائیں ہوئے۔ (Creatures of History) ہیں۔ دراصل تاریخ بنانے والے پوری انسانی تاریخ میں صرف یہی ایک شخص ہے، دنیا کے جتنے بیڈروں نے تاریخ میں انقلاب برپا کیے ہیں، ان کے علاوہ پرستی نگاہ ڈالو یعنی دکھنے کے

ہر ایسے موقع پر پہلے سے القاب کے اسباب پیدا ہو رہے تھے، اور وہ اسباب خود ہی اس القاب کا رُخ اور راستہ بھی معین کر رہے تھے جس کے برپا ہونے کے مفہوم تھے۔ القابی لیڈر نے صرف آناکیا کہ حالات کے اتفاقہ کو قوت سے فعل میں لانے کے لیے اس ایکٹر کا پارٹ ادا کر دیا جس کے لیے ایشیخ اور کام دونوں پہلے سے معین ہوں۔ مگر تاریخ بنانے والوں یا القاب برپا کرنے والوں کی پُردی جماعت میں یہ اکیلا ایسا شخص ہے کہ جہاں القاب کے اسباب موجود نہ تھے وہاں اس نے خود اسباب کو پیدا کیا، جہاں القاب کا مواد موجود نہ تھا وہاں اس نے خود مواد تیار کیا، جہاں اس القاب کی اپرٹ اور عملی استعداد لوگوں میں نہ پائی جاتی تھی وہاں خود اس نے اپنے مطلب کے آدمی تیار کیے، اپنی زبردست شخصیت کو لچکا کر ہزار ہزار انسانوں کے قابل میں آثار دیا اور ان کو دیسیا بنا یا جدیسا وہ بیان اچاہتا تھا، اس کی طاقت اور قوت ارادی نے خود ہی القاب کا سامان کیا، خود ہی اس کی صورت اور توحیت معین کی اور خود ہی اپنے ارادے کے زور سے حالات کی رفتار کو ہوڑ کر اس راستے پر چلا یا جس پر وہ اسے چلانا چاہتا تھا۔ اس شان کا تاریخ ساز اور اس مرتبے کا القاب انگیز نام کو اور کہاں نظر آتا ہے؟

آئیے اب اس سوال پر غدر کیجیے کہ ۱۸۱۰ء میں پہلے کی تاریک دنیا میں، عرب جیسے تاریکہ ترک کے ایک گوشہ میں ایک لکھ بانی اور سوداگری کرنے والے آن ٹپھبادی نبیین کے اندر یک اثنا عالم، آنی روشنی، آنی طاقت اتنے کمالات، آنی زبردست تربیت یافتہ قوییں پیدا ہو جانے کا کمزور نہ فریغ تھا؛ آپ پہتے ہیں کہ یہ سب اس کے اپنے دل و دماغ کی پیداوار تھی۔ یہی کہتا ہوں کہ اگر یہ اسی کے دل و دماغ کی پیداوار تھی تو اس کو خدا کا دعویٰ کرنا چاہیے تھا۔ اور اگر وہ ایسا دعویٰ کرتا تو وہ دنیا جس نے رام کو خدا بتا دالا، جس نے کرشن کو بھگوان فرار دینے میں تأمل نہ کیا، جس نے بدھ کو خوب خود معبود بنایا۔ جس نے مسیح کو آپ اپنی مرضی سے ابن اللہ مان لیا، جس نے آگ اور پانی

اور ہو انک کو پوچ ڈالا، وہ ایسے زبردست پاکال شخص کو خدامان لینے سے کبھی انکار نہ کرتی۔ مگر وہ بھجو، وہ خود کی کپڑہ رہا ہے۔ وہ اپنے کمالات میں سے ایک کا کر ٹریٹ بھی خود نہیں لیتا۔ کہتا ہے میں ایک انسان ہوں، تمہیں جیسا انسان۔ میرے پاس کچھ بھی اپنا نہیں۔ سب کچھ خدا کا ہے اور خدا ہی کی طرف سے ہے۔ یہ کلام جس کی تغیری لانے سے تمام نوع انسان عاجز ہے میرا کلام نہیں ہے، میرے دماغ کی قابلیت کا تیجہ نہیں ہے، فقط بفقط خدا کی طرف سے میرے پاس آیا ہے اور اس کی تعریف خدا ہی کے ہے۔ یہ کارنلے جو میں نے دکھاتے، یہ قوانین جو میں نے وضع کیے، یہ اصول جو میں نے تمہیں سمجھاتے، ان میں سے کوئی چیز بھی میں نے خود نہیں کھڑی ہے۔ میں کچھ بھی اپنی ذاتی قابلیت سے بیش کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ ہر ہر چیزیں خدا کی رہنمائی کا محتاج ہوں۔ ادھر سے جوا شارہ ہوتا ہے وہی کرتا ہوں اور وہی کہتا ہوں۔

ویکھو یہ کسی حیرت انگیز صداقت ہے کہ کسی امانت اور راستبازی ہے۔ جھوٹا انسان تو ٹرپ لینے کے لیے دوسروں کے ایسے کمالات کا کر ٹریٹ بھی سیئنے میں تامل نہیں کرتا جن کے اصل مأخذ کا پتہ بآسانی چل جاتا ہے۔ لیکن یہ شخص ان کمالات کو بھی اپنی طرف نسب نہیں کرتا جن کو اگر وہ اپنے کمالات کہتا تو کوئی اس کو جھٹلانہ سکتا تھا، کیونکہ کسی کے پاس ان کے اصل مأخذ تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ سچائی کی اس سے بیاؤ۔ کھلی ہوئی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس شخص سے زیادہ سچا اور کون ہو گا جس کو ایک نہایت مخفی ذریعہ سے لیے ہے جسے تغیر کمالات حاصل ہوں، اور وہ بلا تکلف اپنے اصل مأخذ کا حوالہ دے دے؟ بتاؤ کیا وجہ ہے کہ ہم اس کی تصدیقی نہ کریں؟

ترجمان القرآن، شوال ۱۴۰۷ھ، جنوری ۱۹۸۷ء

---

# استیاغ و اطاعت رسول

دری مضمون مولانا حافظ محمد اسماعیل صاحب جیراچپوری کی کتاب "تعلیمات قرآن" پر تقدیر کے سلسلہ میں لکھا گیا تھا،

صاحب تعلیمات قرآن نے رسالت اور اس کے احکام کی تشریع کرتے ہوئے جن خیالات کا انٹہار کیا ہے وہ میرے تزویک رسالت کے اس تصور سے موافق نہیں رکھتے جو قرآن پیش کرتا ہے لکتاب کے صفحہ ۵۰ پر فاضل مؤلف نے لکھا ہے:

وَاصْرُلِ قَانُونَ مِرْتَ اللَّهُكَ الْكَلْبُكَ الْكَلْبُكَ

رَأَتِيْعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ      جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے  
مِنْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَتَبَعُوا مِنْ      اور پتا تارا گیا ہے اسی کی پیروی کرو  
دُوْنِهِ أُولَيَاءَ - (اعراف: ۳)

جملہ منوالبطاسی کی رعشی میں باہمی مشورہ سے بنائے جائیں گے:-

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَنِيَّهُمْ - امداد کی حکومت آپس کے مشورے

(شوری: ۱۳۸) سے ہے:-

یہاں مؤلف نے بیچ میں سے اسوہ رسول کو صفات اڑا دیا ہے۔ ان کی تجزیہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے اصول لے کر مسلمان باہمی مشورہ سے تفصیل قوانین وضع کر لیا کریں۔ لیکن ان دونوں کڑیوں کے درمیان سلسلہ کی ایک اور کڑی بھی بھتی جس کو خود اللہ تعالیٰ نے اس زنجیر میں پورست کیا تھا۔ وہ کڑی یہ ہے:

قُلْ إِنَّ كَنْتُمْ تَحْيِيُونَ اللَّهَ      اسے محمدؑ کہو کہ اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو  
فَإِنَّمَا يُحْيِي بَنَادِلَةً - رَأْلَ مُحَمَّدَ (۳۷)      تو میری پیروی کرو خدا تم سے محبت کر لیجاؤ۔  
اس میں کوئی شک نہیں کہ اصول قانون قرآن ہی ہے، مگر یہ قانون ہمارے

پاس بلا واسطہ نہیں بھیجا گیا ہے بلکہ رسول خدا کے واسطہ سے بھیجا گیا ہے۔ اور رسول کو دریافتی واسطہ اس یہے بنایا گیا ہے کہ وہ اصولی قانون کو اپنی اور اپنی امت کی حملی زندگی میں نافذ کر کے ایک نمونہ پیش کر دیں، اور اپنی خدا و اوصیت سے ہمارے یہے وہ طریقہ تعمین کر دیں جن کے مطابق ہمیں اس اصولی قانون کو اپنی اجتماعی زندگی اور انفرادی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے پس قرآن کی رو سے صحیح ضابطہ یہ ہے کہ یہے خدا کا بھیجا ہوا قانون، پھر خدا کے رسول کا بنایا ہوا طریقہ، پھر ان دونوں کی روشنی میں ہمارے اولی الامر کا اجتہاد۔

آطِيْعُوا اللَّهَ وَآطِيْعُوا الرَّسُولَ  
وَأَدْلِيْ إِلَيْهِ مِثْكُمْ فَإِنْ تَنَاهُ عَنْهُمْ  
فِي شَيْءٍ فَرَدْوَهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ  
وَالنَّاسُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ رَجُوعٌ كَوْنَهُمْ

اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان اولی الامر کی جو تم میں سے ہوں پھر اگر تمہارے درمیان کسی بات میں نزاع ہو تو اس میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ اگر مسلمانوں کے درمیان نزاع اور اختلاف واقع ہو تو حکم ہے کہ خدا اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ اگر موجود صرف قرآن مجید ہو تو صرف فردودہ ای اللہ کہنا کافی تھا لیکن اس کے ساتھ فالرسوی بھی کہا گیا ہے جس میں صفات اشارہ ہے کہ قرآن کے بعد رسول کا طریقہ تمہارے یہے موجود ہے۔

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا إِبْلَاغُ  
رَسُولُونَ كَمَا وَرَأَوْنَ  
وَمَا عَلِمْنَا إِلَّا إِبْلَاغُ الْمُبِينِ  
رَبِّنَسْ : ۱۰۱ .

اس کے بعد مؤلف نے صفحہ ۱۰۸ پر لکھا ہے:-  
وَهُوَ بِغَامِ بِنْجَادِیں۔

اگرچہ چل کر صفحہ ۱۰۵ پر لکھتے ہیں:-  
اوْرَجَيْتَ مِنْهُ بِرِسَالَتِ رَسُولٍ كَمَا فِيْهِ صِرْفٌ بِنْجَامِ الْهَنِیِّ كَمَا تَبَيَّنَ هُوَ أَوْرَسْ

**إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا ابْلَاغٌ رَاشِدٌ لَهُمْ** تیرے اور پر صرف تبلیغ ہے۔

**فَإِنْ تَوْلِيهِمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا** اگر تم نے منہ پھیر لیا تو ہمارے رسول پر

**الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔** راتتفعین: ۱۲

**فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا** تجوہ پر پہنچانا ہے اور ہمارے اوپر حساب

**الْحِسَابُ۔** دارالعد: ۳۰

یہاں مؤلف نے آیات کے سیاق و سباق اور فحولتے کلام کو نظر انداز کر کے رسول کی حیثیت کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ گویا وہ محض ایک نامہ برپا انعوف باللہ تعالیٰ کا ہر کارہ ہے۔ لیکن اگر وہ ان جملوں کو ان عبارات کے سیاق و سباق سے ملا کر ڈرختے جن میں یہ دارد ہوتے ہیں تو انہیں خود معلوم ہو جاتا کہ وہ اصل یہ جو کچھ کہا گیا ہے یہ بھی پر ایمان لانے والوں نہیں بلکہ ان کا انکار کرنے والوں سے لعلی رکھتا ہے جو لوگ رسول کی تعلیم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے، اور بار بار رسول کو جھبڑاتے

تھے، ان سے کہا گیا ہے کہ رسول کا کام تک ہمارا پیغام پہنچا دینا ہے تو اس نے پہنچا دیا۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس کوئی رہنمائیں نہیں پہنچا گی، صاحب امت  
**مِنْ بَشِّيرٍ قَلَّا نَذِيرٌ رَّالْمَآدَهٖ ۚ ۱۹:** اب خدا پر تہاری کوئی جدت نہیں رہی، لہلہ  
یکجگہ لیٹتا ہیں علی اللہ حجۃ بعد الرسل رالفساد: ۱۹۵) اب تم نہ مانو گے تو اپنا کچھ بگاڑو گے، فہم کفر بعد ذلک مشکر فقد صل سو اور استبیل۔

**رَالْمَآدَهٖ ۚ ۱۰۶:** اسی سلسلہ میں رسول اللہ سے بھی فرمایا گیا ہے کہ تم ان کافروں کی روگوانی سے دل گرفتہ کیوں ہوتے ہو؟ تم ان پر داروغہ نہیں بناتے گئے ہو۔ تمہارے پردوخ خدمت کی لگتی ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ ان کے سامنے بیدھارا متہ پیش کرو، سو وہ تم نے پیش کر دیا۔ اب یہ بات کہ اس راستے پر آتے ہیں یا نہیں تو اس بارے میں کوئی ذمہ داری تم روپنہیں۔ تمہارا یہ کام نہیں کہ ان کو کھینچ کر اس راستہ کی طرف لاو۔ اگر وہ تمہاری تعلیم و تبلیغ سے منہ موڑ کر ٹیکھے راستوں پر چلتے ہیں تو ان کے اس فعل کی کوئی باز پُرس تم سے نہ ہوگی۔ سفات آخر حصہ اور مسلمانوں علیہم حفیظاً۔

إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا أُنْبَلَاغٌ مِّنَ الْشُّورِيَّةِ (۱۰) فَذَكِّرْ إِنَّمَا اتَّمَتْ مُذَكَّرَتَ عَلَيْهِ

بِعَصَيْطِرٍ رَانِغَاشِيرٍ (۲۲، ۴۱)

پس بے کچھ کفار کے مقابلہ میں ہے۔ رہے وہ لوگ جو اسلام مقبول کر لیں اور امت مسلمہ میں داخل ہو جائیں، تو ان کے لیے رسول کی حیثیت محسن پیغام بخواہی نہیں دالے کی نہیں ہے، بلکہ رسول ان کے لیے معلم اور مرتب بھی ہے، اسلامی زندگی کا نمونہ بھی ہے اور ایسا امیر بھی ہے جس کی اطاعت ہر زمانے میں بے چون و چراکی جانی چاہیے۔ معلم کی حیثیت سے رسول کا کام یہ ہے کہ پیغامِ الہی کی تعلیمات اور اس کے قوانین کی تشریح و توضیح کرے رَوَيَ عَلَيْهِمْ أَنِّي كَتَبْتَ وَأَنِّي حَكَمْتَهُ، (باقہ: ۳۷) اس کا کام یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات اور قوانین کے مطابق مسلمانوں کی تربیت کرے اور ان کی زندگیاں اسی ساتھ میں ڈھانے (وَيَزِكُّهُمْ نَحْنُ نَحْنُ ہونے کی حیثیت سے اس کا کام یہ ہے کہ خود قرآنی تعلیم کا عملی مجسمہ بن کر دھانے، تاکہ اس کی زندگی اس زندگی کی تحریک ٹھیک تصویر پر ہو چوکتاً بِاللَّهِ كَتَبَ مقصود کے مطابق ایکہ مسلمان کی زندگی ہونی چاہیے، اور اس کے ہر قول اور ہر فعل کو دیکھو کہ معلوم ہو جائے کہ زبان کو اس طرح استعمال کرنا، اور اپنی قولوں سے یوں کام لینا، اور دنیا کی زندگی میں ایسا برہنا و رکھنا کتابِ اللہ کے مقصود کے مطابق ہے، اور جو کچھ اس کے خلاف ہے وہ مذہب ائمہ کتاب کے خلاف ہے رَلَعْدَكَانَ لَكُمْ فِي الرَّسُولِ إِنَّمَا أَسْوَدُكَ حَسَنَةٌ (بخاری: ۲۱) اور وَمَا يُنْطِقُ عَنِ الْهُوَى إِنَّ هُوَ إِلَّا ذُجَّى (بخاری: ۲۲، ۴۱)۔ اس کے ساتھ ہی رسول کی حیثیت مسلمانوں کے امیر کی بھی ہے۔ ایسا امیر نہیں (بخاری: ۲۲، ۴۱) جس سے نزارع کی جاتے، بلکہ ایسا امیر جس کے حکم کو بے چون و چرا ماننا ایسا ہی فرض ہے جیسا قرآن کی آیات کو ماننا فرض ہے وَقَاتُ تَنَازُعَتِهِ فِي شَيْءٍ فَدَدَدَهُ إِلَى اللَّهِ (بخاری: ۲۲، ۴۱) اور وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (بخاری: ۲۲، ۴۱) ایسا امیر نہیں جو صرف اپنی زندگی ہی میں امیر ہوتا ہے، بلکہ ایسا امیر جو قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کا امیر ہے جس کے احکام مسلمانوں کے لیے ہر زمانہ اور ہر حال میں مرجح ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کی حقیقی آیات اور پرپیش کی گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی زمانہ کے ساتھ مقید نہیں ہے، اس

غصونخ ہے۔

مولف نے منصبِ رسانی کے ان مراتب کو سمجھنے میں تین بہت بڑی غلطیاں کی ہیں:

(۱) پہلی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے بعض آیات کا غلط مفہوم لے کر رسول کا کام صرف تبلیغ (یعنی نامہ بری) میں محدود کر دیا۔ حالانکہ رسول کی مبلغانہ حیثیت صرف اس وقت تک ہے جب تک کہ لوگ داخلہ اسلام میں داخل نہ ہوں، اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رسول کی تعلیم کو الجھی قبول نہ کیا ہو۔ رہے وہ لوگ جو اسلام قبول کر کے اقتدار مسلمہ میں داخل ہو جائیں، تو ان کے لیے رسول کی حیثیت مغض مبلغ کی نہیں ہے بلکہ وہ ان کا میڈر ہے، فرمائی رواج ہے، متفق ہے، معلم ہے، مرتب اور واجب التقدید (منورہ) ہے۔

(۲) مولف کی دوسری غلطی اسی پہلی غلطی کے تتجدد میں پیدا ہوتی ہے۔ جب انہوں نے رسول کو مسلمانوں اور غیر مسلموں، سب کے لیے مغض مبلغ قرار دے لیا تو ان کو یہ زحمت پیش آئی کہ قرآن میں جو رسول کو مسلمانوں کے لیے معلم اور مرتب اور نمونہ قرار دیا گیا ہے اس کا کیا مفہوم معین کیا جاتے۔ آخر کار انہوں نے رسول کی ان سب حیثیات کو تبلیغ ہی کے ضمن میں شامل کر دیا، اور اس تبلیغ پر پہنچ گئے کہ مبلغانہ حیثیت کے ماسوا آئی حضرت کی زندگی کے اور جتنے پہلو ہیں وہ سب آپ کی شخصی (پر امیویٹ) حیثیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ:

”آیت دَمَا يُنْطِقُ عِنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا ذِي يُوحَى وَمَنْ يَعْمَلْ مَا يَعْمَلُ“  
 دینا کہ رسول اللہ جو کچھ کلام کرتے تھے وہ سب کا سب وحی تھا صیحہ نہیں ہے۔  
 یعنی کہ وحی کی قرآن کے وحی ہونے کا تھا جس کا کفار انکار کرتے تھے۔ اس کے  
 بازے میں کہا گیا کہ جو کچھ وہ بولتے ہیں وحی ہے۔ گھر یا ازواج مطہرات یا پابرج  
 دیگر حضرات سے جو لفظ کو فرماتے تھے اس کے متعلق نہ وحی ہونے کا دعویٰ تھا  
 ”کفار کو کوئی بحث نہیں“

اس تقریر کو جب ہم موت کی ان عبارتوں کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں جن میں کہا گیا ہے، کہ رسول کا کام صرف پیغام اہلی کی تبلیغ ہے اور اس، اور رسول کی اطاعت کا فہم یہ ہو اکہ اللہ کا پیغام جودہ لا یا ہے اس پر عمل کیا جاتے، احمد بیہ کہ "ہمارے رسول صرف اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے مبلغ تھے، تو اس سے موت کا مدعایا پر معلوم ہوتا ہے کہ محمد بن عبد اللہ بن عبید اللہ بھیتیت انسان کے درمیان فرق کر دیں۔ رسول ہونے کی حیثیت سے آنحضرت قرآن کی جو تعلیم دیں اور قرآن کے مطابق جو احکام دیں، وہ تو موت کے نزدیک سمع و اطاعت کے مستحق ہیں، مگر بھیتیت انسان آپ کے اقوال و افعال ویسے ہی ہیں جیسے ایک انسان کے ہوتے ہیں۔ ان کا خدا کی طرف سے ہونا اور خلافت و گراہی سے پاک ہونا موت کے نزدیک مسلم نہیں ہے، اور نہ جناب موت کے اندر امتحنہ مسلم کے یہے کوئی قابل تعلیم نہونہ پاتے ہیں۔

لیکن یہ تفرقی جو انہوں نے محمد بن عبد اللہ بھیتیت انسان اور محمد رسول اللہ بھیتیت مبلغ کے درمیان کی ہے، قرآن مجید سے ہرگز ثابت نہیں۔ قرآن میں آنحضرت کی ایک ہی حیثیت بیان کی گئی ہے اور وہ رسول و شیعی ہونے کی حیثیت ٹھہرے ہے جسی وقتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصبِ رسالت سے صرف ارزکیا اس وقت سے لیکر حیاتِ جماں کے آخری سانس تک آپ ہر آن اور ہر حال میں خدا کے رسول تھے۔ آپ کا ہر فعل اور ہر قول رسول خدا کی حیثیت سے تھا۔ اسی حیثیت میں آپ مبلغ اور معلم بھی تھے، مرتبی اور مفرکی بھی تھے، قاضی اور حاکم بھی تھے، امام اور امیر بھی تھے، حتیٰ کہ آپ کی بھی اور خاندانی اور شہری زندگی کے سارے معاملات بھی اسی حیثیت کے تحت آگئے تھے، اور ان تمام حیثیتوں میں آپ کی پاک زندگی ایک انسان کا مل اور مسلم قانت اور مومن صادق کی زندگی کا ایسا

لہ ایک شخص کو شبہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے آزادی کا اسلامی تصور کے زیر عنوان جو کچھ ہم کہہ آئتے ہیں، یہ بات اس کے خلاف ہے مگر یہ شبہ اس کتاب کے صفحہ ۳۷۸ (اور ۴۰۰) کو بغور پڑھنے سے خود بخود رفع ہو جاتے گا۔

نبوة تھی جس کو حق تعالیٰ نے ہر اس شخص کے لیے بہترین قابلٰ تقلید نبوة قرار دیا تھا جو اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أَسْوَأُّهُؤُّهُ حَسَنَةٌ مِّنْ كَانَ يَرْجُوُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ دعا خاپ: ۲۱، قرآن مجید میں کہیں کوئی خفیت سے خفیت اشارہ بھی ایسا نہیں مقابلاً جس کی بنابر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت رسالت اور حیثیت انسانی اور حیثیت امارت میں کوئی فرق کیا گیا ہو۔ اور یہ فرق کیسے کیا جاسکتا ہے؟ جب آپ خدا کے رسول تھے تو لازم تھا کہ آپ کی پوری زندگی خدا کی شریعت کے ماختت ہو، اور اس شریعت کی نمائندہ ہو، اور آپ سے کوئی ایسا فعل اور کوئی ایسی حکمت صادر نہ ہو جو خدا کی رضائی کے خلاف ہو۔

اسی بات کی طرف سورہ والنجم کی ابتدائی آیات میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ما ضَلَّ صَاحِبُكُفَّارَ وَمَا يَغُوِيْ "تمہارا صاحب لعیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ بدراہ ہو، نہ گراہ ہو،" وَمَا يَنْطِقُ عَنِ النَّهَوِیْ اور جو کچھ کہتا ہے ہو اسے نفس کی بنابری نہیں کہتا "إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى" اس کی بات کچھ نہیں ہے مگر وحی جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ عَلَّمَهُ سَتِيرِ دِيدُ القُوَّى "اس کو ایسے اُنٹادی نے تعلیم دی ہے جس کی قوتیں ٹبری زبرد ہیں" جناب مؤلف فرماتے ہیں کہ ان آیات میں محض قرآن کے وحی ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے جس کا کفار انکار کرتے تھے۔ لیکن مجھے ان آیات میں کہیں کوئی خفیت سما اشارہ بھی قرآن کی طرف نظر نہیں آتا۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى میں ہو کی ضمیر نطق رسول کی طرف پھر تی ہے جس کا ذکر وَمَا يَنْطِقُ عَنِ النَّهَوِیْ میں کیا گیا ہے۔ ان آیات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی بنابری نطق رسول کو صرف قرآن کے ساتھ مخصوص کیا جاسکتا ہو پر وہ بات جس پر نطق رسول کا اطلاق کیا جاسکتا ہے، آیات مذکورہ کی بنابر وحی ہو گی اور ہو اسے نفس سے پاک ہو گی۔ یہ تصریح قرآن میں اسی یہے کی گئی ہے کہ رسول کو جن لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہے ان کو رسول کے بدراہی اور گراہی اور ہو اسے نفس سے محفوظ ہونے کا کامل اطمینان ہو جائے اور وہ جان لیں کہ رسول کی ہریات خدا کی طرف سے ہے۔ ورنہ اگر کسی ایک بات میں بھی یہ شبہ ہو جائے کہ وہ خواہشِ نفس پر

بنی ہے اور خدا کی طرف سے نہیں ہے تو رسول کی رسالت پر سے اعتماد اٹھ جاتے کفار  
اسی چیز کے منکر تھے وہ سمجھتے تھے کہ نبوز باللہ رسول کو جزو نہ ہے، یا کوئی آدمی اس کو  
پڑھتا تھا، یا وہ اپنے دل سے باقیں بنائے کرتا ہے۔ حق تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائے  
اس غلط خیال کی تردید کی ہے اور صفات الفاظ میں فرمایا ہے کہ نہ تمہارا صاحب بدراء  
ہے نہ گراہ ہے اور نہ خواہشِ نفس کی بنیار کچھ کہتا ہے۔ اس کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے  
حق نکلتا ہے جو خاص ہماری طرف سے ہے اور اس کو کوئی انسان یا جن یا شیطان نہیں  
پڑھتا بلکہ وہ معمتم سبق و نیسا ہے جو شدید القوی ہے یہی بات خود رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمائی کہ فَوَاللَّهِ الْعَزِيزُ  
مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَثَاثٌ اس ذات پاک کی قسم جس کے پانچھیں میری جان ہے، اس سے  
جو کچھ نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے۔

اس سے ہے کہ صاحبِ تعلیماتِ قرآن کو اس حقیقت سے انکار ہے وہ  
فوتے ہیں کہ "آنحضرت اپنے گھر میں ازدواجِ مطہرات سے یا باہر دیگر حضرات سے جو  
گفتگو فرماتے تھے اس کے متعلق نہ دھی ہوتے کا دعویٰ تھا نہ کفار کو کوئی بحثِ حقیٰ نہیں  
کہتا ہوں کہ آنحضرت جس وقت جس حالت میں جو کچھ بھی کرتے تھے رسول کی حیثیت سے  
کرتے تھے۔ سب کچھ حلال و حرام اور ہوتے نفس سے پاک تھا۔ اللہ نے جو فطرت  
سلیمانہ آپ کو عنایت فرمائی تھی، اور تقویٰ و پاکیزگی کے جو حدود آپ کو تباہ کئے تھے، آپ  
کے تمام اقوال و افعال اسی فطرت سے صادر اور انہی حدود سے محدود ہوتے تھے۔  
ان کے اندر تمام عالم انسانی کے لیے ایک قابل تقلید نہونہ تھا، اور ہم انہیں سے یہ معلوم  
کر سکتے ہیں کہ کیا چیز جائز ہے اور کیا ناجائز، کوئی چیز حرام ہے اور کوئی حلال، کوئی  
باقیں حق تعالیٰ کی رضاکے مطابق ہیں اور کوئی اس کے خلاف ہیں، کن امور میں ہم کو  
راتے اور اجتہاد کی آزادی حاصل ہے اور کن امور میں نہیں ہے، کس طرح ہم اطاعت  
امر کریں، کس طرح شوریٰ سے معاملات حل کریں اور کیا معنی ہیں، کمارے دینے میں  
جمہوریت کے

(۳) مؤلف کی تیسری بڑی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی حیثیت امارت کو حیثیت رسالت سے الگ کر دیا ہے جس کا ثبوت قرآن میں نہیں ہے۔ وہ لکھتے ہی کہ "احادیث بحیثیت رسول اور احادیث بحیثیت امیر میں دو باتوں کا فرق ہے۔

(۴) بحیثیت رسالت رسول اللہ کو کسی سے مشورہ لینے کا حکم نہ تھا بلکہ فرعون تبلیغ اللہ کی طرف سے آپ کے ذمہ لازم کیا گیا تھا، یا یعنی الرَّسُولُ يَلْعَنُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنَّ لَهُ لِنَفْعٍ فَمَا أَنْذَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فَمَا يَأْتُكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَمَا يُنْهَا رُوحٌ إِلَّا مَنْ شَاءَ رَبُّهُمْ فِي الْأَهْرَافِ رَأَى عَرَانِي (۱۵۹)

(۵) بحیثیت رسول آپ کی احادیث قیامت تک فرض ہے کیونکہ قرآن پہیشہ کے لیے ہے۔ لیکن بحیثیت امیر آپ کی احادیث بالآخرتی یا آئیها الَّذِينَ أَمْتُوا أَطْيَعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا كُوْنُوا عَنْهُ وَلَا نَدِرَّ لِمُعْوَنَ (۱۶۰) اور امارت کے فرائض پہیشہ منکاری ہوں گے کیونکہ زمانہ کے ساتھ ساتھ ماحول بھی بدلتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اچھے جو امیر ہو کا وہ غزوہ بدر واحدی متابعت میں صرف نیزہ دشمنی سے جہاد میں کام نہ کے بلکہ موجودہ زمانے کے اسلام استعمال کرے گا۔ امراء کے مقابلہ میں منازعہ کا حق حاصل ہے۔ یا یعنی الَّذِينَ أَمْتُوا أَطْيَعُوا اللَّهَ وَأَطْيَعُوا الرَّسُولَ فَأُولَئِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ زالہی (۱۶۱)

یہ سب کچھ قرآن کے نتائج کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ مؤلف نے یہ نہیں سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بنا تے ہوتے امیر نہیں تھے، نہ خود ہیں مجھے تھے، بلکہ خدا کے مقروہ یکے ہوتے امیر تھے۔ آپ کی امارت آپ کی رسالت سے الگ نہ تھی۔ دراصل آپ رسول اللہ ہوتے کی حیثیت سے ہی امیر تھے۔ بلکہ صحیح یہ ہے کہ آپ امیر نہیں بلکہ نامور من الشرف۔ مؤلف نے اسی حقیقت کو نہیں سمجھا اس لیے رسول اللہ کی حیثیت امارت کو عام

امراء کی حیثیت امارت سمجھ دیا۔

اپنے اس خیال کی تائید میں مؤلف نے قرآن کی جن آیات سے استدلال کیا ہے ان کو بھی وہ تحسیک نہیں سمجھے ہیں بلکہ شیخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، مگر وہ اس یہے تھا کہ آپ اپنی اقتضت کے لیے مشاورت کا فونڈ پیش کریں اور خود اپنے عمل سے جمہوریت (Democracy) کے صحیح صلب کی طرف رہنمائی کریں۔ اس سے یہ توجیہ نکالنا درست نہیں ہے کہ آپ کی حیثیت دوسرے امراء کی سی ہے۔ دوسرے بے امراء کے لیے تو یہ قانون مقرر کیا گیا ہے کہ وہ مشورہ سے کام کریں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ تَبَيَّنَ كُلُّهُمْ رَاشُورَىٰ (آل عمران: ۳۴) اور یہ کہ اگر شورہ میں نہ اعْدَمْ کریں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ تَبَيَّنَ كُلُّهُمْ رَاشُورَىٰ (آل عمران: ۳۵) اور تو وہ خدا اور رسول کی طرف رجوع کریں، قَاتِلْ شَارِعُّمْ فِي شَيْءٍ، فَكُوْرُدُوْهُ إِلَيْهِ ادْلِيْهُ وَالرَّسُولُ إِلَيْهِ اسنا: وَهـ ایکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں مشورہ لینے کا حکم دیا گیا ہے وہیں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جب آپ کسی بات کا غرض فرمائیں تو خدا آپہ بھروسہ کر کے عمل کا اقدام فرماتیں، فَإِذَا أَخْرَجْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (آل عمران: ۹۶) اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ مشورہ کےحتاج نہ تھے بلکہ آپ کو شہادت کا حکم صرف اس یہے دیا گیا تھا کہ آپ کے مبارک بالتوں سے ایک صحیح جمہوری طرز حکومت کی بنیاد پڑ جائے۔

رسی یہ بات کہ امیر کی حیثیت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف آپ کے عہد تک تھی، تو یہ بھی غلط ہے اور جس آیت سے استدلال کیا گیا ہے اس سے یہ فہم نہیں لکھتا۔ مؤلف نے قَاتِلْ شَارِعُّمْ سے یہ سمجھا ہے کہ اطاعت رسول کا حکم صرف ان لوگوں کو دیا گیا تھا جو اس وقت اس حکم کو سن رہے تھے یعنی اگر وہ سرہ انفال کو تبدیل سے پڑھتے تو ان کو معلوم ہونا تماکر وہاں مقصور ہی کچھ اور ہے۔ ابتدا میں فرمایا گیا ہے کہ أَطْبِعُوا اللَّهَ دَرْسُوكُلُّهُ اشْرُكُنُّمْ مُؤْمِنُّمْ (الفآل: ۱۱) اگر تم ایمان کتے ہو تو نہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر ان لوگوں کو دیا گیا ہے جو رسول اللہ کی دعوت چھاؤ پڑوں میں کڑھتے تھے پھر زرا یا گیا ہے کہ وَمَنْ يُشَارِقْنَ الَّهَ فَرَسْ عَوْا لَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَاب۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑا کرتا ہے اسے معلوم ہو جائے  
 کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس کے بعد یہ ارشاد ہوتا ہے کہ یا کیا ایسا الَّذِينَ  
 اَمْنُوا اَطَبَعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلُّوْا عَنْهُ وَإِنْتُمْ تَسْمَعُونَ۔<sup>(الْقَاتِلُونَ ۲۷)</sup> اس آیت میں  
 اور پچھلی تمام آیات میں رسول کے ساتھ اللہ کی اطاعت کا ذکر بار بار کیا گیا ہے جس سے  
 پیا در دل ان مقصور ہے کہ رسول کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہے۔ پھر ہر حکم کے نظر میں  
 آیا ہے۔ امیر کا لفظ کسی حکم بھی استعمال نہیں کیا گی، احمد رحمانی مخفی سے مخفی اشارہ ایسا  
 موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہو کہ یہاں رسول اللہ سے مراد رسول کی ایسی امیرانہ حکیمت  
 ہے جو رسالت سے مختلف ہو۔ پھر رسول کے حکم سے منہ مورث نے کو منع کیا گیا ہے جس پر  
 سخت عذاب کی دھمکی اور پردی جا چکی ہے۔ اس کے بعد وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ کرنے کا  
 غثاء صاف یہ ہے کہ تم ہمارے ان تاکیدی احکام کو سنتے ہوئے ہمارے رسول کی طاقت  
 سے کبھی ممنونہ نہ موردو۔ اس آنکھ کے مخاطب صرف وہی لوگ نہیں ہیں  
 جو اس وقت موجود تھے، بلکہ قیامت تک جو لوگ ایمان کے ساتھ قرآن کو سنیں گے  
 ان سب پر لازم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ان کو پہنچے اس کے اسکے تسلیم  
 ختم کر دیں۔

اور یہ جو مؤلف نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض  
 امارت اسی طرح ہنگامی ہی جس طرح دوسرا بے امراء کے ہوا کرنے ہیں۔ لیکن نکہ آج  
 ہم جہاد میں پدر و آحد کی طرح نیروں شریش سے نہیں فرستے، تو یہ بہت ہی عجیب بات  
 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد میں جن اسلکہ سے کام لیا وہ اسلام تو  
 حزور ایک خاص ماحول سے تعلق رکھتے تھے، لیکن حضور نے اپنی طریقوں میں جو اخلاقی  
 خوابط برستے تھے اور جن ضوابط کو برستے کی پدایت فرمائی تھی وہ کسی عہد کے لیے مخصوص

---

لئے اسے ایمان لانے والوں اطاعت کر واللہ کی اور اس کے رسول کی، اور رسول کے حکم سے  
 منہ نہ موردو جبکہ قسم دیتے ہو۔

نہ تھے، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے بیٹے ایک دائمی قانون جنگ بنادیا ہے شرعی نقطہ نگاہ سے یہ سوال اہمیت نہیں رکھتا کہ آپ تو اس استعمال کرتے ہیں یا نہ دوقی یا توپ۔ بلکہ اہمیت اس سوال کی ہے کہ آپ اپنے اسلام کی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کس طرح ان سے خوزیزی کا کام بیٹے ہیں۔ اس باب میں جو نمونہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غزوہات میں پیش فرمایا ہے وہ ہمہ شیعہ کے اسلامی جہاد کا ایک مکمل نمونہ ہے اور معنوی حیثیت سے سرور عالم قیامت تک کے بیٹے ہر مسلمان فوج کے سالار اعظم ہیں۔

موقوفت نے امارت اور رسالت میں ایک فرق اور بھی بیان کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے امراء سے نزاع اور اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیرانہ حیثیت ویسی ہی ہے جیسی دوسرے امراء کی ہے۔ تو کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کسی مسلمان کو نزاع کا حق حاصل تھا؟ جس امیر کے مقابلہ میں آواز بلند کرنے تک کی اجازت نہ تھی، اور جس کے مقابلہ میں بعض اوپھی آواز سے بولنے پر تمام عمر کے اعمال غارت ہو جانے کی وحکی وی گئی تھی (درجات) اور جس سے جھگڑا کرنے والے کو دوزخ میں جھونک دیتے جانے کا خوف دلایا گیا تھا (الشام: ۱۷) کی اس امیر سے منازعہ کرنے کا حق کسی مسلمان کو حاصل نہ ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کہاں اس امیر کی امارت اور کہاں ان امراء کی امارت جن سے منازعہ کا حق مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔

موقوفت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت امارت اور عام امراء کی حیثیت امارت میں قطعاً کوئی انتباہ نہیں رکھا ہے، حتیٰ کہ ان تمام احکام کو جو اطاعت رسول سے متعلق ہیں، اطاعت امیر کے احکام قرار دے دیا ہے صفحہ ۱۵۱ کے حاشیہ میں لکھتے ہیں۔

وَ اللَّهُ أَوْرُسُولُكَ الْفَاظُ قُرْآنُ میں اکثر جہاں جہاں ساتھ ساتھ آتے ہیں ان سے مراد امارت ہے جس کا قانون کتاب اللہ ہے اور جس کے نافذ کرنے والے رسول اللہ یا ان کے جانشین ہیں۔ مثلاً يَسْلُونَكَ عَنِ الْأَنْقَالِ

فِلَ الْأَنْقَالُ بِنَّهِ وَالرَّسُولُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ غَيْرِهِ كَمَا حَكَمَ عَنْ دُرُسَاتِكَ  
مَحْدُودَةً تَخَابَكَهُ أَنْدَهُ كَمَّهُ يَسِيَّهُ جَمِيَّهُ كَمَا تَعْصِيمَ خَلَافَتَ كَمَا فَرَغَيْهُ هَيَّهُ  
پھر فَإِنْ شَاءَ عَتَّمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُودَةً إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ كَمَا مَتَعْلَقَ صَفْرَهُ ۱۵۰  
(النَّاس: ۵۹)

پر حاشیہ لکھتے ہیں :

”آخر انتیار اللہ در رسول یعنی امارت ہے اسی لیے رسول اللہ کا جو  
منصبِ حیثیت امیر کے ہے وہی ان کے خلفاء کا بھی ہو گا۔  
یہ حق سے صریح تجاوز ہے۔ قرآن مجید میں اطاعتِ خدا، اطاعتِ رسول اور  
اطاعتِ اولی الامر کے تین مراتب بیان کیے گئے ہیں۔ اطاعتِ خدا سے مراد قرآن  
مجید کے احکام کی اطاعت ہے، اطاعتِ رسول سے مراد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم  
کے قول اور عمل کی پیروی ہے اور اطاعتِ اولی الامر سے مراد مسلمانوں کے امراء اور  
اربابِ حل و عقد کی اطاعت ہے۔ پھرے دونوں مراتب کے متعلق قرآن میں ایک جگہ  
نہیں بلکہ اس امر کی تصریح کی گئی ہے کہ خدا اور رسول کے احکام میں کسی چون و  
چرا کی گنجائش نہیں ہے مسلمانوں کا کام منتا اور اطاعت کرنا ہے۔ خدا اور رسول کے  
فیصلہ کے بعد کسی مسلمان کو یہ اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ اپنے معاملہ میں خود کو اپنے فیصلہ  
کرے۔ رہا تیرا مرتبہ تو اس کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت خدا اور  
رسول کے احکام کے تابع ہے، اور نزاع کی صورت میں خدا اور رسول کی طرف رجوع  
کرنا لازم ہے۔ ایسے صاف اور بھتے احکام کے موجود ہوتے ہوئے اس کی قطعاً  
کوئی گنجائش نہیں ہے کہ خدا اور رسول سے مراد امارت ملی جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وسلم کے منصبِ امارت کو اس امارت کے ساتھ ملا دیا جاتے جو مسلمانوں کے حامی مراد  
کو حاصل ہے۔ اس معاملہ میں فِلَ الْأَنْقَالُ بِنَهِ وَالرَّسُولُ سے جو استدلال کیا گیا ہے  
وہ صحیح نہیں ہے۔ اموالِ غیرت کے خدا اور رسول کے لیے ہیں، کہنے کا مدعایہ ہے کہ خدا  
اور رسول نے اسلامی جماعت کا جو فیض فاتحہ کیا ہے اس کے مصالح میں یہ غنائمِ حرب  
کیے جائیں۔ اس سے یہ مطلب کہاں تکتا ہے کہ اللہ اور رسول سے مراد امارت ہے۔

حدیث کے متعلق مؤلف کا مسلک | حدیث کے متعلق مؤلف نے قریب قریب وہی مسلک اختیار کیا ہے جو تنگین حدیث کے ایک پڑے گروہ کا مسلک ہے۔ وہ لکھتے ہیں یہ:

”تَعْلِيمُهُ كِتَابٌ كَأَيْكَ شَعْبَرٍ يَهُجِّي تَحَاكُرَ رَسُولٍ اَسْ كَأَهْكَامٍ رَّعْلَكَرَكَ دَكْهَاوَسَتَنَكَرَ اَمْتَ اَسِي نَمُونَهُ پَرَعَالِ ہُوَجَاتَنَهُ“

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ تَهَارَسَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ اَنَدَرَ أُسُوَّةً حَسَنَةً - (احزاب: ۴۱) اچھا نمونہ ہے۔

چنانچہ ہمارے رسول نے جلد احکام قرآن مشکل نماز، روزہ، حج، زکوہ وغیرہ پر عمل کر کے دکھلا دیا اور مسلمان اسی نمونہ پر عمل کرنے لگے۔ یہ اسوہ حسنة امت کے پاس عمل محتوا تک شکل میں موجود ہے، جس کے مطابق رسول اللہ کے عہد سے نہ لائے بعد نہ لیں وہ عمل کرتی چلی آتی ہے۔ اس لیے یہ یقینی اور دینی ہے۔ اس کی مخالفت خود قرآن کی مخالفت ہے:

”وَسَرِيْ جَنَگَهُ مَوْلَفُ نَهَىْ لَخَاهَهُ“

”وَغَيرِيْقِينِيْ شَهَهُ كَادِينَ مِنْ كَچَهُ دَخَلَنَهُنَّ“

ان عبارات اور مؤلف کی ان تصریحات سے جو اور پر بیان ہو چکی ہیں ان کا مسلک واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ:

(۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدالتی فیصلے اور وہ قوانین جو آپ نے میاں چنگی، اور تمدنی و اجتماعی امور میں امیر قوم کی حیثیت سے نافذ کیے تھے، اس اسوہ رسول کی تعریف سے خارج ہیں جس کی پیرادی کا حکم عام قرآن میں دیا گیا ہے، لہذا ان کی اب ضرورت نہیں رہی، کیونکہ امارت کے فرائض مہنگا میں ہیں اور زمانہ کے ساتھ ساتھ با حول بھی بدلتا رہتا ہے۔

(۲) صرف ان امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل وہ کہ قول (قابل تقلید) ہے جو عبادات اور دینی اعمال سے قلع رکھتے ہیں۔ اور جن میں آخرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے قرآنی احکام پر عمل در آمد کرنے کی صورت خود را پسے عمل سے بتا دی ہے۔  
دسمبر، مؤلف کے نزدیک صرف وہ عمل متواتر لقینی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے اب تک جاری ہے، اور جس کی پیرادی ہر نسل اپنے سے پہلی نسل کو دیکھ کر کرتی رہی ہے۔ رہیں وہ روایات جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال کے متعلق احادیث میں دار و ہوتی ہیں، تو وہ لقینی نہیں ہیں اور دین میں ان کا کچھ دخل نہیں۔

ان میں سے پہلی دونوں یا توں کے متعلق میں تلحیث کے ساتھ کہتا ہوں کہ قرآن کے بالکل خلاف ہیں۔ قرآن میں کوئی خفیت سے خفیت اشارہ بھی ایسا نہیں ملتا جس کی بناء پر یہ حکم نکلتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محض ذہبی اعمال ہی دامت قابل تقید ہیں، وہ ہے تدبی و اجتماعی امور میں آپ کے فیصلے اور آپ کے نافذ کردہ قوانین، تو وہ صرف اس عہد کے لیے مخصوص تھے جس عہد میں وہ نافذ یکے گئے تھے۔ اگر ایسی کوئی آیت قرآن میں ہو جس سے ان دونوں قسم کے اعمال میں فرق کیا جاسکتا ہو اور دونوں کے احکام مختلف قرار دیئے جاسکتے ہوں تو اس کو پیش کیا جاتے ہیں مجھ کو تو قرآن میں صفات حکم یہ ملتا ہے کہ

کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی امر میں فیصلہ کر دے، تو ان کو اپنے معاملہ میں خود کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار رہاتی رہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی ناخداںی مثل صنلا لاشنیٹا کرے گا وہ حکلی مگر ابھی میں مبتلا ہو گا۔	وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا فَقِيَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمَا لِحِيَةٌ مِنْ أَحْرَاهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ هَلَّ حَلَالًا لَهُمْ
---	--

(راہب: ۳۶)

اس آیت میں زمانہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ مومن اور مومنہ سے خاص عہدات کے مومن مرد و عورت مراد نہیں یہیے جاسکتے۔ امرًا کا نقطہ نہاد عالم ہے جو ہر قسم کے معاملات پر حادی ہے، خواہ وہ دینی ہوں یا دنیوی۔ اللہ اور رسول سے مراد اللہ

اور رسول ہی ہیں، "امارت" ہرگز نہیں ہے، لیکن کہ امیر یا اولی الامر بہر حال مومن ہی ہو گئے اور یہاں تمام مومنین و مومنات سے یہ حق سلب کر دیا گیا ہے کہ خدا اور رسول نے جس معاملہ کا فیصلہ کر دیا ہوا س میں انہیں مجتمعاً یا منفردًا خود فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار باقی رہے پھر فرمایا گیا ہے کہ "جو اس کے خلاف عمل کرے گا وہ محلی گراہی میں مبتلا ہو گا" یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کی ہدایت سے اس کے رسول نے اپنے احکام اور اپنے قوانین سے اسلامی جماعت کا جو نظام قائم کر دیا ہے، اس کا قیام مخصوصی اس پر ہے کہ جو احکام جاری کر دیتے گئے ہیں اور جو قوانین ناقذ کر دیتے گئے ہیں ان کی تھیک تھیک پیروی کی جاتے۔ اگر خدا اور اس کے رسول کی قولی اور عملی رہنمائی سے قطع نظر کر کے لوگ خود اپنی رائے اور اپنے اختیار سے کچھ طریقے اختیار کریں گے تو یہ نظام باقی نہ رہے گا اور اس نظام کے ٹوٹتے ہی تم راہ است سے بھٹک کر بہت دُور تک جاؤ گے۔ تعجب ہے کہ جس قرآن میں ایسی صفات اور صریح ہدایت موجود ہے اس کی تعلیمات لکھنے والے نے وہ مددک اختیار کیا ہے جو آپ ابھی سُن آتے ہیں۔

ری تیسری بات، تو اس کے متعلق میں نے اپنے خیالات تفصیل کے ساتھ اپنے مضمون "حدیث اور قرآن" میں بیان کیے ہیں۔ اس بیان ان کے دہراتے کی ضرورت نہیں۔ البتہ میں جناب مولت سے صرف یہ سوال کروں گا کہ اگر کوئی شخص ان تمام بدعاات و خرافات کو جو آج مسلمانوں کی مذہبی زندگی میں رائج ہو گئی ہیں، وہ "یقینی حکیم متواتر" قرار دے جو رسول اللہ کے عہد سے نسلتا بعد نسل چلا آرہا ہے اور اس بنابر ائمہ دا خل دین سمجھے، تو آپ کے پاس کونسا ایسا یقینی ذریعہ ہے جس سے آپ یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ عمل رسول اللہ کا نہیں ہے بلکہ بعد کے لوگوں کی ایجاد ہے؟ آپ فرمائیں گے کہ ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کریں گے اور اس کی آیات سے ان بدعاات کی تردید کریں گے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے آیات قرآنی کے معانی کی جو تبصیر ہوتی ہے اس کو نظر انداز کرنے کے

بعد آیات کی تاویل میں ایک بدعت پسند انسان اتنی گنجائش نکال سکتا ہے کہ اس کی بہت سی بدعتوں کی تردید مشکل ہو جائے گی۔ دوسرے اگر آپ نے قرآن سے اس کی بدعات کی تردید کر بھی دی تو یہ اس کے اس دعویٰ کی تردید نہ ہوگی کہ یہ وہی تلقینی عمل متواتر ہے جو رسول اللہ کے چہد سے نہ لے بعد نسل چلا آ رہا ہے آپ اپنے مذکور کے مطابق اس عمل کو غیر تلقینی کہہ نہیں سکتے اور آپ تاریخ سے بھی رجور و ایات کی طرح غیر تلقینی ہی ہوئی چاہیے، یہ استدلال نہیں کر سکتے کہ یہ بدعات عہدِ رسالت میں نہ تھیں، بلکہ فلان عہد میں جاری ہوئیں۔ اب صرف یہی صورت رہ جاتی ہے کہ آپ ان کو تلقینی مان لیں، پھر یا تو ان کی پیروی کریں یا یہ فیصلہ کرویں کہ عمل رسول تعلیم قرآن کے خلاف تھا معلوم نہیں کہ فاضل مؤلف اور ان کے ہم خیال حضرات کے پاس اس پیشیدگی کا کیا حل ہے؟

”ترجمان القرآن“ رجب شہر۔ اکتوبر ۱۹۷۳ء

# رسول کی حیثیت شخصی و حیثیت نبوی

اس کتاب کے دو مضمونیں آزادی کا اسلامی تصور اور اتباع و اطاعت رسول کا عربی ترجمہ مشق کے رسالہ "المسلمون" میں شائع ہوا تھا۔ اس پر شام کے اہل علم حضرات نے مصنف کو توجہ دلانی کہ ان دونوں مضمونیں میں کچھ تعارض محسوس ہوتا ہے جسے رفع کرنے کی ضرورت ہے یہ نیر مشق کے ایک صاحب نے مقدمہ اذکر مضمون پر حسب ذیل اغراض بھی کیا۔

"کیا محمد علیہ الفضیلۃ والسلام باعتبار انسان ہمارے اندر ایک عام فرد کی حیثیت رکھتے ہیں؟ اور باعتبار انسان ان کے اندر بھی الیسی ذاتی خواہشات پائی جاتی ہیں جن کی بتا پر وہ لوگوں پر اپنی ذاتی غلطت کا سکھ جائیں اور اپنے شخصی اقتدار کے پنجے میں جکڑیں؟ اگر یہ صورت ہے تو آپ کا حیثیت نبی مصوم ہونا اور حیثیت انسان محفوظ ہونا چہ معنی دارد؟ آپ کی اس زندگی کی تفصیلات کیا فائدہ رکھتی ہیں جب کہ آپ محض انسان تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت پر سرفراز نہیں فرمایا تھا؟ اور کیا رسول ہونے کے بعد آپ کی یہ حیثیت حیثیت پیری اور حیثیت نبوی میجا ہو گئی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ اور کیا ان دونوں حیثیتوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا جا سکتا ہے؟ تاکہ محمد رسول کی اطاعت کی جاتے اور محمد انسان کی مخالفت میں ہم آزار ہوں؟ کیا اس لفظی کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ بھی موجود ہے جس کی روشنی میں ہم آپ کے انسانی کلام جس سے اختلاف کا ہمیں حق ہے۔ اور نبوی کلام۔ جو اجنبی اطاعت ہے۔ کے درمیان خط انتیاز کھیپ سکیں؟ کیا نبی کی ذاتی راستے سے اختلاف کرنے میں کوئی چیز مانع نہیں ہے؟ کیا

محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اندر یہ روح پھونکتے تھے کہ حیثیتِ انسان آپ کی اطاعت واجب نہیں ہے، بلکہ اپنی ذاتی راستے سے اختلاف کرنے میں ان کی بہت افزائی کرتے تھے ہی نیز کیا یہ درست ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی حجت اور دلیل کی بناء پر آپ نے حیثیتِ انسان اختلاف کیا تھا...؟ ذیل کامضمون انہی اقتراضاًت کے جواب میں لمحہ اگیا تھا۔

”الملعون“ جلد ششم، شمارہ ۶۵، ۷ اور ۸ میں میرے جو مضمونیں ”آزادی کا اسلامی تصور“ اور ”ابتداع و اطاعت رسول“ کے عنوان سے شائع ہوتے ہیں، ان کے متعلق مجھے توجہ دلائی گئی ہے کہ ان میں شاقض محسوس ہوتا ہے، جسے رفع کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی پہلے مضمون میں تو کہا گیا ہے کہ نبی کی حیثیت شخصی اور حیثیت نبی الگ الگ ہیں اور اسلام کی صرف حیثیت نبی کی اطاعت کی طرف ہے نہ کہ حیثیت شخصی کی اطاعت کی طرف۔ لیکن دوسرے مضمون میں اس بات سے انکار کیا گیا ہے کہ نبی کی یہ دو حیثیتیں الگ الگ ہیں اور پورے احرار کے ساتھ کہا گیا ہے کہ نبی کی ایک ہی حیثیت بھی اور وہ تھی صرف نبی ہونے کی حیثیت۔ ان دونوں باتوں میں توفیق و تطبیق کی کیا صورت ہے، علاوہ پریں میرے پہلے مضمون ”آزادی کا اسلامی تصور“ پر مشق سے ایک صاحب نے کچھ سوالات کیے ہیں، جو المسلمون کے شمارہ ۷ میں درج ہوتے ہیں۔

یہ دونوں اقتراضاًت پونکہ ایک دوسرے سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ایک ہی مختصر مضمون میں ان کا جواب دے رہا ہوں۔

در اصل اس مشکل کے دو پہلو میں ایک نظری، اس اعتبار سے کہ حقیقت نفس الہی کیا ہے؟ دوسرے عملی، اس لحاظ سے کہ جہاں تک نبی کی ذات سے ہدایت اخذ کرنے کا تعلق ہے، آیا وہ ہمارے لیے پورا کا پورا بانی اور صرف نبی ہے یا ہم اس کی شخصیت کو دو حصوں میں تقسیم کر کے صرف اس کی حیثیت نبی کا ابتداع اور اسی کی اطاعت کیجئے اور حیثیت شخصی کو چھوڑ دیں گے؟

اب پہلے نظری پہلو کو مجھے قرآن مجید اس معاملہ میں بالکل واضح ہے کہ انہیں

عیامہ اس کی بیشتر شخصی اور حیثیتی نبھی میں فرق ہے سوہ انسانوں کو اپنا بندہ بنانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بنانے کے لیے بھی جاتے ہیں ملکان پیشہ رائون یوں ہے اللہ اکیتہ قائل حکمر و المعنیۃ ثمر نیقول لِقَاتِیْسُ کُو فَعَا عَبَادَیْلِ مَنْدَدَتِ اللَّهُ وَلَکِنْ کُو فَوَارِبَیْتَیْنُ، کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم فوجت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ توبی ہے کہ کا کہ سچے ربانی بنو۔ آں عمران آیت ۲۹، ان کے پرو دو فریضے ایک یہ کہے جاتے ہے ایک یہ کہ لوگوں کو ہر غیر اللہ کی بندگی سے نکالیں جس میں دوسرا سب خلوقات کے ساتھ ان کی پہنچی ذات بھی شامل تھی۔ دوسرے یہ کہ ان کو صرف ایک اللہ کی بندگی میں داخل کریں۔

وَلَمَّا دَعَهُ بَعْثَنَا فِي مُكْلَلٍ أُمَّةً تِيْهَةً  
رَسُولُ اللَّاهِ إِنْعِيدُوا اللَّاهَ وَاجْتَنِبُوا  
الظَّاءُوتَ (وائل: ۳۶)

بہنے ہر قوم میں یکی رسول بھیجا دیے چکا ہے  
کہ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے  
انگر ہو۔

اے بنی ہبہ کو کسے اہل کتاب باز ایک ایسی بآئی  
کی طرف جو ہمارے انتہیا سے درمیان کیاں گے  
یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اس کے  
ساتھ کسی کو شرکیہ نہ پھر رکیں اور ہم میں سے  
کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنارب نہ رکایے۔

فُلْ مَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى  
مَكْرِمَةِ سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ الْأَنْعَدُ إِلَّا  
إِنَّ اللَّهَ وَلَا شُرُكَّهُ يَعْلَمُ شَيْئًا وَلَا يَتَحَذَّرُ  
بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَاعًا مِنْ دُونِ اللَّهِ  
دَأَلْ عمران: ۲۴

وین میں ان کی بے چون وچرا اطاعت کا جو حکم دیا گیا، وہ ان کے ذاتی احتجاق کی نیچے نہیں بلکہ صرف اس بنا پر تھا کہ رسول ہی وہ شخص ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی حرضی خاپر فرماتا اور اپنے احکام بھیجا ہے۔ اسی وجہ سے رسول کی اعتمادت میں اللہ کی اطاعت فرمادی گئی ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا يَطَّعَ مَنْ أَنْتَنَ اللَّهُدُدا مِنْهُمْ بَلْ جُوْرِلْ بَھِی بَھِی بَھِی اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن اگلی ایامت کی میتے اور مَنْ تُبَطِّعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جُوْرِلْ رسول کی میتے اگلی اللہ کی میتے

اس کے ساتھ یہ امر بھی قرآن اور بکثرت احادیث نے سمجھا ہے کہ جو ماتھیں

صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہیں بلکہ اپنی رائے سے کی یا کہی ہے اس میں بے چون پڑا اطاعت کا وہ مطالبہ آپ نے کبھی نہیں کیا جو امر الہی کے تحت کوئی کام کرنے یا کوئی بات کہنے کی صورت میں کیا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں میں نے اپنے مصنفوں "آزادی کا اسلامی تصور" میں پیش کی ہیں۔ خصوصاً حضرت زید کا حضور کے منح فرمانے کے باوجود سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دینا اور اللہ اور اس کے رسول کا ان پر کوئی نکرہ کرنا تو اس کی صریح مثال ہے، جس کی کریٰ توجیہ اس کے سوا نہیں کی جاسکتی جو میں نے اپنے اس مصنفوں میں کی ہے۔ اور نما پیر نخل والے معاملے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مستکے کو بالفاظ صریح فرمائچکے ہیں۔

میں بھی ایک انسان ہی ہوں، جب میں تم کو تھارے دین کے متعلق کوئی حکم دوں تو اسے ماو اور جب میں اپنی رائے سے کچھ کہوں تو بس میں بھی ایک انسان ہی ہوں۔ میں نے اندازہ سے ایک بات کہی تھی۔ تم میری ان باتوں کو نہ کو، جو گمان اور رائے پر مبنی ہوں۔ میں جب میں خدا کی طرف سے کچھ بیان کرو تو اس کو لے لو، اس لیے کہ میں نے خدا پر کبھی جھوٹ نہیں باندھا۔ تمہیں اپنے دینوی معاملات کا زیادہ علم ہے۔

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمْرَتُكُمْ بِشَيْءٍ  
مِّنْ دِينِكُمْ فَخَذُوا بِهِ إِذَا أَمْرَتُكُمْ  
بِشَيْءٍ مِّنْ رَأْيِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ  
إِنَّمَا ظَنَنتُ فَهْنَا فَلَا تُؤْمِنُوا بِهِ  
بِالظَّنِّ وَلَكُنْ أَذَا حَدَّثْتُكُمْ مِّنْ  
أَنَّ اللَّهَ شَيْءًا فَخَذُوا بِهِ فَإِنَّمَا لَهُ  
أَكْذِبُ بِعَلَى اللَّهِ — أَنْتُمْ أَعْلَمُ  
بِأَمْرِ دُنْيَا كُمْ (صحیح مسلم، کتاب  
الْفَضَائِلِ، بَابُ وُجُوبِ اِمْتِشَانِ مَا  
قَالَهُ شَرِعًا دُونَ مَا ذَكَرَهُ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَعَايِشِ  
الدُّنْيَا عَلَى سَبِيلِ الرَّايِ)

یہ تو ہے نظری اور اصولی فرق۔ اب اس کے عمل پہلو کو بیجے۔

در اصل یہ ایک بُرانا زک اور پحمدہ معاملہ تھا کہ ایک بشر کو اللہ تعالیٰ اپنا واحد نمائندہ بنایا کر انسانوں کے درمیان اس دوسری خدمت پر ماور فرمائے کہ ایک طرف

کو وہ بشر اپنے ابنا تے نوع کو اپنی شخصیت سمجھت تمام مخلوقات کی بندگی سے آزاد کرے اور خود اس آزادی کی انہیں تربیت دے، اور دوسری طرف وہی بشران سے اللہ کی مکمل بیے چون وہچڑا اطاعت کرائے اور اس اطاعت کا مرجع بھی تمام عملی اغراض کے لیے اس بشر کی اپنی ہی ذات میں جیسے الرسول ہو۔ یہ دو تضاد کام ایک ہی شخصیت کو بیک وقت کرنے تھے اور ان کے حدود ایک دوسرے کے ساتھ اتنے گتھے ہوتے تھے کہ خود اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی دوسرا ان کے درمیان خطاطیار نہ کچینخ سکتا تھا۔

اس معاملہ کی نزاکت اور پیغمبر کی اور پڑھ جاتی ہے جب ہم نہیں باقتوں پر خود کرتے ہیں۔

اول یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت احکام الہی کے تحت اپنی اطاعت کراتے تھے اس وقت تو ظاہر ہی ہے کہ آپ ایک وظیفہ رسالت انجام دیتے تھے مگر جس وقت آپ اپنے اتھاں اطاعت گزار تبعین کو خود اپنی فاتح کی ذہنی غلامی سے آزاد کر کے حریت فکر و راستے کی تربیت دیتے تھے، جب آپ ان کو اپنی شخصیت اور کے مقابلے میں اختلاف کی سہیت والا کر تمام انسانوں کے سامنے استقلال فکر برداشت سکھاتے تھے، اور جب آپ اپنی حیثیت شخصی اور حیثیت نبوی میں خود ایک خطاطیا کچینخ کرتا تھے کہ یہاں تم آزاد ہو اور یہاں تمہارے پیسے سمح و طاعت کے سوا چارہ نہیں ہے، اس وقت بھی وہ اصل آپ وظیفہ رسالت ہی کا ایک حصہ ادا فرماتے تھے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر سچا رے یہے آپ کی حیثیت شخصی اور حیثیت نبوی کے فرق کو سمجھنا اور عملًا ان دونوں حیثیتوں میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہاں یہ دونوں حیثیتوں ایک دوسرے سے اس طرح میں جعلی نظر آتی ہیں کہ ان کے درمیان صرف نظری فرق رہ جاتا ہے، عملًا اپنی شخصی حیثیت میں بھی کام کرنے وقت آپ نبوت ہی کا ایک کام کرتے پاتے جاتے ہیں۔

ٹھاٹیا، جو معاملات بظاہر بالکل شخصی معاملات ہیں، مثلاً ایک انسان کا کھانا

پہنچا، کچھ سے پہنچا، نکاح کرنا، بیوی پچول کے ساتھ رہنا، بھر کا کام کا جگہ کرنا، غسل اور حملات اور رفع حاجت وغیرہ، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں خالص نبی نعمت کے معاملات نہیں ہیں، بلکہ انہی میں شرعی حدود اور طریقیں اور آداب کی تعلیم بھی ساتھ مانگتے ہیں اور آدمی کے پیسے خود یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ان میں کہاں حیثیتِ راست ختم ہوتی ہے اور حیثیت شخصی شروع ہو جاتی ہے۔

مماٹ، قرآن مجید ہمیں بتاتے ہے کہ نبی کی ذات حیثیت مجموعی ایک اسوہ ہے جس کا ہر پہلو اور ہر رُخ ہمیں پرداخت کی روشنی دیتا ہے اور اس ذات کا کوئی فعل اور قول بھی ہو اسے نفس یا اضلاع اور غواہت سے ذرہ برابر بھی آکرہ نہیں ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ تَهَارَ سَعَىٰ يَسِيَّرَ اللَّهُكَرَمَّ رَسُولُ اللَّهِ أَسْوَأُهُمْ حَسَنَةً دَلَّابَاتٍ ۚ

وَدَرَوْيَةٍ حَسَنَةٍ دَلَّابَاتٍ ۚ

۲۱۔ دالاخاب:

اسے نبی ہم نے نہیں لوگوں کے لیے گواہ کیا ایسا ہم تھے اور شانست اور شانست دینے والا اور دُرانے والا اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والا اور ایک روشن چانع بنایا ہے۔

تمہارا صاحب رحمتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہنیز ہوا اور نگراہ ہوا۔ اور جو کچھ وہ کہتا ہے ہوا نفس کی بنار نہیں کہتا۔ اس کی بات کچھ نہیں ہے

مگر یہی جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَنْزَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّصَّيِّرًا وَّنَذِيرًا وَّدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَنَسِرًا أَجَانِيْرًا ۚ

۵۷۔ دالاخاب:

مَا أَنْتَ لَصَاحِبِ الْكِبْرِ وَمَا عَنِيْتِ وَمَا يُنْسِطِقُ عَنِ الْمُهَوِّيِّ، إِنْ هُوَ إِلَّا دَجْنَبٌ دُوْجَنٌ ۚ

۳۰، ۲۹، ۲۸۔ دالنجم:

ان وجہ سے نہ تو عملہا ہمارے لیے یہ ممکن ہے اور نہ شرعا ہم اس کے مجاز ہیں کہ بطور خود نبی کی حیثیت شخصی اور حیثیت نبوی میں فرق کریں اور آپ ہی آپ اس کے حدود میں کریں، اور خود پر یہ بھی طے کر لیں کہ فلاں امور آپ کی حیثیت نبوی کے تحت تھے جن میں ہم آپ کی اطاعت کریں گے اور فلاں شخصی حیثیت میں تھے، جن میں ہم آپ کی اتباع بھر اطاعت سے آزاد ہیں۔ اس فرق کے معلوم ہونے کا درجیہ یا تو خود رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی کوئی تصریح ہو سکتی ہے، یا پھر وہ اصول شرعیت جو آپ ہی کی دی ہوئی توجیمات سے مستنبط ہوں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ مصحابہ کرام اپنی ذاتی رائے ظاہر کرنے سے پہلے آپ سے دیافت کر لیتے تھے کہ آپ کا ارشاد یا عمل حکم اپنی کی بنیاد پر ہے یا اپنی ذاتی رائے پر، اور جب معلوم ہوا تھا کہ وہ آپ کی ذاتی رائے سے ہے تو وہ اپنی بات عرض کرتے تھے۔ چنانچہ غزوۃ بدرا میں حضرت جب اپنی المقدار نے اپنی رائے پیش کرنے سے پہلے پوچھ دیا کہ اس مقام کا انعام و حجی کے درجے کیا گیا ہے جس سے اس کے بڑھنا یا پچھے ٹہننا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یا یہ محض ایک تدبیر چیز کے طور پر ہے؟ اسی طرح غزوۃ خندق میں حضرت سعد بن معاذ نے بتی غلط فان حضور صرف اپنی رائے سے ایسا کرنا چاہتے ہیں؟

اور بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ ظاہر فرمادیتے تھے کہ فلاں بات آپ اللہ کی طرف سے ایک حکم دینی کے طور پر نہیں فرماتے ہیں بلکہ اپنی شخصی رائے ظاہر فرماتے ہیں، جیسا کہ اوپر تابیر نجف کے معاملہ میں حضور کے ارشادات گزر چکے ہیں اور بعض اوقات معاملہ کی نوعیت ہی ایسی ہوتی تھی جس سے خود بخود یہ ظاہر ہوتا تھا کہ حضور کا ارشاد اپنی شخصی حیثیت میں ہے۔ مثلاً حضرت زیدؑ سے آپ کا فرمانا کہ آمسِک علیک رَوْجَدَتْ وَأَتْقَى اللَّهُ رَأْيَابْدَ (آنپی ہوئی کو طلاق نہ دو اور اللہ سے ڈر نہ اس ارشاد کے متعلق یہ بات ظاہر بھتی کریں ایک مرد کو نبی کا حکم شرعی نہیں ہے بلکہ ایک خاندان کے فرد کو بزرگ خاندان کا مشورہ ہے۔ یعنی وجہ سے حضرت زیدؑ نے حضور کے ارشاد کے باوجود حضرت زینبؓ کو طلاق دی اور اللہ اور اس کے رسول کے اس پر کوئی نکرہ نہ کرنے سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت زیدؑ نے آپ کے فرمان کی نوعیت صحیح مثبت کی تھی۔

یہ تواریخ مثالیں ہیں جو حضور کی حیاتِ طیبیہ میں پیش آئی تھیں۔ ان کے علاوہ متعدد معاملات ایسے ہیں جن میں اب بھی اصول شریعت کی روشنی میں اس فرق کو معنوں کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً حضور کے لباس اور آپ کے لباس کے معاملہ کو بحیے اس کا ایک پہلو قویہ تھا کہ آپ ایک خاص وضع اور قطع کا لباس پہنتے تھے جو عرب میں اس وقت پہننا جاتا تھا اور جس کے انتخاب میں آپ کے شخصی ذوق کا دخل بھی تھا۔ اسی طرح آپ دہی لکھانے کھلتے تھے جیسے آپ کے عہد میں اہل عرب کے گھروں میں پہنچتے تھے اور ان کے انتخاب میں بھی آپ کے اپنے ذوق کا دخل ہوتا تھا۔ دوسرا یہ پہلو تھا کہ اسی لکھانے اور پہنچنے میں آپ اپنے عمل اور قول سے شریعت کے حدود اور اسلامی آداب کی تعلیم دیتے تھے۔ اب یہ بات خود حضور ہی کے سلکھاتے ہوئے اصول شریعت سے ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ ان میں سے پہلی چیز آپ کی شخصی حیثیت سے تعلق رکھتی تھی اور دوسری چیز حیثیت نبویہ سے، اس لیے کہ شریعت نے جس کی تعلیم دینے کے لیے آپ اللہ کی طرف سے مأمور کیے گئے تھے، انسانی زندگی کے اس معاملہ کو اپنے دائرہ میں نہیں لیا ہے کہ لوگ اپنے لباس کس تراش خراش اور وضع قطع پر سوائیں، اور اپنے کھلنے کس طرح پکائیں، البتہ اس نے یہ چیز اپنے دائرہ عمل میں لی ہے کہ لکھانے اور پہنچنے کے معاملے میں حرام اور حلال جائز اور ناجائز کے حدود متعین کرے اور لوگوں کو ان آداب کی تعلیم دے جو اہل ایمان کے اخلاق و تہذیب سے مناسبت رکھتے ہیں۔

یہ فرق خواہ ہم کو حضور کی تصریح سے معلوم ہو یا آپ کے سلکھاتے ہوئے اصول شریعت سے، بہر حال اس کے علم کا ذریعہ نبی کی تعلیم ہی ہے۔ گویا ہم آپ کی حیثیت شخصیہ کے کام کو متعین کرنے کے لیے بھی آپ کی حیثیت نبویہ ہی کی طرف رجوع کریں گے۔ حیثیت شخصیہ سے براہ راست ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے جو آپ کی حیثیت نبویہ کو نظر انداز کر کے ہم کر سکتے ہوں۔ یہی وہ چیز ہے جس پر میں نے اپنے دوسرے مضمون ”اتباع و اطاعت رسول“ میں منکریں ملت کو متنبیہ کیا ہے۔ ان کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ وہ محمد بن عبد اللہ باعتبار رسول اور محمد بن عبد اللہ باعتبار انسان میں خود تفریق کر کے ان

دونوں حیثیتوں کے کاموں میں ایک خط اختیاز کھینچ دیتے ہیں اور آپ کی زندگی کے جس دائرے کو وہ خود آپ کی حیثیت رسالت سے الگ سمجھ رہی ہیں، اس کے اتباع و اطاعت سے خود ہی انہوں نے آزادی اختیار کر لی ہے۔ حالانکہ حضور کی شخصی اور نبوی حیثیتوں میں حقیقت کے اعتبار سے جو بھی فرق ہے وہ عند اللہ و عند رسول ہے اور سبھی اس سے صرف اس لیے آگاہ کیا گیا ہے کہ ہم کہیں عقیدے کی گمراہی میں بتلا ہو کر محمد بن عبد اللہ کو اللہ کے بجالتے مطابعِ حقیقی نہ سمجھ سمجھیں۔ لیکن اقتدار کے لیے تو عملًا آپ کی ایک ہی حیثیت ہے اور وہ ہے رسول ہونے کی حیثیت جتنی کہ محمد بن عبد اللہ کے مقابلے میں اگر ہم کو آزادی حاصل بھی ہوتی ہے، تو وہ محمد رسول اللہ کے عطا کرنے سے ہوتی ہے اور محمد رسول اللہ ہی اس کے حدود متعین کرتے ہیں اور اس آزادی کے استعمال کی تربیت بھی ہم کو محمد رسول اللہ ہی نے دی ہے۔

ان توضیحات کے بعد اگر میرے دونوں مضمونوں کو ملاحظہ کیا جاتے تو کوئی غلط فہمی باقی نہیں رہ سکتی۔

# رسالت اور اُس کے احکام

میرے مضمون "اتباع و اطاعت رسول" کو دیکھ کر میرے دوست چودہی غلام احمد پرویز صاحب نے اپنے ایک طویل مراحلہ میں حسب ذیل خیالات کا اظہار کیا ہے:

..... لیکن مجھے آپ کی وَمَا يُسْطِقُ عَنِ الْهَوْيِ کی تفسیر سے کچھ اختلاف ہے۔ آپ نے لکھا ہے:

"جس وقت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت پر سرفراز کیا اس وقت سے پیکر حیات جہانی کے آخری سانس تک آپ ہر آن اور ہر حال میں خدا کے رسول تھے۔ آپ کا ہر فعل اور ہر قول رسول خدا کی حدیثت سے تھا۔" پھر دوسری جگہ آپ لکھتے ہیں:

"آنحضرت جس وقت جس حال میں جو کچھ کرتے تھے رسول کی حدیثت کرتے تھے"

اس کا مقصد واضح ہے کہ حضور کا ہر قول و فعل من جانب اللہ ہوتا تھا۔ اور حدیثت رسول صادق فرماتے گی بنابر امت مسلمہ کے لیے واجب الاطاعت۔

اس کے متعلق یہاں صرف دو ایکہ اشاروں پر اکتفا کروں گا۔ پہلے تو قرآن کریم کو لیجئے۔ آپ کو متعدد ایسے امر میں گئے جن میں حضور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تہذید و تاویب ہوئی ہے۔ مثلاً آپ نے ایک قسم کا شہد کھانے سے قسم کھالی تو ارشاد ہوا:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُخْرِمُ مَا أَحَلَّ آسے بغی جس کو اللہ نے تمہارے لیے

اللَّهُ أَكَبَ زَكْرِيمٌ (۱)

حلال کیا ہے اسے تم حرام کیوں  
کرتے ہو۔

ظاہر ہے کہ اگر حضور کا شہد کو اپنے اور حرام کر لینا خدا کی جانب سے تھا  
تو خدا اس پر مقرض کیوں ہوا؟

دوسری جگہ ہے:

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَا ذَنَتْ لَهُمْ  
آسے تھی قدلانے نم سے درگز کیا، نہ نے  
انہیں کیوں اجازت دے دی تھی؟  
(روہ: ۲۰۶)

اب اگر حضور کا اجازت دے دینا ازروتے وحی تھا اور یہ فعل خدا کے  
رسول کی حیثیت سے تھا تو اس پر وحی بھیجنے والے نے تہذیب کیس یا فرمانی؟

اسی طرح عَبَسَ وَتَوَلَّ أَنْ جَاءَكُمُ الْأَعْمَى (عیں)، اگر حضور کا پیشانی  
مبارک پریلے آنار یہ حیثیت رسول تھا تو قرآن کریم میں اس پر تنبیہ کیوں آئی؟  
ان تصریحات سے صاف ظاہر ہے کہ حضور کے یہ افعال واقوال حیثیت

رسول نہ تھے بلکہ ذاتی حیثیت سے تھے اس سے یہ مطلب نہیں کہ رَبُّنَا يَاللَّهُ  
یا امور حضور اور خواستہ اور ہواستے نفس کی بنا پر تھے بلکہ یہ کہ امور دنیا یہی  
میں یہ حیثیت پیش رکھتا تھا حضور کے ساتھ تھا جس میں ایسے معمولی ہے  
کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اور اس سے حضور کے خلیل عکیم اور قرآن کے منجانب اللہ

ہونے کے یہی دلہنایں اسلام کے یہی زندہ ثہاوت ملتی ہے۔ اب اس کو

ثہاوت خود احادیث سے بھی ملتی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ  
علیہ نے حجۃ اللہ البا لغہ میں ایک باب اس عنوان سے لکھا ہے جس میں وہ تحریر  
فرماتے ہیں کہ جو کچھ آنحضرت سے مردی ہے اور کتبِ حدیث میں مدون ہے  
اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ امور جو تبیغ رسالت سے علاقہ رکھتے ہیں۔  
دوسرے وہ امور جن کو تبیغ رسالت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی کی نسبت حضور

نے فرمایا ہے:

إِنَّمَا إِنْسَنٌ شَرُّ مُشَكِّرٍ إِذَا أَمْرَتْكُمْ  
بِشَيْءٍ فَعَمِّلُوهُ مُشَكِّرٌ فَخَذُوا بِهِ  
وَإِذَا أَمْرَتْكُمْ بِشَيْءٍ فَعِمِّلُوا كَمْ  
كَعَادُوا جُوبَاتٍ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ  
فَإِنَّمَا إِنْسَنٌ بَشَرٌ۔

میں ایک انسان ہوں جب تم سے کوئی نہیں امر بیان کروں تو اس کو اختیار کروادہ جو بات میں اپنی راستے سے کہوں تو میں ایک انسان ہوں۔

اسی بنا پر درخت خرمائی کا بھانگانے کے مشہور واقعہ کے بعد حضور نے فرمایا تھا۔

إِنِّي ظَنَنتُ ظَنًا وَلَا قُوَّاتٍ مُّعَذِّلَةً  
بِالظَّفَرِ إِلَكُنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ  
عِمَّتَ اللَّهُ بِشَيْءٍ فَعِمِّلُوهُ  
بِهِ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ بِغَيْرِ اللَّهِ  
كَمْ لَمْ يَأْتِ بِهِ بَحْرُونَ

میں نے صرف ایسا گمان کیا تھا۔ یعنی بات کام جو سے موافقہ نہ کرو لیکن میں خدا کی جانب سے کوئی بات بنا کروں تو اس کو اختیار کرو اس لیے کہ میں خدا پر بھروسہ نہیں ہوتا۔

چنانچہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں سے وہ امور میں جنہیں حضور عادۃ کیا کرتے تھے یا اتفاقیہ بلا قصد یا بے عیل تذکرہ بیان فرماتے۔ اور ان کے بعد وہ ان موافق و امور کی مثالیں بھی بیان فرماتے ہیں، انہیں میں وہ ان امور کو بھی لیتے ہیں جو حضور کے عہد میں ایک بڑی مصلحت رکھتے تھے لیکن وہ تمام اقتدار کے لیے ضریب اور لازمی نہ تھے۔

اس سے ظاہر ہے کہ جو کچھ آپ دین کے متعلق فرماتے تھے وہی بحیثیت رسول ہوتا تھا، خراہ وہ وحی منزل ہو یا اجنبیا در رسول، اور وہی امت کے لیے واجب الاتباع ہے اور اس کے علاوہ جو باتیں بحیثیت بشر فرماتے ان میں یہ قید نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض امور مشاورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے رائے بھی پیش کی اور وہ اختیار بھی کی گئی۔ یہی نہیں حضور کی ایسی راستے کے خلاف عمل بھی تھا۔ چنانچہ قرآن شاہد ہے کہ آپ نے حضرت زینب سے فرمایا کہ أَصِيكَ بَعْلَيْكَ زَوْجَكَ، لیکن انہوں نے حضرت زینب کو طلاق دے دی کیا

آپ خیال کر سکتے ہیں کہ حیثیت رسول آپ کا فرمان ہوتا اور حضرت زید اس کی خلاف ورزی کرتے ہے کتب احادیث میں کئی ایسے واقعات مذکور ہیں جن میں حضور نے کوئی ارشاد فرمایا اور صحابہ نے عرض کیا کہ چونکہ حکم حیثیت رسول ارشاد فرماد ہے ہیں یا بطور اپنی راستے کے ہے چنانچہ جنگ بدھ میں حب آپ ایک مقام پر کمپ نصب فرمانا چاہتے تھے تو ایک صحابی نے یہی سوال کیا اور حب معلوم ہوا کہ حضور اپنی راستے سے ایسا فرماد ہے ہیں تو انہوں نے باوب گزار شفیع کیا کہ اگر حضور ذرا آگے جا کر خیسہ زدن ہوں تو زیادہ قسرین مصحت ہو گا۔ چنانچہ اسیا ہی کیا گیا۔

ان تحریحات سے ثابت ہے کہ حضور ہر آن اور ہر حال میں رسول نہیں ہوتے تھے اور آپ کا ہر قول اور ہر فعل بحیثیت رسول ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہاں جو مردِ خدا محبوب کے نگ میں رنگا جانا چاہئے اس کی بات بالکل جد ہے لیکن اس شکل اور وجوب کی صورت میں بُرا فرق ہے۔ اگرچہ شاہنشاہ نے حضور کے نیصلے بھی اسی زیل میں رکھے ہیں جو رسالت کی حیثیت یہ ہوتے نہ تھے و غالباً ان کی مراد وقتی نیصلوں سے ہوگی، اور صاحب "تعییات" نے بھی امارت کو جو رسالت سے الگ کیا ہے تو غالباً اسی بنا پر۔ لیکن میں تو حضور کے فتنہ یا متعلقہ دین کو عین تبلیغ رسالت میں ہی سمجھتا ہوں اور واجب الاتباع۔ امتداد ایک اور چیز ہے جو امارت اور رسالت کی بحث میں میرے سامنے آگئی ہے اور اگرچہ صاحب "تعییات" نے اس پر بوضوح روشنی نہیں دی لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نشانہ شاید یہی ہے جو میرے ذہن میں آیا ہے۔ جہاں تک نہیں کیم کا تعلق ہے امکر دین میں حضور کی اعتماد کیا جیشیت رسول اور کیا جیشیت امیر قبامت تک کے یہے ہے۔ اس میں نہ اس وقت کسی منازعت کا حق تھا نہ ہو سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ

جنور کے بعد قرآن کریم نے خدا اور رسول کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے تو اسلامی نظام کے تقاضے یہ تو ضروری ہے کہ کوئی ایسی سند (Authority) ہر جو یہ تبدیل کر خدا اور رسول کا اس بارے میں یہی فیصلہ ہے، یا وہی امور میں ایسا ہی فیصلہ خود صادر کر سکے گلا ہر ہے کہ اگر خلیفہ برحق ہو اور اس کے ساتھ اس کی مجلس شوریٰ زیستیح طرفی پر منتخب شدہ، کام کر رہی جو تیری جماعت یعنی خلیفہ ان کو نسل (Caliph-in-Council) ہی وہ آخری سند (Authority) ہرگی جو امت مسلمہ کے لیے "خدا اور رسول" کی نمائندگی کرے گی۔ یعنی اس مجلس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہو گا اور کسی شخص کو اس کے خلاف منازعہ کا حق نہ ہو گا۔ وہ اگر ہر شخص کو اختیار دے دے دیا جائے کہ وہ فرمادے "اللَّهُ أَنْذِلَ الْمَوْلَى كَافِرَةَ بَنَى هُوَ هُوَ مَرْءُوا" اسلام کسی طرح بھی قائم نہ ہیں سکتا۔ یہی مجلس (Council) ہمگی جس کے قضایا کی پھر کہیں اپیل نہ ہوگی۔ اور یہی جماعت فخر مرتب کرتے کا کام کرے گی۔ البتہ جب اس جماعت کا کوئی مรکن کتاب و مشت کے خلاف فیصلہ صادر کرے تو جو ہو گا کہ انہیں بر طرف کر کے ان کی جگہ دوسرے انتخاب عمل میں لے آئیں۔ کیونکہ یہاں یہی اولی الامر سے منازعہ کا حق حل ہو جائے گا جو امت کو خدا اور رسول کی احاطت کی طرف نہیں لے جاتے۔ میکن انفرادی طور پر کسی کو حق نہ ہو گا کہ ان کے فیضوں سے اس بنا پر مرتباً شروع کر دے کہ وہ اس کے اپنے خیال میں کتاب و مشت کے خلاف ہیں۔ یہی وہ با اختیار جماعت ہو گی جو وقتی امور میں بنا بر مصلحت کسی سابقہ ذمی فیض یا از تنظیم کے خلاف بھی فیصلہ کر سکے گی جیسا کہ کتبہ سیر و احادیث سے معلوم ہے۔ رسول اللہ نے نجران کے عیسائیوں اور خمیر کے یہود کو اپنی اپنی بھجوڑنے دیا۔ میکن حضرت عمر فرضیؓ پیش نہ کر غلافت میں بنا بر مصلحت وقت ان کو دیا ہے تکال و ربا۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات خود خلیفہ

وقت دشمن حضرت عمر بن حضرت علیؓ بھی عمالتوں میں بحیثیت مدعا علیہ پیش ہوا کرتے تھے جس سے ظاہر ہے کہ خلیفہ کے خلاف بھی ہر شخص کو منازعہ کا حقیقی حاصل ہے، تو واضح رہے کہ یہ لوگ خلیفہ اور اس کی ذاتی بحیثیت میں فرق نہیں کرتے۔ عمالتوں میں عمر بن خٹک (Personal Capacity) اور علیؓ ابی طالب پیش ہوتے تھے۔ اور وعادیؓ ان کی ذات کے خلاف تھے زکر "خلیفہ ان کو مثل" کے خلاف۔ اور یہ اسلامی نظام حکومت کا اظہرائے انتیاز ہے کہ اس نے قانون کو راجح کرنے والوں کو بھی قانون کی زندگی میں نہیں کیا پھر یہ بھی واضح رہے کہ "خلیفہ ان کو مثل" کی بحیثیت بھی واضح قانون کی نہیں ہوگی۔ بلکہ جہاں تک اصول قانون کا تعین ہے وہ تو کتاب صفت میں بھیشہ کے لیے منطبق ہو چکے۔ اب ان اصول کو نافذ کرنا یا ان کی رسمی میں جزوی امور میں قواعد مرتب کرنا یا اس مجلس کا فرمانیہ ہو گا میرا خیال ہے کہ صاحب "تعیمات" نے جہاں یہ لمحہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں اطاعت خدا اور رسول کا حکم آیا ہے اس سے مراد امارت ہے، ان کے پیش نظر یہ فاکہ ہے جو اور پر گزارش کیا گیا ہے اور اگر ایسا ہی ہے تو اس میں کسی اغراض کی گنجائش نہیں کہ اس باحتیاز جماعت کی اطاعت عین اطاعت رسول ہے اور اس کی معصیت معصیت خدا اور رسول ہے جیسا کہ نبی اکرم نے خود ارشاد فرمایا کہ:

مَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي      جس شخص نے امیر کی اطاعت کی  
وَمَنْ عَصَى الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي      اس نے میری اطاعت کی اور جس نے  
اس کی نافرمانی کی اس نے میری عصا نی۔  
نافرمانی کی۔

بحث طویل ہو گئی۔ لیکن امید ہے کہ اس میں بہت سی کام کی باقیں نکل آئیں گی۔ اخیر میں اتنا گزارش کرنا مزدی ہے کہ چونکہ میں نے اس میں آپ کو

محاطب کیا ہے اس لیے وہی امور پیش کیے ہیں جن میں مجھے آپ کے جواب کے  
بعد زید امینان کی ضرورت نظر آئی۔ رہے وہ امور جن سے اتفاق ہے یا  
صاحب "تعالیٰ" سے جن امور میں اختلاف ہے اپنی فہرمانات تحسیل حاصل  
سمجھا گیا ہے اور یہ گذار شات بھی محض مطلوب قبیل ہیں۔

اطاعت رسول کے مشدیں یہ امر تو منتفق علیہ ہے کہ کوئی رسول اپنی ذاتی حیثیت  
میں مطابع اور مطبوع نہیں ہو سکتا۔ نہ مولیٰ علیہ السلام کی اطاعت اور پیرودی اس پر  
ہے کہ وہ موسیٰ بن عمران ہیں، نہ عیسیٰ بن مریم علیہما السلام اس وجہ سے ذاتی اطاعت و  
اتباع ہیں کہ وہ عیسیٰ بن مریم ہیں، اور نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اس حیثیت سے  
لازم ہے کہ آپ محمد بن عبد اللہ ہیں۔ اطاعت اور پیرودی جو کچھ بھی ہے صرف اس حیثیت  
سے ہے کہ یہ حضرات اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے ان کو وہ علم حق عطا کی جو عام انسانوں کو  
عطایا نہیں کیا، اور ان کو وہ ہدایت بخشی جو عام لوگوں کو نہیں بخشی، اور ان کو دنیا میں اپنی  
رضا کے مطابق زندگی بسر کرنے کے وہ صحیح طریقے بتائے جن کو عام لوگ اپنی رائے و عمل  
یا انبیاء کے سوا دوسرے لوگوں کی رہنمائی سے معلوم نہیں کر سکتے۔ اب اختلاف جس امر  
میں واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول کی اطاعت اور پیرودی کس امر میں ہے اور کس  
حد تک ہے۔

ایک گروہ ہم تھا ہے کہ اطاعت اور پیرودی صرف اس کتاب کی ہے جو اللہ کی رحمت  
سے اس کا رسول نے کر آتا ہے۔ تبیخ کتاب کے بعد رسول کی حیثیت رسالت ختم ہو جاتی  
ہے۔ پھر وہ بھی دیسا ہی ایک انسان ہے جیسے اور دوسرے انسان۔ دوسرے انسان  
اگر امیر اور سردار قوم ہوں تو محض نظم و ضبط (Discipline) کے لیے ان کی اطاعت  
لازم ہوگی۔ مگر نہ بھی فرضیہ نہ ہوگی۔ دوسرے اگر عام، حکیم اور مفتون ہوں تو ان کے ادبیات  
(MERITS) کا لحاظ کرتے ہوتے ان کی پیرودی کی جائے گی اور یہ پیرودی اختیاری ہوگی،  
واجب نہ ہوگی۔ یہی معاملہ رسول خدا کا بھی ہے۔ تبیخ کتاب کے سوا دوسرے تمام  
معاملات میں رسول کی حیثیت محض شخصی ہے۔ حیثیت ایک شخص کے اگر وہ امیر ہے تو

اس کی احادیت یا مثال فہرست ہے نہ کہ دانی۔ اگر وہ قاضی ہے تو اس کے فیصلے پر جنہیں بھک نہ فہد  
بھوں گے جہاں تک اس کے حدود قبضہ (Jurisdiction) ہیں۔ ان سے باہر زیادہ  
سے زیادہ ایک فاضل بحث کی حیثیت سے اس کے فیصلے بطور ایک تظیر کے لیے جاتیں گے  
نہ کہ ایک شارع اور واعض قانون کی حیثیت سے۔ اگر وہ حکیم ہے تو اس کی زبان سے  
جو حکمت اور اخلاق کی پائیں تکلیفیں گی وہ اپنی قد و قیمت کے لحاظ سے قبول کی جائیں گی جس  
طرح دوسرے علماء و عقول الد کی ایسی ہی پائیں قبول کی جاتی ہیں۔ محسن اس پناہ پر کہ وہ حاصل  
منصب رسالت کی زبان سے تکلیفیں وہ داخل دین نہیں سمجھی جائیں گی۔ اسی طرح اگر وہ  
ایک نیک سیرت انسان ہے، اور اس کی زندگی اپنے اطوار، آداب اور معاملات کے  
اعتبار سے ایک بہترین زندگی ہے، تو ہم بالاختیار اس کو ایک نمونہ (Model) بنائیں گے  
جس طرح ایک غیر نبی کی اچھی زندگی کو نمونہ قرار دینے میں ہم مختار ہیں۔ لیکن اس کا کوئی  
عمل اور قول ہمارے لیے اخلاق، معاشرت، میعادن، اور معاملات میں ایسا قانون نہ  
ہو گا جس کی پیروی ہم پر واجب ہو۔ یہ مذہب اس گردہ کا ہے جو آج کل اہل قرآن  
کہلاتا ہے۔

ایک دوسرا اگر وہ اس خیال میں تھوڑی سی ترمیم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ رسول  
کے ذمہ صرف کتاب پہنچا دینا ہی نہ تھا، بلکہ کتاب کے احکام پر عمل کر کے دکھانی  
بھی تھا کہ امت اسی نمونہ پر عامل ہو۔ لہذا عبادات و طاعات وغیرہ کے متعلق احکام  
کتاب کی جو تفضیل عملی صورت رسول نے تباہی ہے، اس کی پیروی بھی کتاب ہی کی  
پیروی ہے، اور دینی فرض ہے۔ باقی رہے وہ معاملات جو احکام کتاب کے علاوہ  
رسول اپنی شخصی حیثیت میں ایک امیر، ایک قاضی، ایک مصلح قوم، ایک حکیم، ایک  
شہری، اور ایک فرد جماعت کی حیثیت سے انجام دے، تو ان میں کوئی چیز ایسی  
نہیں ہے جو ایک دائنی اور عالمگیر صنایع و توان بنانے والی ہو اور جس کی پیروی  
ہمیشہ کے لیے ایک دینی فرض ہو۔ اس گردہ کے نمائندے جناب مولانا اسلم  
چبراج پوری ہیں۔

ایک تیسرا گروہ ہے جو رسول کی حیثیتِ رسالت کو اس کی زندگی کے ایک بہت بڑے حصے پر حاوی سمجھتا ہے۔ اخلاق، معاشرت، معاملات، احکام و قضايا، اور بہت سے دوسرے معاملات میں اس کے قول اور فعل کا خدا کی جانب سے ہونا تسلیم کرتا ہے اور یہ بھی مانتا ہے کہ یہ سب چیزیں امتت کے لیے امورِ حسنہ ہیں مگر وہ حیثیتِ رسالت کو حیثیتِ شخصی میں فرق ضرور کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ رسول کی زندگی کے کچھ معاملات ایسے ضرور ہیں جو حیثیتِ رسالت سے خارج ہیں، اور قابلِ تقید نہونہ ہیں اگرچہ وہ کوتی ایسا واضح خط نہیں کھینچ سکتا جو حیثیتِ رسالت اور حیثیتِ شخصی میں بینِ امتیاز کر دیتا ہو، اور ایک الیٰ حد تقریباً ہو جہاں پہنچ کر رسول کی حیثیتِ محض ایک انسان کی رہائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چودھری صاحب اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں ابتدا ہی میں یہ امر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ان کا مسئلہ مقدم الذکر دونوں گروہوں کی بینت حق سے بہت زیادہ قریب ہے۔ اگرچہ تھوڑی غلطی اس میں ضرور ہے لیکن الحمد للہ کہ وہ مگر ابھی کی حد تک نہیں پہنچتی۔

چوتھا گروہ کہتا ہے کہ رسول کی حیثیتِ شخصی اور رسالت کی حیثیت اگرچہ اعتبار میں دو جدا گانہ حیثیتیں ہیں مگر وجود میں دونوں ایک ہی ہی اور ان کے درمیان عملاء کوئی فرق کرنا ممکن نہیں ہے منصبِ رسالت دنیوی عہد و ول کی طرح نہیں ہے کہ عہدہ دار جب تک اپنے عہدہ کی کرسی پر بٹھا ہے، عہدہ دار ہے، اور جب اس سے اُترات تو ایک عام انسان ہے۔ بلکہ رسول جس وقت منصبِ رسالت پر سرفراز ہوتا ہے اس وقت سے مرتبے دم تک وہ ہر وقت اور ہر آن مامور (Dr. Dutta) ہوتا ہے اور وہ کوئی ایسا فعل نہیں کر سکتا جو اس سلطنت کی پالیسی کے خلاف ہو جس کا وہ نمائہ بن کر بھیجا گیا ہے۔ اس کی زندگی کے معاملات عام اس سے کہ وہ امام کی حیثیت سے ہوں یا امیر کی حیثیت سے، قاضی کی حیثیت سے ہوں یا معلم اخلاق کی حیثیت سے، ایک شہری اور سوسائٹی کے ایک فرد کی حیثیت سے ہوں، یا ایک شوہر، باپ، بھائی، رئٹنٹہ دار اور دولت کی حیثیت سے، سب پر اس کی حیثیتِ رسالت اس

طرح حادی ہوتی ہے کہ اس کی ذمہ داریاں کسی حال میں ایک ٹھنکے یہے بھی اس سے  
منفک نہیں ہوتیں جتنی کہ جب وہ اپنی خلوت میں اپنی بیوی کے پاس ہوتا ہے، اس  
وقت بھی وہ اسی طرح اللہ کا رسول ہوتا ہے جس طرح وہ مسجد میں نماز پڑھاتے وقت  
ہوتا ہے مزندگی کے مختلف شعبوں میں وہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کی ہدایت کے تحت کرتا  
ہے۔ اس پر ہر آن اللہ کی طرف سے سخت نگرانی قائم رہتی ہے، جس  
کے تحت وہ انہیں حدود کے اندر چلنے پر محصور ہوتا ہے جو اللہ نے  
متعدد کر دی ہیں، اور اپنے اقوال میں اچال میں اور زندگی کے پردے  
روتیے ہیں دنیا کے سامنے اس امر کا مظاہرہ کرتا ہے کہ یہ ہیں وہ  
اصول جن پر انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کا نظام قائم ہونا  
چاہیے۔ اور یہ ہیں وہ حدود جن کے دائرے میں انسان کی آزادی محل کو محدود ہونا  
چاہیے۔ اس خدمت کو بنی اپنی شخصی و خانگی زندگی میں بھی اسی طرح انعام دیوار پہنچانے  
جس طرح اپنی سرکاری حیثیت میں، اور کسی معاملہ میں بھی اگر اس کے قدم کو زد اسی لغوش  
ہو جاتی ہے تو اس کو فوراً تنبیہ کی جاتی ہے، کیونکہ اس کی خلاصت اسی کی خانگی نہیں ہے  
ایک پوری امت کی خلاصہ ہے۔ اس کو بھینے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان  
زندگی بسرا کر کے ان کے سامنے ایک "مسن" کی زندگی کا مکمل نوبیتیں کر دے، اور صرف یہی  
ہیں کہ انفرادی معاملات میں ان کی رہنمائی کر کے ان کو فردا فردا مسلمان بناتے مجید اس  
کے ساتھ ہی اسلام کا تمدن، سیاسی، ہماشی اور اخلاقی نظام قائم کر کے صحیح مفہموں میں  
ایک مسلم سوسائٹی بھی ذجوں میں لے آئے۔ لہذا اس کا خطاب اور عملی سے محفوظ ہونا لازم  
ہے تاکہ کامل اعتماد کے ساتھ اس کی پیروی کی جاسکے اور اس کے قول و فعل کو بالکل  
اسلام کی تعلیم اور اسلامیت کا معیار قرار دیا جاسکے۔ اسی میں شکر نہیں کوئی کے احوال  
اعمال میں تعلیم و تاثی کے لحاظ سے فرق مرتب ہے۔ یعنی وجوب اور ضریب  
کے درجہ میں، یعنی احتساب کے درجہ میں، اور بعض بیسے ہیں جن کی حیثیت و دحث  
شکار کی ہے۔ لیکن فی الجملہ بنی کی پرسی زندگی ایک ایسا نمونہ (Model) ہے جو کہ

اسی بیسے پیش کیا گیا ہے کہ بنی آدم اپنے آپ کو اس کے مطابق لٹھانے کی کوشش کریں۔ جو شخص اس نمونہ کی مطابقت میں قبضہ رکھا ہوا ہو گا وہ انسانی کامل انسان اور مسلمان ہو گا، اور جو اس کی مطابقت نکے کم از کم ناگزیر مرتبہ سے بھی لکھتے چلتے گا وہ اپنی کوتاہی کے لحاظ سے فاسق، فاجر، مگر اور منعمنوب ہو گا۔

میرے نزدیک یہی آخری گروہ حق پر ہے۔ اور میں قرآن اور عقل کی روشنی میں قبضہ زیادہ خود کرتا ہوں اس مسلک کی حقانیت پر میرالقین بڑھتا جاتا ہے۔ **انبیاء و علیمین اسلام** کے جو حالات قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان کو دیکھنے سے مجھ کو نبوت کی حقیقت یہ نہیں معلوم ہوتی کہ اللہ تعالیٰ یعنی یک کسی راہ پیش کر کر اپنی کتاب پہنچانے کے لیے ماوراء دنیا ہو، یا کسی شخص کو اس طور پر اپنی پیغام بری کریے متعدد کرتا ہو کہ وہ منجلہ اپنے دوسرے کاروبار کے ایک پیغمبری کا کام بھی انجام دے ریا کرے، گویا کہ وہ ایک جزوی مزدور (Part-time Worker) ہے جو مقرر را وفات میں ایک مقرر کام کر دیتا ہے اور اس کام کو ختم کرنے کے بعد آزاد ہوتا ہے کہ جو چاہے کرے پڑھس اس کے میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم میں نبی بھیجا چاہا ہے تو خاص طور پر ایک شخص کو اسی بیسے پیدا کیا ہے کہ وہ نبوت کی خدمت انجام دے۔ اس کے اندازتیت کی دو بلند ترین صفات اور دو اعلیٰ درجہ کی ذہنی درودعائی قوتیں دو دعیت کی ہیں جو اس اہم ترین منصب کو منبعاً لئے کے لیے ضروری ہیں۔ پیداتش کے وقت سے خاص اپنی نگرانی میں اس کی پروردش اور تربیت کرائی ہے۔ نبوت عطا کرنے سے پہلے بھی اس کو اخلاقی عیوب اور گمراہیوں اور غلط کاریوں سے محفوظ رکھا ہے، خطرات اور مہلکوں سے اس کو بچایا ہے اور اپنے حالات میں اس کی پروردش کی ہے جن میں اس کی استعداد نبوت ترقی کر کے فعلیت کی طرف بڑھتی رہی ہے پھر جب وہ اپنے کمال کو پہنچ لے گیا ہے تو اس کو خاص اپنے پاس سے علم اور قوت فیصل (Divine Power) اور فوریہ دیت عطا کر کے منصب نبوت پر مامور کیا ہے، اور اس سے اس طرح یہ کام لیا ہے کہ اس منصب پر آنے کے بعد سے آخری صاف تک اس کی پوری زندگی اسی کام کے لیے

وتفت رہی ہے۔ اس کے لیے دنیا میں تلاوت آیات اور قسمی کتاب و حکمت اور ترکیبی نفوس کے سوا اور کوئی مشغله نہیں رہا ہے۔ رات دن، اشتنے بیٹھتے، چلتے چھرتے اس کو بھی دھن رہی ہے کہ گمراہوں کو راہ راست پر لائے اور راہ راست پر آجائے والوں کو ترقی کی اعلیٰ نزولوں پر جانے کے قابل بنائے۔ وہ ہمیشہ اپنے ہمیشہ وقتی ملازم (Whole time Servant) اوقات کار (Working Hours) مقرر کیے گئے۔ اس پر خدا کی طرف سے شدید نگرانی قائم رہی ہے کہ خطا نہ کرنے پلتے۔ ہوتے نفس کے اتباع اور شیطانی وسادوں سے اس کی سخت حفاظت کی گئی ہے۔ معاملات کو بالکل اس کی بشری عقل اور اس کے انسانی اجتہاد پر نہیں چھوڑ دیا گی، بلکہ جہاں بھی اس کی خواہش یا اس کے اجتہاد نے خدا کے مقرر کیے ہوئے خط مستقیم سے بال برادر جنہیں کی ہے وہیں اس کو ٹوک کر سیدھا کر دیا گیا ہے۔ یہونکہ اس کی پیدائش اور اس کی بعثت کا مقصد ہی یہ رہا ہے کہ خدا کے بندوں کو سوار السبیل اور صراطِ مستقیم پر چلاتے، اگر وہ اس خط سے یک مریض بھی ڈینتا تو ہم انسان میلوں اس سے دُور نکل جاتے۔

یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے فقط فقط پر قرآن گواہ ہے۔

۱۔ یہ بات کہ انہیاً علیہم السلام پیدائش سے پہلے ہی نبوت کے لیے نامزد گردی شے بدلتے تھے، اور ان کو خاص طور پر اسی منصب کے لیے پیدا کیا جاتا تھا، منفرد انہیاء کے احوال سے معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً حضرت اُنُقٰت کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت ابراهیم کو ان کی پیدائش اور نبوت کی خوشخبری دے دی جاتی ہے، وَبَشُّرَتْ نَاهٌ بِإِنْجِنَّى مِنْ إِلَّا الصَّالِحِينَ وَأَنْرَكَنَا عَذَيْهِ رَعْلَى إِنْجِنَّى رَأَصْفَتْ: ۱۱۷، حضرت یوسف کے شعلت پھپن تھی میں حضرت یعقوب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو برگزیدہ کرنے اور ابراہیم و اُنُقٰت ملیخہما السلام کی طرح ان پر اپنی نعمت کا اتمام کرنے والا ہے جو حضرت موسیٰ بنی ایسٹ کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کو حضرت یحییٰ کی خوشخبری ان الفاظ میں دی جاتی ہے کہ اللہ أَنْتَ مُبَشِّرٌ لِّبَنِي مُصَبِّدِي الْكَلِمَةِ مِنْ أَنْتَهٗ وَسَيِّدٌ أَرْحَصُورُدًا وَبَنِيَّاً قِنْ

الْحَسْرَى لِجِئَتْ رَأْلَ عَرَانٌ: ۲۷) حضرت مريم کے پاس خاص طور پر فرشتہ بھیجا جاتا ہے کہ ان کو ایک پاک طینت دشکے دفلام نہ کی، اک خوشخبری دے، اور جب ان کے وضیع محل کا ذلت آتا ہے تو خاص حق تعالیٰ کی طرف سے ان کی زچگی کے انتظامات ہوتے ہیں رملاء خلہ ہو سیدہ مريم رکوع دوسم، پھر اس اسرائیلی چڑا ہے کہ بھی دیکھیے جس سے مادی مقدس طوفی میں بلکہ باقی کی گئی۔ وہ بھی عامم چوہا ہوں کی طرح نہ تعالیٰ سے صریں خاص طور پر فرمودت کرتباہ کرنے اور بھی اسرائیل کو فلامی سے بنجات دلانے کے لیے پیدا کیا گی۔ اس کو قتل سے بچانے کے لیے ایک تایوت میں رکھوا کر دریا میں ڈوبایا گی۔ خاص اسی فرعون کے گھر میں پہنچا گیا جس کو وہ تباہ کرنے والا تھا۔ اس کو پاری صورت دی گئی کہ فرعون کے گھر والوں کے دل میں گھر کے رَدَّ الْفَيْثَ وَ عَيْدُكَ تَحْمِلَهُ تینی (ظہر: ۲۸) کے مذکور تمام عورتوں کے دودھ سے روک دیا گیا یہاں تک کہ وہ پھر اپنی ماں کی آغوش میں پہنچ گی، اور اس کی پیشش کا انتظام خاص حق تعالیٰ کی بھراں میں ہوا رَوَلِمْصَنْعَ عَلَى عَيْنِي (ظہر: ۲۹) یہ چند خلیل میں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء عیسیٰ اسلام خاص طور پر نبوت ہی کے لیے پیدا کیے جاتے تھے۔

۲۔ پھر دیکھیے کہ اس طرح جن لوگوں کو پیدا کیا جاتا ہے وہ عام انسازوں کی طرح نہیں ہوتے بلکہ غیر معمولی قابلیتوں کے ساتھ دجوہ میں آتے ہیں۔ ان کی فطرت نہایت پاکیزہ ہوتی ہے۔ ان کے فریک کا سانچہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے جو بات نکلتی ہے، سیدھی نکلتی ہے۔ غلط اندرستی اور کچ بینی کی استعدادی ان میں نہیں ہوتی۔ وہ جملی طور پر دیکھیے کہ جانتے ہیں کہ بلا ادا اور بلا کسی غرض کے محسن مدد اور مددان (۱۵: ۲۴-۲۵) سے ان صحیح شان پر پہنچ جائیں جن پر دعا انسان غور فکر کے بعد بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ان کے علم کبی نہیں ہوتے بلکہ جعلی و وہی بھی نہیں جن لئے بلال صحیح لفظ کا اتمانہ ان کی عین مرشدت ہیں۔ ولیت کیا جاتا ہے وہ فطرتاً صحیح رونگتے ہیں صحیح لفظ ہمیشہ یعنی جمال کریں حال طور پر حضرت یعقوب کو دیکھیے۔ حضرت یوسف کا خواب منشی ہی ان کے دل میں کھنک پیدا ہو جاتی ہے کہ اس شکر کے اس کے بھائی بھینے نوی گے۔ برادران یوسف ان کو کھیل کر لے جانا چاہتے ہیں تو حضرت یعقوب نہ صرف ان کی بُری نسبت کو بھاپ چانے ہی بلکہ ان کو ٹھیک وہ بہانہ بھی معلوم ہو جاتا ہے جو بعد میں وہ بنا نے والے

تھے۔ فرماتے ہیں دَأَخَافُ أَنْ يَا مَكَهُ الْذِيْبَ وَأَنْتُمْ عَنْهُ عَفْلُونَ (یومت: ۱۳) پھر جب بے سکھ بجالی خون کا بھرا ہوا کرتے لگا کر دکھلتے ہیں تو حضرت یعقوب دیکھ کر فرماتے ہیں بلْ سَوْلَكْتُ لَكُمْ آنْفُسَكُمْ أَمْرَأَ رَبِّكُمْ (۱۴) اسی طرح جب بدلن پوتا مصر سے واپس آگئے سوکھتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور تین دلائے کے بیے یہاں تک حرض کرتے ہیں کہ اس بیتی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں سے ہم آ رہے ہیں ۱۵ حضرت یعقوب نے اسی جواب دیتے ہیں کہ یہ تمہارے نفس کا دھوکہ ہے۔ یعنی لوگوں کو بھر مصراحت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ إِذْ هَبُوا فَخَسَّتُو اِنْ دُوْسُتَ وَأَخْيَهُ (یومت: ۱۵) اسکے بعد جیسا کہ بیٹے حضرت یوسف کا قسمیں کر مصر سے چلتے ہیں تو ان کو دُور ہی سے حضرت یوسف کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ ان بالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی لغتی و روحاںی قسمیں کس قدر غیر معمول ہوتی ہیں یہ حضرت یعقوب ہی کی خصوصیت نہیں تھا انہیں اسلام کا یہی حال ہے۔ حضرت یحییٰ کے متعلق ارشاد ہے:

وَإِنَّمِنْهُ الْحُكْمُ حَسِيبَيْأَرْ  
حَنَانًا مِنْ لَدُنَّا فَكُوَّةٌ (ریم: ۱۲)  
حضرت عیینی کی زبان سے گھوارے میں کھلوایا جاتا ہے کہ:

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَ مَا  
كُنْتُ وَأَوْسَمَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ  
مَادِهُتْ حَيَاً وَمِرَّاً اَبُو الْدِقِّ وَلَهُ  
بَيْعَنِي جَارًا شَقِيقًا۔ (ریم: ۱۳)

او را بندے مجھ کو برکت والا بنایا جہاں بھی  
میں رہوں۔ اور اس نے مجھ کو وصیت کی کہ  
جب تک جیوں نماز پڑھوں اور نکوہ دوں  
اور اس نے مجھ کو اپنی ماں کا خود ملگذا رہندا  
اوہ مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔

نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا  
وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (ریم: ۱۴) اور تم اخلاق کے بُلوے رہ جائے پر ہو۔  
یہ سب ان جیلی اور فطری کمالات کی طرف اشارات ہیں بن کوئے کلام  
علیہم السلام پیدا ہوتے ہیں۔ پھر حق تعالیٰ ان کی انہی فطری استعدادات کو ترقی دیکھ

فضلیت کی طرف سے چاہا ہے یہاں تک کہ ان کو وہ چیز عطا کرتا ہے جس کو قرآن میں علم اور حکم (قوتِ فیصلہ) اور ہدایت اور بینہ وغیرہ الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے ۔ حضرت نوح اپنی قوم سے کہتے ہیں :

وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ  
میں خدا کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو  
(اعراف: ۶۷) قم نہیں جانتے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت سعادات وارض کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے رانعام: ۹)، اور جب وہ اس مشاہدہ سے علم تینیں نے کہ پڑتے ہیں تو اپنے باپ سے کہتے ہیں :

يَا بَتِ اِنِّي قَدْ جَاءْنِي مِنِ الْعِلْمِ  
مَا لَكُمْ يَا تِلْكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا  
سَوِيًّا۔  
(مریم: ۶۳)

ایے بات امیر سے پاس وہ علم آیا ہے جو  
تیر سے پاس نہیں، لہذا امیری پیری کر دیں  
تجھے سید حار استنباؤں گا۔

حضرت یعقوب کے متعلق ارشاد ہے :

وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ تَمَّا عَلِمَنَا  
وَلَكِنَّ الْكُثُرَ إِنَّمَا لَا يَعْلَمُونَ سیوف: ۶۸

اویتعینا وہ وہ علم رکھتا تھا جو تم نے اس کو  
تعلیم کیا تھا مگر انہ لوگ پر از نہیں جانتے

حضرت یوسف کے حق میں فرمایا :

وَلَمَّا بَلَغَ أَسْدَهُ أَبْيَنَهُ وَحْكَمَ  
وَعِلْمَهُ۔  
(یوسف: ۶۲)

او جب وہ اپنی جوانی کو پنچا تو ہم نے اس کو  
رانش اور قوتِ فیصلہ عطا کی

یہی بات حضرت موسی کے حق میں بھی فرمائی رقصص: ۴) یہی حکم اور علم حضرت لوط کو عطا کیا گیا رانبیاد: ۵) اور اسی غیر معمولی علم سے بنی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف فراز ہوتے۔

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَدِيْدَكَ الْكِتَابَ  
وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ  
قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بِيَنَتِي مِنْ رَبِّي  
(رانعام: ۶۷)

او راللہ نے تیر سے اور کتاب اور حکمت آنے اور تجھے وہ علم دیا جو پہلے تو نہ جانتا تھا۔  
کچھ کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلخواہ اور روشن راستے پر ہوں۔

فَلْ هُذِهِ سَبِيلٌ أَدْعُوا إِلَى  
اللَّهِ عَلَى بِصَرْتِهِ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

دلوست: ۱۰۸

اس علم اور حکم سے نبی اور عام انسانوں کے درمیان آنا عظیم تفاوت واقع ہو جاتا ہے جتنا ایک آنکھوں والے اور ایک ناپلنگ کے درمیان ہوتا ہے۔

إِنَّمَا يُوحى إِلَيْكُمْ

**هَلْ كَسْتُوِي الْأَعْمَانَ وَالْمَصْدُورَ -**

رالنظام (٢٥)

ان آیات میں جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ تحقیق کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ ایک روشنی ہے جو انہیاً علیهم السلام کے نفس میں پیدا کردی جاتی ہے۔ اسی لیے اس کا ذکر کتاب سے الگ کیا گیا ہے، اور اسے انہیاً کی صفت کے طور پر بیان کیا گیا ہے وہ اس روشنی سے حقائق کا عین مشاہدہ کرتے ہیں، اسی سے غلط اور صحیح میں امتیاز کرتے ہیں، اسی سے معاملات میں فیصلہ کرتے ہیں اور اسی سے ان امور میں نظر کرتے ہیں جو ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ علمائے اسلام نے اسی چیز کا نام دھی خفی رکھا ہے، یعنی وہ اندرونی ہدایت بصیرت جو ہر وقت ان بزرگوں کو حاصل رہتی تھی اور جس سے وہ ہر موقع پر کام لیتے تھے۔ دوسرے لوگ غور و فکر کے بعد بھی جن باتوں کی تہ کو نہیں پہنچ سکتے اور جن امور میں حق اور صواب معلوم نہیں کر سکتے، ان میں نبی کی تنظر اہل کی دی ہوئی روشنی اور بصیرت کے زور سے آن واحد میں تہ تک پہنچ جاتی تھی۔

سے۔ اس کے بعد قرآن مجید ہم کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و علیہم السلام کو نہ صرف حکمت اور قوت فیصلہ اور نعیر معمولی دانش و پیغیش عطا کی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہی وہ سہیشہ ان پر خاص نظر علاختا ہے، غلطیوں سے ان کی حفاظت کرتا ہے، مگر ابھیوں سے ان کو بچاتا ہے۔ خواہ وہ انسانی اثرات کے تحت ہوں یا شیطانی وساوس کے تحت یا خود ان کے اپنے نفس سے پیدا ہوں۔ حتیٰ کہ اگر بمقتضای شریعت کبھی وہ اپنے اجتہاد میں

بھی غلطی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کی اصلاح کر دیتا ہے۔ حضرت یوسفؑ کے نصیحتے میں دیکھیجے۔ جب قریب تھا کہ عزیز مصر کی بیوی ان کو اپنے جاں میں بچنا سے اللہ تعالیٰ نے اپنی "برہان" دلکھا کر ان کو بدکاری سے محفوظ کر دیا۔

**وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا** اس نے یوسف سے ارادہ پدر کر دیا، اور وہ **كُوْلَانْ رَأَى مُرْهَانَ رَتِيْهَ كَذَالِكَ** بھی اس کی طرف ارادہ کرتا اگر اپنے رب **لَنَصِرَتْ عَنْهُ السُّوْرَةِ الْخَشَاءَ** کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس **إِنَّهُ رَمَنْ عَبَادَنَا الْخُلُمُعِينَ** کو برائی اور یہ حیاتی سے چھر دیں کیونکہ **رِيوْسَفْ: ۲۲** وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھا جن کو ہم نے اپنے بیٹے مخصوص کر لیا ہے۔

حضرت موسیٰ اور مارون علیہما السلام کو جب فرعون کے پاس بدنے کا حکم دیا گیا تو انہیں خوف ہوتا کہ کہیں فرعون ان پر زیادتی نہ کرے۔ اس پر حق تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ خوف نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اور سب کچھ مُنْ اور وکھرہا ہوں دُرطہ ۲:- خوف بشریت کی بنیا پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بشری کمزوری کو اپنی وجہ سے دُور کیا۔ حضرت نوحؐ بیٹے کو دوستے دیکھ کر حنخ اُٹھئے "رَبِّ إِنَّ أُنِّي مُصْرِفُ أَهْلَكَ" "خدا یا یہ میرا بُیٹا ہے" یہ بشری کمزوری تھی۔ اللہ نے اسی وقت یہ حقیقت ان پر ما فتح کر دی وہ تیر سے نطفہ سے ہوتا ہوا کرے، مگر تیرے "اہل" سے نہیں، کیونکہ عمل غیر صالح ہے۔ بشریت نے محبت پدری کے جوش میں فرماسی دیر کے لیے بنی کی نظر سے اس حقیقت کو چھپا دیا تھا کہ حق کے معاملہ میں باپ، بُیٹا، بھائی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ سے اسی وقت آنکھوں پرے پر دہ اٹھا دیا اور حضرت نوحؐ مطمئن ہو گئے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی متعدد مرتبہ ایسے واقعات پیش آچکے ہیں۔ اپنی فطری رحمت درافت، کفار کو مسلمان بنانے کی حرث، کفار کی تائیف تقلب، لوگوں کے چھوٹے سے چھوٹے احسان کا پذیرہ دینے کی کوشش، منافقین کے دلوں

میں ایمان کی روح پھوٹکنے کی خواہش، اور کبھی کبھی افضلتے نشرتیت کی بنا پر حب  
کبھی آپ سے کوئی اجتہادی لغزش ہوتی ہے، وحی جملی سے اس کی اصلاح کی کمی ہے  
عَبَّسَ وَتَوَلَّ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (صیہ: ۱)، حاکَاتِ يَعْبَّسٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى  
وَالْفَاعَلِ (۲)، عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتَ لَهُمْ رَبُوبَة: (۳)، إِسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْلَأَ  
كَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ حَرَّةً فَلَمْ تَعْجَفْ اللَّهُ لَهُمْ رَبُوبَة: (۴)  
وَلَا تُنْصِلِ عَلَى أَحَدٍ قِنْتَهُمْ مَا تَآبَدَ أَرْتَوْبَة: (۵)، يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَهُمْ مُخْرَمْ مَا  
أَحَلَ اللَّهُ لَكَ رَحْمَمْ (۶)، یہ سب آیات اسی امر کی شہادت دیتی ہیں۔ لوگ ان کا یہ  
کو اس امر کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطیاں سرزد ہوتی  
تھیں اور آپ غلطیوں سے مبرانہ تھے۔ خصوصاً حضرات اہل قرآن کو نوان آیات کے  
فریبہ سے اللہ کے رسول کی غلطیاں پکڑنے میں خاص مزہ آتا ہے۔ لیکن دراصل یہی  
تو وہ آیتیں ہیں جن سے صریح طور پر پیشابت ہوتا ہے کہ اپنے نبی کو غلطیوں سے  
بچانے اور اس کی زندگی کو شہید ہے معيارِ حق پر فاقہ رکھنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے براہ  
راست اپنے ذمے دتے رکھی تھی۔ اور یہ حقیقت صرف مذکورہ بالا آیات ہی میں بیان  
نہیں ہوتی ہے بلکہ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اسے اصولی حیثیت سے بھی  
بیان فرمایا ہے۔ مثلاً فرمایا:

اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو  
نو ان میں سے ایک گروہ تم کو راہ راست  
سے ہٹا دیں یعنی کا عزم کریں چکانا تھا مگر وہ خود  
اپنے آپ کو ہٹانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے  
اور تمہارا کچھ بھی نہیں لے گا اسکے کیونکہ اللہ  
نے تم پر کتاب اور حکمت آتاری ہے اور تم کو  
وہ علم دیا ہے جو تم پہلے نہ جانتے تھے۔

قریب تھا کہ وہ تم کو اس بات سے جو ہم

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ  
رَحْمَتُهُ لَهُمْ طَالِفَةٌ مِنْهُمْ  
أَنْ يُضْلُلُوكَ وَمَا يُضْلُلُونَ إِلَّا فِي  
وَمَا يَضْرُونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَقَاتَلَ  
اللَّهُ عَلَيْكَ الْكُفَّارُ وَالْحُكْمَ لِلَّهِ وَ  
عَلَيْكَ مَا أَمْرَتُكَ فَلَمْ تَعْلَمْ۔

(النساء: ۱۱۳)

وَإِنْ كَادُوا لِيَفْتَنُوكَ

تم پر وحی کی ہے مخفف کر دیتے تاکہ تم اس کے سوا پھر اور ہم پر نا لوار اس وقت تم کو دوست بنایتے۔ اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رکھتے تو کسی قدر تم ان کی طرف جھک ہی جاتے۔

ہم نے تم سے پہلے جو نبی یا رسول بھیجا ہے اس نے جب کبھی کسی بات کی تناک شیطان نے اس کی تنا میں دسو سہ ڈال دیا۔ مگر احمد کا یہ قاعدہ ہے کہ نبی کے دل میں (شیطان) جو دسو سہ بھی ڈالتا ہے اللہ اسے مٹا دیتا ہے۔

اور پھر انپی آیات کو مختبڑا کر دیتا ہے۔

ان اصولی ارشادات سے اور اپنی واقعاتی مثالوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زندگی کو تھیک تھیک معیار مطلوب پر تمام رکھنے کی ذمہ داری خود اپنے اور پری ہے اور اس نے اس بات کا سخت اہتمام کیا ہے کہ نبی سے جو انحرش بھی سرزد ہو جاتے اس کی فوراً اصلاح کرے، خواہ وہ لغزش کسی ذاتی معاملہ میں ہو یا پہلی معاملہ بھی۔ پھر اگر اصول طور پر یہ بات مان لی جاتے تو اسی سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ نبی کے جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے گرفت نہیں کی ہے وہ سب کے سب اللہ کے معیار مطلوب پر پورے مأترے ہیں اور گویا ان پر خود اللہ ہی کی ہبڑی توثیق ثبت ہے۔

یہاں تک جو کچھ عرض کیا گیا ہے وہ اس امر کی توضیح کے لیے باسکل کافی ہے کہ ثبوت کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ ایک انسان، جو تمام حیثیات سے دوسرے انسانوں جیسا ایک انسان ہو، ایک عمر کو پہنچنے کے بعد یہاں کی خدا کی طرف سے نزدیکی کے لیے چُن لیا جائے، اور نجیز اس کتاب کے جو اس پر نازل کی گئی ہو اور کسی بات میں بھی اس کی راستے، اس کے خیالات، اس کے اعمال، اس کے احکام اور اس کے فصیلے غیر نبی

عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ تِبْيَانٌ  
عَلَيْكُمَا عِزْرَاءُ وَرِادْجَهُ لَا تَخْذُلُوكَ  
حَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْ شَبَّثْنَاكَ لَعَنْدُ  
كِدْرَتْ تُرْكَنْ إِلَيْهِمْ مُشَيْئًا قَدِيلًا

(نبی ارمائیل: ۲۴۴)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ  
رَسُولٍ وَلَا يَمْتَهِنَ إِلَّا إِذَا أَتَمْتَهُ أَنْقَى  
الشَّيْطَانُ فِي أُمْمَيْتَهِ فَيُنَسِّهُ أَمْلَهُ  
مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُنْكِمُ اللَّهُ  
إِلَيْهِ - (د الجی: ۵۲)

انسانوں سے ممتاز نہ ہوں، جیسا کہ نام نہادا بہل قرآن کا لگان ہے۔ یا یہ کہ اس میں اور عام انسانوں میں صرف اتنا ہی فرق ہو کہ تنزیلِ کتاب کے ساتھ ساتھ اس کو احکام کتاب کی علی تفصیلات بھی بتا دی گئی ہوں اور اس خاص انتیازی حیثیت سے قطع نظر کے وہ محسن علم امیروں جیسا ایک امیر اور عام قاضیوں جیسا ایک قاضی اور عام ریڈروں جیسا ایک ریڈر ہو جیسا کہ مولانا اسلم جیراج پیدی کا خیال ہے۔ اسی طرح نبوت کی حقیقت پر بھی نہیں ہے کہ نبی کی ذات بشریہ پر نبوت غارض ہوتی ہے اور اس کے عوام کے بعد بھی نبی کی بشیریت اور اس کی نبوت دونوں علیحدہ علیحدہ رہتی ہوں حتیٰ کہ ہم اس کی زندگی کو دو مختلف شعبوں میں تقسیم کر کے صرف اس شعبہ کو اطاعت و اتباع کے لیے منتخب کر سکیں جو نبوت سے آموخت رکھتا ہے، جیسا کہ ہمارے دوست چودھری غلام احمد صاحب پروردیز کا خیال ہے۔ یہ تینوں خیالات بے اصل میں۔ ان کے بعد قرآن مجید سے نبوت کی حقیقت پر جو روشنی پڑتی ہے اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ نبی اپنی پیدائش اور پروردش کے مراحل سے گزرنے کے بعد نبوت کے لیے منتخب نہیں کیا جاتا ہے بلکہ وہ کار نبوت ہی کے لیے پیدا کیا جاتا ہے۔ وہ اگرچہ بشیری ہوتا ہے اور ان تمام حدود سے محدود و مباؤ کرتا ہے جو حق تعالیٰ نے فطرت بشریہ کے لیے متقرر فرمائی ہیں، لیکن ان حدود کے اندر اس کی بشیریت آخری اور انتہا درجہ کی کامل و اکمل بشیریت ہوتی ہے جس میں وہ تمام قویں بدرجہ اتمم موجود ہوتی ہیں جو زیادہ ایک انسان کو مواصل ہونی ممکن ہیں۔ اس کے جهانی، انسانی اور عقلی درود حادی قویٰ عدل و تسویہ (Balance and Moderation) کے نتھیاً مقام پر ہوتے ہیں۔ اس کے ادراکات اتنے لطیف ہوتے ہیں کہ وہ بلا کسی غور و فکر کے اپنے دجدان سے اس اہام اہنی کو پا لیتا ہے جس کی طرف فَإِنَّهُمْ هُنَّا فِي جُورٍ هُمَا وَنَقْعُونَهَا میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کی فطرت اتنی صحیح ہوتی ہے کہ وہ کسی خارجی تعلیم و تربیت کے بغیر صرف اپنے میل طبعی سے فجور کی راہ چھوڑ کر تقویٰ کی راہ اختیار کرتا ہے۔ اس کا قلب اتنا سلیمانی ہوتا ہے کہ وہ ہر عالمہ میں جو اس کے سامنے آئے اس اہنی ہدایت کو تھیک تھیک سمجھ لیتا ہے جس کی معرفت وَهَدَىٰ بَلِهُ الْجَنَّدِينَ میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔

اس کے قلب کی سلامت اور اس کی فطرت کی صحت اس کو خود بخود ان راستوں سے  
ٹھہار دیتی ہے جو رضالتے الہی کے خلاف ہیں۔ اور وہ آپ سے آپ ان راستوں پر  
چلتا ہے جو مرضاتِ الہی کے عین مطابق ہیں۔ یہی کامل و اکمل بشیریت ہے جس کے متعلق  
وہ صحیح معنوں میں بالفعل خدا کا خلیفہ ہوتا ہے اور یہی چیز ہے جو اپنی پختگی اور اپنے  
کمال کو پہنچ جانے کے بعد ہدایتِ عام کے منصب پر سرفراز کی جاتی ہے، حق تعالیٰ کی  
جانب سے علم کی مزید روشنی پا کر سراجِ منیر بنتی ہے، مصباحِ عامہ بشیریہ کے لیے تعلیمات  
اور حکام کا مہبیط قرار پاتی ہے، اور اصطلاح میں ثبوت درستالت سے موسم ہوتی  
ہے۔ لہذا یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے کہ ثبوت ایک عرض ہے جو ایک خاص وقت میں بنی کے  
جوہرِ انسانیت پر عارض ہوتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہی انسانیت کاملہ کا جو  
ہے جو ثبوت کی استعداد کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے اور فضیلت کی طرف ترقی کرتے کرتے  
آخر کارث ثبوت بنادیا جاتا ہے۔ ثبوت کا منصب ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان تھا جو  
والسرتے بنادیا گیا، حقیقت کہ اگر اس کی جگہ کوئی دوسرا انسان ہوتا تو وہ بھی اسی کی طرح  
والسرتے بنادیا جا سکتا تھا، بلکہ وراثی ثبوت ایک پیدائشی چیز ہے، اور نبی کی حیثیت  
ذاتی ہی اس کی حیثیت نبوی ہے۔ فرق اگر ہے تو صرف اتنا ہے کہ بعثت سے قبل  
اس کی حیثیت نبوی بالقوۃ ہوتی ہے اور بعثت کے بعد بالفعل ہو جاتی ہے۔ اس کا  
مثال ایسی ہے جیسے میٹھا پھل، کہ وہ بالذات میٹھا پھل ہی پیدا ہوا ہے، لیکن اس  
کی مشاہسِ پختگی کی ایک خاص حد پر پہنچ کر ہی ظاہر ہوتی ہے۔

اب ان آیات کا مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آسکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ثبوت  
اور ذات نبوی کے حق میں متعدد مقامات پر ارشاد فرمائی ہیں۔ میں توضیحِ مدعا کے  
لیے ان آیات کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ مرتب کرنے کے لائق کرنا ہوں:-

۱۰، وَمَا كَانَ اللَّهُ بِيُظْلِمُكُمْ  
عَلَى الْعَيْبِ وَالْكَتَّابِ اللَّهُ يُعْلَمُ  
مِنْ رَسُولِهِ مَنْ يَشَاءُ فَمَا مِنْهُ

بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ -

چُن لیتا ہے پیں ایمان لاو اللہ پر اور اس کے  
رسولوں پر۔

رآل عمران: ۱۴۹

۶۲، وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا  
بِإِعْلَامٍ بِآذْنِ اللّٰهِ - رالنسار: ۷۷

اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا تھے اسی لیے  
بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ  
کے اذن سے۔

جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا  
کی اطاعت کی۔

وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ  
أَطَاعَ اللّٰهَ رالنسار: ۸۰

تارے کی قسم حب دہ ٹوٹتا ہے، تمہارا حصہ  
دینی نبی، نہ کم کروہ راہ ہے اور نہ کج راہ، لوہ  
نہ دہ ہوائے نفس سے بوٹتا ہے وہ مرت  
وجی ہے جو اس پر کی جاتی ہے۔

۶۳، وَالْجَمِيرُ إِذَا هُوَى، أَمَا حَصَّلَ  
صَاحِبُكُمْ وَمَا نَغَوَى وَمَا يَمْطِقُ عَنْ  
الْهُوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِي يُوحَى -  
النجم: ۱۰۴

یہ صرف اس وجی کا اتباع کرتا ہوں جو  
محب پر کی جاتی ہے۔  
تمہارے لیے رسول خدا میں ایک اچھا نامہ  
ہے۔

۶۵، إِنَّمَا كَانَ نَكْرُمٌ فِي رَسُولِ اللّٰهِ  
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ راخاب: ۳۱

اے محمد اکہہ دو کہ الگ تم کو خدا سے محبت  
ہے تو میرا اتباع کرو۔ اللہ تم سے محبت کیلئے  
اپنی ایمان کا کام تو ہے کہ جب ان کو اللہ  
اور اس کے رسول کی طرف بیایا جائے تاکہ  
در رسول، ان کے درمیان فیصلہ کرنے تو  
کہیں کہ ہم نے سننا اور مان لیا۔ ایسے ہی  
لوگ فلاخ پانے والے ہیں..... اور

۶۶، قُلْ إِنَّ كُنْتُمْ تَنْجِيْتُمْ اللّٰهَ  
فَإِنَّمَا يُنْجِيْنِي مُحْبِبُكُمْ اللّٰهُ - رآل عمران: ۱۴۳

۶۷، إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ  
إِذَا دُعُوا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ يَعْلَمُ  
بِمَا يَنْهَا إِنْ يَعْلَمُوا سَمِعُتَاهُ وَأَطْعَنَاهُ  
فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (نور: ۱۵)

۶۸، وَإِنْ تَطِيعُوهُ فَنَهْتَدُوا - (النور: ۱۶)

لے یعنی رسول نبادت نہ و مطاع نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے اذن پا اس کے حکم کی بناء پر مطاع ہوتا ہے۔

اگر تم اس کی دلیلیں رسول کی، اطاعت کرو گے تو بہادیت پاؤ گے ہے۔

پس قسم ہے تیر سے پروردگاری، نہیں اور  
ہرگز موسیٰ نہیں ہیں جب تک کہ وہ اپنے  
آپس کے چھوٹے سے میں تجوہ کو فیصلہ کرنے  
والا نہ بنائیں، پھر تو جو فیصلہ کرے اس سے  
اپنے دلوں میں کوئی ملکی بھی نہ پائیں بلکہ بسر  
تسلیم کر لیں۔

رَهْ فَلَا وَرَبَّ لَكَ لَا يُؤْمِنُونَ  
حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بِيْنَهُمْ ثُمَّ  
لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا إِذَا  
فَضَّلَتْ وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْسُلِيْمًا۔

(النساء: ۲۵)

کسی مومن مرد یا عورت کو یہ حق نہیں کہ جب  
اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر  
دے تو اس کے لیے اپنے معاملہ میں خود  
کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار باقی رہے جس نے  
اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ میں  
گمراہی میں ڈر گیا۔

۱۰۱) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ قَلَّا مُؤْمِنَةٌ  
إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ  
تَبْكُونَ لَهُمْ الْخَيْرَ كَا مِنْ أَمْرِهِمْ  
وَمَنْ يَعْصِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ  
فَلَلَّا لَأَمْبَيْنَا۔ (راخاب: ۳۶)

ان آیات پر غور کیجیے تو تمام حقیقت آپ پر بھل جاتے گی۔

اپنے پہلی آیت میں نبی اور عام انسانوں کے درمیان فرق ظاہر کیا گیا ہے اور تباہ کیا ہے کہ نبی پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ اپنے غائب کا علم ہر انسان پر فرد افراد اظاہر نہیں کرتا بلکہ اپنے بندوں میں سے کسی خاص بندے پر ظاہر کرتا ہے، اس لیے عام انسانوں پر لازم ہے کہ وہ اس بندے پر ایمان

لے غائب یعنی وہ غیر محصور حقیقتیں جن سے واقف ہجئے بغیر دنیا میں انسانی زندگی کے لیے کوئی  
صحیح طریقہ اور نظام نہیں بن سکتا۔ مثلاً یہ کہ انسان کی اصلاحیت کیا ہے؟ وہ آزاد ہے یا کسی کا حکومت  
حکوم ہے تو کس کا حکوم ہے؟ اپنے حاکم سے اس کے تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ اسے کبھی اپنے حاکم  
کو جواب دینا ہے یا نہیں؟ جواب دینا ہے تو کہاں؟ کس شکل میں؟ کس معیار پر؟ کہ کن معاملات میں

لامیں۔

(۴) دوسری آیت میں بتایا گیا ہے کہ رسول پر ایمان لانے کا مدعا صرف یہی نہیں ہے کہ اس کو رسول خدامان لیا جاتے، بلکہ اس کے ساتھ رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ یہ اطاعت کا حکم نہ صرف اس آیت میں، بلکہ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی دیا گیا ہے، مطلق ہے، مقید نہیں ہے۔ کسی ایک جگہ بھی یہی نہیں بتایا گیا کہ رسول کی اطاعت فلاں فلاں امور میں ہے اور ان امور کے سوا کسی دوسرے امر میں نہیں ہے پس قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے اس کا رسول ایک حاکمِ عام ہے۔ جو حکم بھی وہ دے، مونوں پر اس کا ماننا لازم ہے۔ یہ خود رسول کے اپنے اختیارات میں ہے کہ الہی ہدایت کے ماختت اپنی حکومت کے اقتدار کو مخصوص حدود کے اندر محدود کر دے، اور ان حدود سے باہر لوگوں کو راستے اور عمل کی آزادی سخن دے یعنی مونوں کو یہ حق ہرگز نہیں دیا گیا کہ وہ خود رسول کے اختیارات کی حد بندی کر دیں۔ وہ تو قطعاً معلوم و مامور میں۔ اگر رسول ان کو زراحت اور سچاری اور خداوی وغیرہ کے طرافقوں میں سے بھی کسی خاص طبقے کو اختیار کرنے کا حکم دیتا تو ان کا فرض یہی تھا کہ بے چون و چرا اس کے حکم کی علت کرتے۔

۳۔ جب اطاعت غیر مشروط اور غیر محدود کا حکم دے دیا گیا تو یہ اطمینان دلانا بھی ضروری تھا کہ نبی کی اطاعت، اپنے جیسے ایک انسان کی اطاعت نہیں ہے، جیسا کہ جاہل کفار کا خیال تھا۔ جو کہتے تھے کہ *هَذَا إِلَّا دُشْرِمُ شُكُورٌ مُّدَيْيَّا* (الأنبياء: ۱۳)

۴۔ اس جواب دہی میں کامیاب یا ناکام ہونے کا کیا تیجہ ہو گا؟ ان سوالات کا جواب تک کوئی جواب، اور وہ بھی قیاسی و مگانی جواب نہیں بلکہ علی اور یقینی جواب معلوم نہ ہو انسانی زندگی کے بیسے کوئی اسکیم نہیں بن سکتی۔ اور یہی وہ علم ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ”غیب کے علم“ سے تعبیر فرمائیا ہے۔

تھیں جیسا ایک بشر نہیں ہے ؟ اور حاصلہ آلا بشر مثلكم مُرِيْدُ انْ يَخْصُّ  
عَلَيْكُمْ كَمْ دَلَّتْ : (۲۷) یہ کچھ نہیں ہے گرتا ہے یہی جیسا ایک بشر، اور اس پر یہ چاہتا ہے  
کہ تم پر خضیت حاصل کرے : ”اُور وَ لَئِنْ أَطْعَمْتَ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنْ كَرِادَ الْحَسْدَوْنَ  
وَمِنْهُنْ (۲۸)“ اگر تم نہ اپنے جیلک بشر کی اطاعت کی تو تم ضرور ٹوٹے ہیں (ہو گئے) بلکہ  
در اصل یہ خدا کی احیاثت ہے، کیونکہ بھی جو کچھ کہتا ہے خدا کی طرف سے کہتا  
ہے اور جو کچھ عمل کرتا ہے خدا کی ہدایت کے ماتحت کرتا ہے، وہ خود اپنے  
نفس کی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا بلکہ خدا کی وجہ کا اتباع کرتا ہے، اس لیے  
تم کو ہلکن ہو جانا چاہیے کہ اس کی پروردی میں کسی قسم کی گراہی اور غلط روی کا  
خطرہ نہیں ہے۔

بہی بات ہے جو تیسرا، چوتھی اور پانچویں آیت میں بیان کی گئی ہے چوتھی  
اور پانچویں آیت میں جس چیز کو دھی کہا گیا ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس  
سے مراد کتاب اللہ ہے اور کتاب کے سوا کوئی دھی نبی پر نازل نہیں ہوتی لیکن  
یہ خیال قطعاً فلسفہ ہے۔ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ انبیاء و ملیکم السلام پر صرف  
کتاب ہی نازل نہیں کی جاتی تھی بلکہ ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ  
ہمیشہ دھی نازل کرتا رہتا تھا اور اسی دھی کی روشنی میں وہ سیدھی راہ چلتے تھے،  
معاملات میں صائب رائے قائم کرتے تھے، اور تدبیری عمل میں لاتے تھے۔

مثال کے طور پر دیجیے۔ نوح عليه السلام طوفان کی پیش بندی کے لیے اللہ کی  
نگرانی میں اور اس کی دھی کے ماتحت کشتی بناتے ہیں رَقَاهُتَعِيْدَتِ بَاعْيَيْنَا  
وَوَحْيَيْنَا (۲۹) ہوں، حضرت ابراہیم کو حکومت سموات وارض کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے  
اور مردیں کو زندہ کرنے کی کیفیت دکھائی جاتی ہے۔ حضرت یوسف کو خوابوں  
کی تعبیر بتاتی جاتی ہے رَذَالِكُمَا حَمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي (۳۰) (رویت: ۳۰)، حضرت ہوسی طوپراییں  
کی جاتی ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ یہ تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے ؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ میری  
لامبی ہے، اس سے مجریاں چڑاتا ہوں۔ حکم ہوتا ہے کہ اس کو بھینک دو۔ جب

لامبھی اڑوہا بن جاتی ہے اور حضرت موسیٰ در کر جا گئے ہیں تو فرمایا جاتا ہے یا موسیٰ  
 آفیل ولا تخفف انک مِن الامینین وَقُصْد: ۱۴۷ ہمیڈروہیں، اگے بُرھو، تم امن  
 میں ہو۔ پھر حکم دیا جاتا ہے اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ۖ ۱۴۸ فرعون کی طرف  
 جاؤ ہے سرکش ہو گیا ہے ۱۴۹ وہ اپنی مدد کے لیے ہارون علیہ السلام کو مانگتے ہیں اور یہ  
 درخواست قبول کی جاتی ہے ۱۵۰ دونوں بھائی فرعون کے پاس جاتے ہوئے درستے  
 ہیں تو ارشاد ہوتا ہے لا تَخَافَا إِنَّمَا مَعَكُمَا أَسْمَعْ وَأَرَى ۖ ۱۵۱ ۱۵۲ میں تم  
 دونوں کے ساتھ ہوں اور سنتا ہوں ۱۵۳ فرعون کے دربار میں سانپوں کو دیکھو کہ حضرت  
 موسیٰ درستے ہیں تو رحی آتی ہے لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ۖ ۱۵۴ ۱۵۵ میں در، ۱۵۶ ۱۵۷  
 بول بالا ہو گا ۱۵۸ جب فرعون پر اتمام محبت ہو چکتا ہے تو ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ  
 آسْوِيْعَبَادِيْ نَبِلًا إِنْكُمْ مُتَبَعُونَ ۖ ۱۵۹ ۱۶۰ میرے بندوں کو کہ راتوں رات چل  
 ٹپو، تمہارا مقابہ کیا جاتے گا ۱۶۱ دریا پر پہنچتے ہیں تو فرمان آتا ہے اِصْرِيبْ لِعَصَمَ  
 الْجَحْوَ ۖ ۱۶۲ ۱۶۳ دیا پر اپنا حصہ مار دیا ۱۶۴ ان میں سے کوئی وحی بھی ایسی ہے جو کتاب  
 کی صورت میں ہدایت عامہ کے لیے نازل ہوتی ہو یہ مشاہیں اس حام کے ثبوت  
 میں کافی ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ رہتا ہے اور نہ  
 ایسے موقع پر جہاں بشری فکر و راستے کی غلطی کرنے کا امکان ہوا پسی وحی سے ان  
 کی رہنمائی کرتا رہتا ہے اور یہ وحی اس وحی سے ماسوا ہوتی ہے جو ہدایت عامہ کے  
 لیے ان کے واسطہ سے بھیجی جاتی اور کتاب میں ثابت کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کے  
 لیے ایک الہی ہدایت نامے اور دستور العمل کا کام دے۔

ایسی ہی وحی خیر مندو اور وحی خوبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل ہوتی تھی  
 جس کی طرف قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اشارے کیے گئے ہیں ۱۶۵ حضور انور نے  
 پہلے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا ۱۶۶ اس کے متعلق کوئی حکم کتاب اللہ میں نہیں آیا  
 مگر جب اس قبلہ کو مفسوح کر کے بیت الحرام کو قبلہ بنانے کا حکم دیا گیا اس وقت  
 ارشاد ہوا ۱۶۷

جس قبلہ پر تم تھے اس کو ہم نے صرف اس سے  
مقرر کیا تھا کہ رسول کا اتباع کرنے والے اور  
اتباع سے منہ مورث نے والے کے درمیان  
امتیاز ہو جاتے۔

وَمَا جَعَلْنَا الْقُبْلَةَ الَّتِي  
كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ  
الرَّسُولَ مِنْ يُنَقِّلُ بَعْلَى  
عَقْدِيهِ۔ (یقرو: ۱۲۶)

اس سے معلوم ہوا کہ پہلے جو بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تھا، وہ وجہ کی بنی  
پر تھا۔

جنگ اُحد کے موقع پر حضور نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد  
کے لیے فرشتے بھیجے گا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے اس ارشاد کا ذکر قرآن میں  
اس طرح فرمایا:

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ الْأَبْشِرَى  
اللہ نے اس وعدے کو تمہارے لیے  
کئم۔ دآل عمران: ۱۲۷ خوشخبری بنایا۔

ظاہر ہوا کہ یہ وعدہ اللہ کی طرف سے تھا۔

جنگ اُحد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدرا نامیہ کے لیے  
لوگوں کو نکلنے کا حکم دیا۔ یہ حکم قرآن میں کہیں نہیں آیا۔ مگر اللہ نے بعد میں تصدیق  
کی کہ یہ بھی اسی کی جانب سے تھا۔

آَذِنَّ أَسْبَحَابَوْأَنْفُلَهُ وَ  
الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمْ  
الْقَرْحُ۔ دآل عمران: ۱۲۸

جنگ بدرا کے موقع پر حضور کے مدینے سے نکلنے کا ذکر ان الفاظ میں  
فرمایا گیا ہے:

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ  
بَيْتِكَ۔ رانقال: ۵) نکلا۔

گھر سے نکلنے کا حکم قرآن میں نہیں آیا، مگر بعد میں اللہ نے تصدیق فرمائی کہ

یہ خود جو اس کے حکم سے تھا نہ کہ اپنی راستے سے۔

پھر عین جنگ کے موقع پر اللہ نے اپنے بنی کو خواب دکھایا:

**إِذْ بَرِّيَّكُمْ مِّنَ الْمُنَاجَاةِ** جب کہ اللہ ان کو فکیل بنائ کر تیرے  
قَدِيلًا۔ رانفال: ۴۳) خواب میں تجھے دکھار لے تھا۔

منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم صدقات پر ناک بخوبی چڑھاتی تو اللہ نے اس حقیقت پر سے پردہ اٹھایا کہ یہ تقسیم خود حضرت حق کے ارشاد سے عمل میں آئی تھی۔

**وَلَوْا نَهْمُرَ رَضُوا أَصَا الْهُمْ** اگر وہ راضی ہو جاتے اس حصہ پر جو اللہ  
اللہ وَرَسُولُهُ۔ ذوبہ: ۵۹) اور اس کے رسول نے ان کو دیا۔

صلح حدیثیہ کے موقع پر تمام صحابہ صلح کے مخالف تھے، اور صلح کی شرط ہر شخص کو ناقابل قبول نظر آتی تھیں مگر اللہ کے بنی نے ان کو قبول کیا، اور اللہ نے بعد میں تصدیق کی کہ یہ صلح اسی کی جانب سے تھی۔

**إِنَّا فَخَنَّاكَ فَتَحَّا مُبِينًا فِتْنَةً**: ۱۱) ہم نے تجھ کو فتح میں عطا کی۔

آیات کے متبع سے اس قسم کی ادبی بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں مگر یہاں استقصاء مقصود نہیں ہے۔ صرف یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ اللہ کا تعلق اپنے انبیاء کے ساتھ کوئی عارضی اور موقتی تعلق نہیں ہے کہ جب کبھی اس کو اپنے بندوں تک کوئی پیغام پہنچانا ہوں اسی وقت یہ تعلق بھی قائم ہو اور اس کے بعد منقطع ہو جاتے۔ بلکہ دراصل حق تعالیٰ جس شخص کو اپنی پیغمبری کے لیے منتخب فرماتے ہیں اس کی طرف وہ ہمیشہ ایک توجہ خاص کے ساتھ متوجہ رہتے ہیں، اور وہ اپنی اپنی دھنی سے اس کی ہدایت وہنجائی فرماتے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں ٹھیک ٹھیک راہ راست پر گامز ن رہے، اور اس سے کوئی ایسا قول یا فعل صادر نہ ہوئے پاسے جو مرضیات اپنی کے خلاف ہو۔ سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں جو کچھ ارشاد ہوا ہے وہ دراصل اسی حقیقت کا اظہار ہے اور

جیسا کہ میں اس مضمون کے پہلے حصہ میں عرض کر جکا ہوں، یہ بات بھی قرآن نے  
کھول کر بیان کر دی ہے کہ انبیاء پر سہیشہ اللہ کی نگرانی رہتی ہے، ان کو غلط  
روی سے محفوظ رکھا جاتا ہے، اور اگر باقتصناتے لبشرتی ان سے کچھی کوتی  
لغوش ہوتی ہے، یادچی خفی کے نظیف اشارے کو سمجھنے میں وہ کبھی غلطی کرتے  
ہیں، یا اپنے اجتہاد سے کوئی ایسی روشن اختیار کر جاتے ہیں جو مرضاتِ الہی سے  
یک سر مُوجہ بھی ہٹی ہوئی ہتواللہ تعالیٰ فوراً ان کی اصلاح کرتا ہے اور تنبیہ کر کے  
سیدھے رستے پرے آتا ہے۔ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے  
انبیاء تے کرام کی لغوشوں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی تنبیہوں کا جو ذکر آیا ہے، اس  
کا ہرگز یہ ملشا نہیں کہ لوگوں کے دلوں سے انبیاء علیہم السلام کا اعتماد اٹھ جاتے اور  
لوگ یہ سمجھنے لگتے کہ جب انبیاء بھی ہماری ہی طرح نحوزہ اللہ غلط کاری میں تو ان کے حکام  
کی اطاعت اور ان کی روشن کی پرروی کامل اطمینان کے ساتھ کیسے کی جاسکتی ہے بلکہ  
اس ذکر سے مقصود یہ تباہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ہواۓ نفس کا اتباع کرنے  
یا اپنی راستے اور بشری اجتہاد پر چلنے کے لیے آزاد نہیں چھوڑ دیا ہے۔ وہ چونکہ  
اس کی طرف سے اس کے بندوں کی رہنمائی کے لیے ماہر کیے گئے ہیں، اس  
لیے ان پر یہ پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ دامنا اس کی بدبختی پر کار بندی میں اور  
اپنی زندگی کے کسی چھوٹے بے چھوٹے کام میں بھی اس کی رضائے خلاف عمل نہ  
کریں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بعض ایسی باتوں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
کو تنبیہ کی گئی ہے جو عام الناسی زندگی میں قطعاً کوئی اہمیت نہیں رکھتیں۔ مثلاً  
کسی انسان کا شہد کھانا یا نہ کھانا، اور کسی اندھے کی طرف توجہ نہ کرنا اور اس کے  
دخل در منقولات پر ہیں بہ جیسی ہو جانا، یا کسی کے لیے دعائے مغفرت کرنا، کوئی  
ایسا اہم واقعہ نہ ہا؟ مگر اللہ نے اپنے نبی کو ایسے چھوٹے معاملات میں بھی اپنی رائے  
یاد دوسروں کی مرضی پر چلتے نہ دیا۔ اسی طرح جنگ کی شرکت سے کسی کو معاف نہ  
دینا، اور بعض قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا ایک امیر کی زندگی میں محض ایک

معولی واقعہ ہے، مگر نبی کی زندگی میں یہی واقعہ آتنا احمد بن جاتا ہے کہ اس پڑھی جلی کے ذریعے سے نبی کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حیثیت عالم امراء کی سی نہیں ہے کہ وہ اپنے اجتہاد پر عمل کرنے میں آناء ہو، بلکہ منصب نبوت پر مأمور ہونے کی وجہ سے نبی کے پیسے لانہ ہم ہے کہ اس کا اجتہاد بھی نبیک ٹھیک نشادابنی کے مطابق ہے۔ اگر وہ اپنے اجتہاد میں وحی خلقی کے اشارے کو نہ سمجھ کر مرضی ابنی کے خلاف باں برابر بھی جنیش کرتا ہے تو اللہ وحی جلی سے اس کی اسلام کرنا ضروری سمجھتا ہے۔

۴۔ اللہ نے اپنے نبی کی اس خصوصیت کو ہمارے سامنے اسی لیے بیان فرمایا ہے کہ ہم کو اس کے نبی کی راست روی پر کامل اختاد ہوا درہم پوچھے و توق کے ساتھ یقین رکھیں کہ نبی کا قول اور عمل مگر اسی اور کچھ را ہی اور اتباع ہونی اور بشری فکر دراست کی غلطیوں سے قطعاً محظوظ ہے۔ زندگی میں اس کا قدم مضبوطی کے ساتھ اس صراطِ مستقیم پر جا ہوا ہے جو ٹھیک ٹھیک خدا کی تباہی ہوئی ہے۔ اس کی سیرت پاک اسلامی سیرت کا ایک ایسا معیاری نمونہ ہے جس میں کسی نقص کا شائستہ نہیں ہے۔ اور اللہ نے خاص طور پر اس کا مکمل و اکمل نمونہ کو اسی لیے بنایا ہے کہ اس کے بندوں میں سے جو کوئی اس کا مقبول و محبوب بندہ بننا چاہتے وہ بے خطر اسی کی پیروی کرے۔ اس مقصد کو چھپی اور ساتویں آیت میں کھوں دیا گیا ہے۔ چھپی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ تمہارے پیسے رسول اللہ میں ایک "اسوہ حسنة" ہے۔ اور ساتویں آیت میں رسول اللہ کے اتباع کو محبوب ابھی بننے کا واحد ریغہ بتایا گیا ہے۔

یہاں پھر ہم کو کسی قسم کی تضییع و تحدید قدر نہیں آتی۔ صریح تعمیم و اطلاق ہے۔ رسول اللہ کی ذات کو مطلع اسرة حسنہ بتایا گیا ہے اور مطلع ابھی آپ کے اتباع کی پدایت کی گئی ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جس قدر زیادہ آپ کا اتباع کر دیگے، اور اپنی زندگی میں سیرت پاک کا زگ عیناً زیادہ پیدا کرو گے، اُنہاں ہی تقریب

تم کو بارگاہِ الہی میں حاصل ہوگا، اور حق تعالیٰ آتا ہی تم کو پیار کرے گا۔  
 مگر حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ قرار دینے اور آپ کے اتباع  
 کا حکم دینے سے یہ مراونہ ہیں ہے کہ تمام معاملاتِ زندگی میں آپ نے جو کچھ کیا ہے  
 اور جس طرح کیا ہے سب انسان بعینہ وہی فعل اسی طرح کریں، اور اپنی زندگی  
 میں آپ کی حیاتِ طیبہ کی ایسی کتل اتاریں کہ اصل اور نقل میں کوئی فرق نہ رہے یہ  
 مقصد نہ قرآن کا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ دراصل یہ ایک عام اور اجاتی حکم ہے جس  
 پر عمل کرنے کی صحیح صورت ہم کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور صحابہ کرام حسن  
 اللہ علیہم اجمعین کے طریقہ سے معلوم ہو جاتی ہے۔ یہاں اس کی تفصیل کا موقع  
 نہیں۔ مجہلا میں عرض کرتا ہوں کہ جو امور فرائض و واجبات اور ارکانِ اسلام کی  
 چیزیں رکھتے ہیں ان میں توحیدوڑ کے ارشادات کی اطاعت اور آپ کے عمل کی  
 پیروی طبقی العمل بالفعل کرنی ضروری ہے، مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور طہارت  
 وغیرہ مسائل کہ ان میں جو کچھ آپ نے حکم دیا ہے اور جس طرح خود عمل کر کے بتایا ہے  
 اس کی تھیک تھیک پیروی کرنی لازم ہے۔ رہے وہ امور جو اسلامی زندگی کی عام  
 ہدایات سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً مدنی، معاشی، اور سیاسی معاملات، اور معاشرت  
 کے جزویات، تو ان میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا حضورؐ نے حکم دیا ہے یا جن سے  
 پچھنے کی تاکید فرمائی ہے، بعض ایسی ہیں جن میں آپ نے اخلاق اور حکمت اور شاستری  
 کی تعلیم دی ہے، اور بعض ایسی ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ  
 عمل کے مختلف طریقوں میں سے کوئی اخلاقی روح اسلامی سے مطابقت رکھتا  
 ہے۔ پس اگر کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ توحیدوڑ کا اتباع کرنا چاہے اور اسی  
 غرض سے آپ کی سنت کا مطالعہ کرے تو اس کے لیے یہ معلوم کرنا کچھ بھی  
 مشکل نہیں کہ کتنی امور میں آپ کا اتباع طبیقی العمل ہونا چاہیے، کن ہو  
 میں آپ کی سنت سے اخلاق و حکمت اور خیر و صلاح کے عام اصول مستنبٹ کرنے  
 پا، میں۔ مگر جن لوگوں کی طبیعت زراع پسند واقع ہوئی ہے وہ اس میں طرح

کی جھیں نکالتے ہیں۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی بولتے تھے تو کیا ہم بھی عربی بولیں؟ آپ نے عرب عورتوں سے شادیاں کیں تو کیا ہم بھی عربوں ہی میں شادیاں کریں؟ آپ ایک خاص وضع کا لباس پہنچتے تھے تو کیا ہم بھی ویسا ہی لباس پہنچیں؟ آپ ایک خاص قسم کی غذا کھاتے تھے تو کیا ہم بھی وہی غذا کھائیں؟ آپ کی معاشرت کا ایک خاص طریقہ تھا تو کیا ہم بھی یعنیہ ویسی ہی معاشرت اختیار کریں؟ کاش یہ لوگ غور کرتے کہ اصل چیز وہ زبان نہیں ہے جو آپ بولتے تھے بلکہ وہ اخلاقی حدود ہیں جن کی پابندی کو حضور نے ہدیث کلام میں محفوظ رکھا۔ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ شادی عرب عورت سے کی جاتے یا غیر عرب سے بلکہ یہ ہے کہ جس عورت سے بھی کی جاتے اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہو، اس کے حقوق ہم کس طرح ادا کریں، اور اپنے جائز شرعی اختیارات کو اس پر کس طرح استعمال کریں۔ اس معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پرستاؤ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ تھا اس سے بہتر نہ ہے ایک مسلمان کی خانگی زندگی کے لیے اور کوئی ہو سکتے ہے۔ پھر یہ کس نے کہ آپ جس وضع کا لباس پہنچتے تھے وہی مشروع لباس ہے؟ اور جو کھانا آپ کھاتے تھے یعنیہ وہی کھانا ہر مسلمان کو کھانا چاہیے؟ اصل میں اتباع کے قابل جو چیز ہے وہ تو تقویٰ اور پاکیزگی کے وہ حدود ہیں جو آپ اپنے کھانے پینے اور پہنچنے اور رکھنے میں محفوظ رکھتے تھے۔ انہی حدود سے ہم کو معلوم ہو سکتا ہے کہ رہبانیت اور نفس پرستی کے درمیان جس مختدل روشن کا ہم کو قرآن میں ایک محمل سبق دیا گیا ہے اس پر ہم کس طرح عمل کریں کہ نہ قو طبیعت سے ناروا احتساب ہوا اور نہ اسراف یہی حال حضور کی پرستی اور پاک زندگی کے دوسرے تمام معاملات کا بھی ہے۔ وہ پاک زندگی پوری ایک سچے اور خدا تریس مسلمان کی زندگی کا معیاری مذونہ تھی۔ حضرت عائشہ نے سچ فرمایا کہ کان خُلُقُهُ الْقُرْآنُ۔ اگر قم کو معلوم کرنا ہو کہ قرآن کی تعلیم اور اپرشن کے مطابق ایک مومن انسان کو دنیا میں کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو۔ جو مسلم

خدا کی کتاب میں محبل ہے وہی رسول خدا کی ذات میں نعم کو منفصل نظر آتے گا۔  
الحمد لله کہ ہمارے دوست چودھری علام احمد صاحب ان لوگوں کے  
ہم خیال نہیں ہیں، مگر بعض احادیث سے ان کو یہ شبہ ہو گیا ہے کہ "حضور ہر آن  
اور ہر حال میں رسول نہیں ہوتے تھے اور آپ کا ہر قول اور ہر فعل پر حیثیت  
رسول نہیں ہوتا تھا۔" یہ غلط فہمی جن روایات سے پیدا ہوتی ہے وہ دراصل  
ایک دوسری حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم  
ہر آن اور ہر حال میں خدا کے رسول ہی تھے، اور یہ شان رسالت ہی تھی کہ آپ  
ہمیشہ اس مقصد کو پیش نظر رکھتے تھے جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا۔ آپ کی  
بعشت کا مقصد یہ تو نہ تھا کہ لوگوں سے راستے اور عمل کی آزادی فلکی سلب کر  
لیں اور آن کی عقل و فکر کو معطل کر دیں۔ نہ آپ دنیا کو زراحت اور صنعت و  
حرفت سکھانے آئے تھے۔ نہ آپ کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ لوگوں کے کاروبار  
اور راستے کے ذاتی معاملات میں ان کی رہنمائی فرمائیں۔ آپ کی زندگی کا مقصد  
صرف ایک تھا اور وہ اسلام کو عقیدہ کی حیثیت سے دلوں میں بٹھانا اور عمل  
کی حیثیت سے افراد کی سیرت اور رسولانی کے نظام میں نافذ کر دینا تھا۔ اس مقصد  
کے سوا دوسری کسی چیز کی طرف حضور نے کبھی توجہ نہیں فرماتی۔ اور اگر شاذ و نادر  
کسی موقع پر کچھ فرمایا بھی تو صاف کہ تم اپنی رائے اور عمل میں آزاد ہو، جس  
طرح چاہو کرو اُنتُمْ أَعْلَمُ بِمَا مُؤْمِنُونَ اگرچہ صحابہ کرام آپ کے ہر ارشاد کو  
رسول کا ارشاد سمجھ کر بدی وجہ اس کی اطاعت پر آمادہ تھے، اور آپ کو مطلقاً  
متلاع و متبوع سمجھتے تھے، اور اسی لیے جب کبھی حضور کسی دینی مشکل میں بھی کچھ  
ارشاد فرماتے تو صحابہ کو شبہ گز نہ تھا کہ شاید یہ حکم رسالت ہو، لیکن کبھی ایسا نہ  
ہوا کہ آپ نے کسی ایسے مشکل میں، جو آپ کے مقصد بعشت سے متعلق نہ تھا، جو  
کو کوئی حکم دیا ہوا اور انہیں اطاعت پر مجبور کیا ہو۔ ۲۳۶ سال کی تدت میں ایک  
محترم کے لیے بھی اپنے مشن سے غافل نہ ہونا، اور ہر آن اس باریکے فرقہ کو محو کر دھنا

کہ کوئی معاملہ اس مشن سے تعلق رکھتا ہے اور کوئی نہیں رکھتا، اور اپنے تبعین پر  
کامل اقتدار رکھنے کے باوجود کبھی ان کو کسی غیر متعلق امر میں حکم نہ دینا خود اس بات  
پر شاہد ہے کہ شان رسالت کسی وقت بھی حضور سے منفک نہ ہوتی تھی۔ مگر یہ جیاں  
کہ ناصیح نہ ہو گا کہ ذہبی معاملات میں جو کچھ حضور نے فرمایا وہ خدا کی وجہ سے نہ  
تھا۔ اگرچہ آپ کے ایسے ارشادات آپ کے احکام نہیں ہیں، نہ آپ نے ان کو  
حکم کے انداز میں فرمایا، اور نہ کسی نے ان کو حکم سمجھا، مگر پھر بھی جو بات آپ کی  
زبان مبارکہ سے نکلی وہ سراسر حق تھی، اور غلطی کا اس میں شائستہ تک نہ تھا۔ مثل  
کے طور پر طب نبوی کے باب میں جو کچھ آپ سے ثابت ہے وہ ایسی ایسی حکیما  
باتوں سے لبریز ہے جن کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ عرب کا اتنی جو طبیب نہ تھا  
جس نے کبھی فن طب کی تحقیق نہ کی تھی، وہ کس طرح اس فن کی تحقیقوں تک پہنچا،  
جو صدیوں کے تجربات کے بعد اب منکشافت ہو رہی ہی ہیں۔ اس قسم کی سینکڑوں  
مشائیں ہم کو حضور کے حکیما نہ ارشادات میں ملتی ہیں۔ اگرچہ یہ باتیں بقول آپ کے  
تبیغ رسالت سے تعلق نہیں رکھتیں، مگر اللہ آپ نے رسولوں کی جیلت میں جو غیر معمولی  
قویں و ولیعیت فرماتا ہے وہ صرف تبیغ رسالت کے کام ہی نہیں آتیں، بلکہ ہم معاشر  
میں اپنی شان انتیاز دکھا کر رہتی ہیں۔ خدادی اور زرہ سازی کا تبیغ رسالت سے  
کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ مگر حضرت داؤد اس میں غیر معمولی کمال دکھلتے ہیں اور حق  
تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ فن ہم نے ان کو سکھایا تھا، وَ عَلَّمَنَا صُنْعَةَ الْبُوَسِ الْكُحْرُ  
الْخَسِكَدُ مِنْ بَاسِكَهُ رَانِيَاد: ۸۰، پرندوں کی بولیاں جانتے سے تبیغ رسالت  
کو کیا واسطہ؟ مگر حضرت مسلمان اس میں کمال ظاہر فرماتے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ  
عِلَّمَنَا مَنْظِقَ الطَّيْرِ رَالْمَل: ۱۱۷، تجارتی اور کشتی سازی تبیغ رسالت کا کوئی شعبہ  
ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے یہ نہیں کہتا کہ ایک مفہومی کشتی بنوا لو، بلکہ  
فرماتا ہے وَ اصْنَعْ اُلْفُدْكَ بَاعْيَيْنَا وَ حَبَّنَا رَهُود: ۳۳،

پس انبیاء کے حق میں یہ گان کہ ناصیح نہیں کہ ان پر صرف وہی امور وجہی کیے

گئے تھے جو براہ راست تبلیغِ رسالت سے تعلق رکھتے ہیں۔ درحقیقت ان کی ساری زندگی حق تعالیٰ کی پداشت کے نتایج تھی۔ البتہ اگر فرق ہے تو یہ کہ ان کی زندگی کا ایک شعبہ ایسا ہے جس میں ان کے قدم بقدم ہن مسلمان ہونے کے لیے ناگزیر شرط ہے، اور ایک شعبہ ایسا ہے جس میں ان کا اتباع ہر مسلمان پر فرض نہیں۔ مگر جو شخص اللہ کا محبوب و مقبول بندہ بننا چاہتا ہو اور بارگاہِ حق میں تقرب کا طلبگار ہو، اس کے لیے بغیر اس کے چارہ نہیں کہ تھبیک تھبیک نبی کی سنت پر چلے، حتیٰ کہ اگر یہ سب موحیٰ اس خط سے ہے گا تو تقرب اور محبویت میں اسی انحراف کی حد تک کسر رہ جائے گی۔ اس لیے کہ محبویت کے لیے بجز اتباع نبی کے اور کوئی راستہ ہی نہیں، فَإِنْ يَعُوذُ بِيَحْيَى كُمَرُ اللَّهِ۔ (آل عمران: ۲۴)

۵۔ اس بحث کے بعد یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کی امارت اور دوسرے امیروں کی امارت میں کیا فرق ہے اور نبی کے فیصلے اور دوسرے قاضیوں کے فیصلے میں کتنا عظیم الشان تفاوت ہے۔ تاہم میں نے تین آخر میں ایسی نقل کی ہیں جن سے یہ فرق قطعی طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ ان آیات سے شروع ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے حکم پر سر جھکا دینا اور آپ کے فیصلے کو تسییم کرنا ایمان کے لیے ضروری شرط ہے جو اس سے انکا درکار ہے وہ مومن ہی نہیں۔ کیا یہ بات کسی دوسرے امیر یا قاضی کو حاصل ہے؟ اگر نہیں تو یہ کہنا کس قدر غلط ہے کہ "اللہ اور رسول کے الفاظ قرآن میں جہاں جہاں ساتھ ساتھ آتے ہیں، ان سے مراد امارت ہے" مجھے مولانا جیراج پوری کے اسی قول پر اعتراض ہے اور میں اس کو قرآن مجید کی تعلیم کے قطعی خلاف سمجھتا ہوں۔ رہاوہ مسئلہ جو چودھری صاحب نے پیش فرمایا ہے تو وہ ایک جدا گانہ مسئلہ ہے اور اس میں مجھے ان سے بالکل اتفاق ہے۔ میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولیٰ الامر کی اطاعت واجب ہے۔ اور اولیٰ الامر اسلامی حکومت کے وہ تمام فرائض انعام ویں گے جو رسول اکرم اپنی حیات طبقہ میں انجام دیتے تھے، اور معاملات میں اولیٰ الامر

کافی سند ہی آخری فیصلہ ہو گا۔ حقی کہ اگر کوئی شخص اپنی راستت میں ان کے فیصلہ کو حکم خدا در رسول کے خلاف بھی کہتا ہو، تب بھی ایک حدفاصلہ تک اس کے بیان لازم ہو گا کہ اپنی راستے پر قائم رہتے ہوئے ان کے فیصلے کو تسلیم کرے۔ لیکن اس کے یہ معنی کبھی نہیں ہو سکتے کہ امارت بعینہ وہی چیز ہے جس کو قرآن میں "اللہ اور رسول" کہا گیا ہے اور امارت کے احکام ہوں ہو وہی ہیں جو اللہ اور رسول کے احکام ہیں۔ اگر ایسا ہو تو امراء کے بگز جانے اور ارباب عمل و عقد کے کتاب و سفت سے مختف ہو جانے کی صورت میں مسلمانوں کے لیے کوئی چارہ ان کی اطاعت کرنے کے سوا، اور ہلاکت کے راستوں میں ان کی پردوی کرنے کے سوا باقی نہ رہے گا۔ ایسی صورت میں اگر کوئی بندہ خدا اٹھے اور اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنے کی تاکید کرے تو مولانا اسلم کے فتوے کی رو سے تو امراء اس کو باغی قرار دے کر قتل کر دینے میں بالکل حق بجانب قرار پائیں گے اور ان کو یہ کہنے کا حق ہو گا کہ "اللہ اور رسول" تو ہم ہی ہیں۔ دوسرا کون ہے جس کی طرف تو ہم کو پھر ناچاہتا ہے؟

رُّتْجَانُ الْقُرْآنِ - بِرَبِيعِ الثَّانِي ۱۴۲۷ھ - جُولائی ۱۹۰۸ء۔

## حدیث اور قرآن

### منکرینِ حدیث کے مسئلہ پر ایک ناقدانہ نظر

حال میں ایک صاحب نے ایک مختصر سارسالہ لکھا ہے جس کا عنوان ہے: "میں منکرِ حدیث کیوں ہو گا" مصنعت نے اپنا نام خاہر نہیں کیا بلکہ اپنے یہے "حق گو" کا القب اختریار فرمایا ہے۔ ابھی "حق گو" صاحب کا ایک مفصل مضمون "مطالعہ حدیث کے عناوں سے بھی بعض رسائل میں شائع ہوتا رہا ہے جس کے بعض حصے ہماری نظر سے گزد رہے ہیں۔ دلائل قریب قریب ہی ہیں جو منکرینِ حدیث کی جانب سے پیش کیے جاتے ہیں۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے۔ حدیث کی روایات ناقابل اعتبار ہیں، اور ان پر مذہب کی بنیاد رکھنا صحیح نہیں ہے۔ حق گو صاحب اور ان کے ہم خیال منکرینِ حدیث کی راستے میں حدیث سے اسلام کو قطعاً کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے بر عکس اسی چیز نے دشمنانِ اسلام کو وہ اسلحہ فراہم کیے ہیں جن سے وہ اسلام پر چلتے کرتے ہیں۔ اس لیے ان کی خوشی ہے کہ اسلام سے حدیث کو بالکل خارج کر دیا جاتے اور اس کو وہ اسلام کی ایک ٹری خدمت سمجھتے ہیں۔

حق گو صاحب نے اپنی ناٹیڈ میں حدیث کی کتابوں سے بہت سی شہادتیں پیش کی ہیں جن سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ احادیث سے کس طرح دشمنوں کو

اسلام اور رسول کی رسالت پر حملہ کرنے کے لیے موارد حاصل ہوتا ہے، مثلاً بعض احادیث تحریفیت قرآن کا ثبوت فراہم کرتی ہیں۔ بعض اس الزام کی تائید کرتی ہیں کہ وحی کا نزول ایک ڈھونگ تھا، رسول اللہ جو کچھ اہل کتاب سے سنتے تھے اس کو وحی بناؤ کر دیتے تھے (معاف اللہ)۔ بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی کا نزول رسول اللہ کی خواہشاتِ نفسانی کے مطابق ہوتا تھا۔ بعض اس امر کی شہادت دیتی ہیں کہ رسول اللہ پر جاؤ و کا اثر ہو جاتا تھا۔ بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ اپنے مخالفین کو خفیہ طریقوں سے قتل کر دیتے تھے (کعب بن اشرف کا واقعہ)۔ بعض سے رسول اللہ پر ظلم اور بیرحمی کا الزام عاید ہوتا ہے دخل اور عربیہ والوں کا قتل، بعض سے رسول اللہ پر نفس پرستی کا الزام نکلتا ہے۔ اسی سلسلہ میں مصنف نے رسول اکرم پر شاردا ایکٹ بھی نافذ کیا ہے اور ان سب روایات کو ناقابل اعتماد ٹھیک رہا ہے جو ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ سے نو سال کی عمر میں دی ہوئی ثابت کرتی ہیں۔ اس کے بعد مصنف علم حدیث پر عام اغراضات کرتا ہے۔ اس کے خیال میں حدیث کی اشاعت عہد خلفاءٰ راشدین میں ممنوع تھی۔ بنو امیہ اور آل عباس کے زمانے میں روایت کا سلسلہ شروع ہوا اور بادشاہوں کی سیاست اغراض کے لیے حدیثیں وضع کی گئیں۔ امام حسن بصری، امام زہری، امام مالک، صحاح سنت کے مصنفوں اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے حدیث کی کتابیں مدون کی ہیں، سب کے سب مصنفوں کے زعم میں جھوٹی حدیثیں گھرنے والے تھے اور ان لوگوں نے بے سرو پار روایتیں جمع کر کے اسلام کو منع کر دیا۔ سیاسی اغراض کے علاوہ حدیث میں ہیودیت، مسیحیت، جوسمیت اور دوسرے مذاہب کے عقاید اور خرافات بھی داخل ہو گئے۔ پارچ وقت کی نماز، تیس دن کے روزے، حرام اور میزان کا نہیں، احکام ذبحیہ، کھلنے پینے کی چیزوں میں مذہب کا داخل، ختنہ، قربانی، احکام طهارت، تصاویر اور محبووں کی حرمت، معراج کے قصے اور ایسی ہی بہت سی چیزوں مصنف کے نزدیک محدثین نے دوسرے مذاہب سے لیں اور رسول اللہ کی طرف محسوب کر کے

اسلام میں داخل کر دیں۔

امہ فقہہ بھی مصنف کے نزدیک قابل طعن ہیں۔ کیونکہ انہوں نے شریعت کا تجھیل یہودیوں سے لے کر اسلام کے سرچیک دیا، زندگی کے تمام معاملات پر مذہب کو حاوی کر دیا، جو قوانین عراق کی آب و ہوا اور پہاڑی و سری صدی کے حالات کی بنابر وضعيت کیسے لگنے تھے ان کو رسول اللہ کی طرف مسوب رکے غریب قوانین بنا دالا، اور اس ضرر مذہب اسلام "قومی شریعت" کا پابند ہو کر اس قابل نظر ہا کر دنیا میں اس کی اشاعت ہوتی اور دوسری قومیں اس کا اتباع کر سکتیں۔ مصنف کے نزدیک سیاست پال اور اس کے تبعیین کا یہ خیال درست تھا کہ مذہب (یعنی ایمانیات) کو شریعت (یعنی قانون حیات) سے الگ کرو دیا جائے، اور یہی تپز دنیا میں سیاست کی اشاعت کا باعث ہوئی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت جویں مصنف کے خیال میں اس یہے ہوئی تھی کہ شریعت کی بڑیوں کو کافر دیں اور زندگی کے معاملات کو مذہب کی پابندیوں سے آزاد کر دیں۔ دلیل میں یہ آیت پیش کی گئی ہے کہ وَلَيَقْتُنْ عَنْهُمْ أَصْوَاهُمْ وَالْأَعْذَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ رَءُوفُونَ وَمَا  
اس آیت میں انقلاب بڑیوں سے مراد مصنف کے نزدیک "انقلاب شریعت" ہیں اور وہ کہتا ہے کہ ائمہ فقہہ اور ائمہ حدیث نے رسول اللہ کے خلاف بغاوت کر کے پھر انہی انقلاب شریعت کو مسلمانوں پر ڈال دیا، جنہیں کاشتہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبسوٹ کیے گئے تھے، اور یہود کی تقلید میں ان لوگوں نے روایت حدیث اور "شریعت سازی" شروع کر دی۔ یہ سب کچھ مصنف کی رائے میں اس یہے کیا گی کہ یہود کے فریبیوں کی طرح یہ لوگ مسلمانوں پر اپنی گرفت فائم کرنا پڑتے تھے، اور اس غرض کے لیے انہوں نے رسول اللہ کے نام سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔

چھر لطف یہ ہے کہ مصنف اپنے تمام نظریات کی بناء تاریخی استدلال پر کرتا ہے، حالانکہ اگر حدیث کی روایات قابل اعتبار نہیں ہیں تو تاریخ ان سے بھی زیاد  
ناقابل اعتبار ہے۔ حدیث میں تو ہمارے زمانے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

یا صحابہ کرام یا ائمہ تک اسناد کا پوز اسلدہ موجود ہے، خواہ وہ آپ کے نزدیک مٹک کر  
 ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن تاریخ کے پاس تو کوئی سند ہی نہیں ہے۔ جن قدیم کتابوں کو آپ  
 تاریخ کا سب سے زیادہ معتبر ذخیرہ سمجھتے ہیں ان کے متعلق آپ کے پاس اس امر کا  
 کوئی ثبوت موجود نہیں کہ جن صنفین کی طرف وہ غسوب ہیں انہی کی بھی ہوتی ہیں۔ اسی  
 طرح جو حالات ان کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آپ کوئی ایسی سند نہیں  
 رکھتے جس کی بنابران کی صحت کا یقین کیا جاسکے پس اگر حدیث کی مدلل اور مستند  
 روایات کی تکذیب اس آسانی کے ساتھ کی جاسکتی ہے تو تاریخ کے پورے ذخیرے  
 کو اس سے بھی زیادہ آسانی کے ساتھ روکیا جاسکتا ہے۔ ایک شخص بتے تکلف کہہ سکتا  
 ہے کہ عبادیوں کا وجود دنیا میں کہیں نہ تھا۔ اموری سلطنت کبھی قائم نہیں ہوئی۔ تکذیب  
 کا وجود مخفی ایک افسانہ ہے۔ غرض تاریخ کے ہر واقعہ کو اس ذیل سے بدرجہ اضافہ  
 قوی ذیل کی پیار چیلہ لایا جاسکتا ہے جس کی پیار آپ حدیث کو چھیلاتے ہیں۔  
 لیکن کہ دنیا میں زمانہ گذشتہ کے حالات کا کوئی ذخیرہ اتنا مستند نہیں ہے جتنا حدیث  
 کا ذخیرہ ہے، اور جب وہ بھی ناقابل اعتبار ہے تو قدیم زمانہ کے متعلق جتنی  
 روایات ہم تک پہنچی ہیں وہ سب دریا بردا کر دیش کے قابل ہیں۔ تعجب ہے  
 کہ جو شخص حدیث کی روایات سے انکار کرتا ہو، اور جس کے نزدیک یہ ملکن ہو کہ  
 رسول اللہ سے قریب تر زمانہ میں لیے نامور مسلمان بھی، جن سے زیادہ  
 نہیں مہیا مسلمانوں کی قوم سے پیش نہیں کی جاسکتیں، اسلام کا دعویٰ رکھنے کے  
 یا وجوہ رسول اللہ پر پہنچان گھڑ سکتے تھے اور اپنے دل سے حدیثی و صنع کے رسول اللہ  
 کی طرف غسوب کر سکتے تھے، وہ آخر تاریخ پر کیسے اعتقاد کر لاتا ہے؟ وہ کیوں نہیں  
 بہت کہ طبری، ابن اثیر، ابن خلدون اور تاریخ کی تمام کتابیں موضوع ہیں، افسانہ  
 ہیں، اور گذشتہ زمانہ کا کوئی حال ہم تک صحت کے ساتھ نہیں پہنچا ہے؟ اس سے  
 زیادہ ستم خلائق یہ ہے کہ جو شخص بخاری مسلم، ترمذی و ابو داؤد حقی کہ امام مالک  
 امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام حنبلی ہمک کون قابل اعتماد سمجھتا ہے وہ

فون کر پر سے استناد کرنے میں تاکل نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بات کی وجہ آدمی کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔

"حق گو" صاحب کا رسالہ اگر کوئی ناداقت مسلم یا غیر مسلم پڑھتے تو اس کے دل پر یہ بات نقش ہو جائے گی کہ رسول اللہ کی وفات پر پچاس برس بھی نہ گزرے تھے کہ مسلمانوں نے رسول خدا اور اسلام کے خلاف عامین بغاوت کر دی اور وہ لوگ اس بغاوت کے سراغنے بنے جو اسلام کی مذہبی تاریخ میں سب سے زیادہ نمایاں ہیں، اور جنہیں مذہب اسلام کا سنتون سمجھا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے دل میں ایمان کا شاشابہ تک نہ تھا۔ انہوں نے اپنی اغراض کے لیے حدیث، فقہ، سنت اور شریعت کے شامدار الفاظ لگھڑے اور دنیا کو دھوکا دینے کے لیے وہ باقیں رسول اللہ کی طرف مسووب کیں جو آل حضرت اور قرآن کی تعلیم کے بالکل خلاف تھیں۔ یہ اثر پڑنے کے بعد ہمیں امید نہیں کہ کوئی شخص اسلام کی صداقت کا قاتل ہو گا، کیونکہ جس مذہب کے الہ اور ممتاز ترین داعیوں کا یہ حال ہوا اس کے پرورد़ن میں صرف "حق گو" صاحب اور ان کے ہم خیال گنتی کے چند آدمیوں کو دیکھ کر کون عقلمند یہ باور کرے گا کہ ایسا مذہب بھی کوئی سچا مذہب ہو سکتا ہے یہی نہیں بلکہ اس قسم کے اختراقات کو دیکھ کر تو ایک شخص اس امر میں بھی شک کر سکتا ہے کہ آیا اسلام اپنی اصل شکل میں اس وقت محفوظ ہے بھی یا نہیں۔ کیونکہ جب مسلمانوں کے اسلام میں پہلی صدی نے سے کے کرابت نکل کر کوئی گروہ بھی ایسا موجود نہیں رہا جو اپنے پیغمبر کے حالات، اقوال اور تعلیمات کو ٹھیک ٹھیک محفوظ رکھتا اور جب اس قوم کے چھوٹے بڑے سب کے سب ایسے بد ریاست تھے کہ جو کچھ جی میں آنا تھا گھر کر لپٹے رسول کی طرف مسووب کر دیتے تھے، تو اسلام کی کسی بات کا بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا بلکہ یہ بھی تین نہیں کیا جا سکتا کہ عرب میں فی الواقع کوئی پیغمبر مسجود ہوا تھا، کیا عجب کہ عوام پر گرفت قائم کرنے کے لیے رسول اور رسالت کا افسانہ گھر لیا گیا ہو۔ اسی طرح قرآن کے متعلق بھی شک کیا جاسکتا ہے۔

کہ حق الواقع کی پیغمبر رضا تراجمی عقاید اپنی اصلی جماعت میں محفوظ  
بھی نہیں، لیونکہ اس کے ہم سلسلہ پیشے کا ذریعہ وی لوگ توہین بھی دو نصاری اور محبوب  
کی باتیں رے رے کر پیغمبر کی طرف غروب کرتے ہوتے فرانتہ شرعاً تھے، یا پھر وہ لوگ  
میں جن کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا تھا اور وہ دم نہ مارتے تھے۔ حق الوضع  
اور ان کے ہم خیال منکریں صدیش نے یہ ایسا حربہ دشمنان اسلام کے ہاتھ میں دے  
دیا ہے جو صدیش کے فرائیم کیے ہوتے ہیں سے ملکہ درجہ زیادہ خطرناک ہے، لہ  
سے تو اسلام کی جڑ بیاد ہی نہیں کر سکتے جویں دی جاسکتی ہے۔

معرم ہوتا ہے کہ حق گو صاحب نے حدیث کی کتابوں پر صرف عیب چینی کی  
نگاہ ڈالی ہے اور ان کتابوں سے کبے شمار جواہر کی طرف سے ملکیں بند کر کے اپنا سدا  
وقت ان چیزوں کی تلاش میں صرف کیا ہے جو ان کے فردیک حدیث پر معن کرنے کے  
لیے مفید ہو سکتی تھیں ہم یقین کے ساتھوں کہ سکتے ہیں کہ اگر اسی عیب چینی کی نگاہ سے  
وہ قرآن کو دیکھتے تو یہ کتاب بھی ان کو سراسر حبوب سے برز نظر آتی۔ آخر کیا درجہ ہے  
کہ ہزار ہزار قرآن کو پڑھتے ہیں اور زیادتے ہوایت پانے کے اور زیادہ گرام ہوتے  
ہیں؟ یہی ناکہ وہ ہدایت کی طلب میں قرآن نہیں پڑھتے بلکہ حبوب تلاش کرتے اور  
اسلام کے خلاف اسلوٹ فرائیم کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کو قرآن  
میں بزر حبوب کے اور کچھ نہیں ملتا، لیونکہ انسان ہر جگہ وہی کچھ پاتا ہے جس کی اسے  
طلب ہوتی ہے بلکہ ایک خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ قرآن کا اس طالع کرتے وقت حق گو  
صاحب کی آنکھوں پر عیب چینی کی عینک دلکش تھی، ورنہ وہ دیکھتے کہ مخالفین اسلام  
کو بہت سے اسلحہ اس کتاب نے بھی فرائیم کیے ہیں، اور یہ بات ان کو قرآن سے بھی  
انکار کر دینے پر اسی طرح آمادہ کر دیتی ہیں طرح حدیث کے فرائیم کردہ اسلحہ دشمنوں کے  
ہاتھ میں دیکھ کر انہوں نے حدیث سے انکار کر دیا۔

حق گو صاحب نے حدیث پر جتنے اختراءات کیے ہیں ان سب کا لفظ مخفظ  
جو اب دیا جاسکتا ہے یہ کن ہم جزئیات میں بحث کرنا سب نہیں سمجھتے، بلکہ چند اصول

یا توں پر کلام کرننا چاہتے ہیں جو دراصل بحث نہیں۔ اگرچہ ان کی اور عام منکرین  
حدیث کی عیب جو یاد رہنیت کو دیکھتے ہوئے اصلاح کی امید کم ہے لیکن ہمارا  
خیال یہ ہے کہ ان لوگوں کی گراہی کا آغاز دراصل نیک نیتی کے نقطہ سے ہوتا ہے  
اور محض ناواقفیت اور ضد ان کو غلط راستوں پر ڈال دیتی ہے۔ اس لیے ہم امید  
کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے زمین کو منکرانہ خیالات سے تحریری دیر کیے  
خالی رکھ کر ہمارے دلائل پر غور کیا تو ان کے عقیدہ کی اصلاح ہو جائے گی۔

سب سے پہلے یہ امر غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اس سے پہلے  
تمہارا سماں کتابوں کو رسولوں کے واسطے سے کیوں نازل کیا ہے کیا اللہ اس پر قادر  
نہ تھا کہ مطبوعہ کتابیں یا کامیک زمین پر اتار دیتا اور ان کا ایک ایک نسخہ نوع بشری  
کے ہر فرد کے پاس آپ سے آپ پہنچ جاتا ہے اگر وہ اس پر قادر نہ تھا تو تمہارے  
اس کو خدا ہی کیوں مانیے؟ اور اگر وہ قادر تھا اور یقیناً قادر تھا تو اس نے نہ رو  
اشاعت کا یہ ذریعہ کیوں نہ اختیار کیا ہے تھا ہر ہدایت کا یقینی ذریعہ ملتا  
تھا۔ کیونکہ ایسے صریح صحیحے اور بین خرق عادت کو دیکھ کر ہر شخص ملن لیتا  
کریے ہدایت خدا کی طرف سے آئی ہے۔ لیکن خدا نے ایسا نہ کیا اور ہمیشہ رسولوں  
ہی کے ذریعہ سے کتابیں یا تھمارے پھر اسی رسالت کے کام پر بھی اس نے فرشتوں  
یاد و سری خیر انسانی ہستیوں کو مامور نہ کی، بلکہ ہمیشہ انسانوں ہی کو اس کے لیے  
 منتخب فرمایا۔ ہر زمان کے لفڑیوں پر یقیناً کہ اگر خدا کو ہم تک کوئی پیغام پہنچانا  
ہی منظور ہے تو فرشتے کیوں نہیں کہتا تاکہ ہم کو بھی اسی مقام کے منزل من اللہ  
ہونے کا یقین آجائے۔ مگر خدا نے ہر لیے سوال پر یہ فرشتے بھی  
بر صحیحے تو ان کو آدمی بناؤ کر بھیجتے و کو جعلنہ ملکا مجعولنہ رجلاز (ضم)  
اور یہ کہ اگر زمین میں فرشتے بنتے ہوتے تو ہم ان کی ہدایت کے لیے فرشتے بھیجتے  
کو کات بیل و ملکہ پیشوں مُطْمَئِنْ لَنْزَلَنَا عَدِيْمَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَذْكُورٌ

سوال یہ ہے کہ تنزیلِ کتب کے بیانے رسولوں کو واسطہ بنانے اور بحالت  
کے لیے تمام بندگان خدا میں سے بالخصوص انسانوں ہی کو منتخب کرنے پر اس قدر  
امرا رکھوں کیا گیا؟ اس کا جواب خود کلام اللہ ویسا ہے وہ بھی بتاتا ہے کہ  
خدا نے چنانے رسول بھیجے ہیں ان کی بعثت کا مقصد یہ رہا ہے کہ وہ فرمان خداوندی  
کے مطابق حکمری اور لوگ ان کے احکام کی احاطت کریں۔ وہ اپنی قوانین کے  
مطابق زندگی بسرا کریں اور لوگ اپنی کے نمونہ کر دیکھ کر اس کا اتباع کریں، وَمَا  
أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا يُطَاعَ يَا ذُنُونَ اللَّهِ رَّبُّ النَّاسِ [۱۰]، أَبْيَادٌ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ پے  
درپے آئے اور ہر ایک نے لوگوں سے یہی مطالبہ کیا کہ خدا سے ڈر دا ویری اعلان  
کرو، اَتَقُوا اللَّهَ قَاتِلُ الْمُجْرِمِونَ [الشوارع: ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰]، نبی صلی اللہ علیہ وسلم  
سے کہلوایا گیا کہ اُن کُلْمَمَ تَحْبُّونَ اللَّهَ فَإِذَا عَوْنَىٰ تَجْبِيكُمْ رَبُّكُمْ رَبُّ الْأَنْعَامِ [آل عمران: ۱۳۶]  
مومنوں سے کہا گیا کہ نقد کات تکرم فی رَسُولِ اللَّهِ أَمْوَالُهُ حَسْنَةٌ حَسْنَةٌ رَاخِذَاتٌ [۱۳۷]  
اگر مخفی کتاب اللہ اتمار دی جاتی اور کوئی رسول نہ آتا تو لوگ آیات کے معانی میں  
اختلاف کرتے اور کوئی اس کا فیصلہ کرنے والا نہ ہوتا لوگ احکام کے نشان بھی  
میں غلطیاں کرتے اور کوئی ان کو صحیح نشان بتانے والا نہ ہوتا اس ضرورت کو تو خیر ایک حد  
تک فرشتے ہی پڑا کر سکتے تھے، مگر پاکیزگی، ہمارت اور تقوی کے احکام پر لوگ یخیال  
کرتے کہ عمل زندگی میں ان پر عمل کرنا انسان کے بس کا کام نہیں ہے۔ فرشتہ تو انسانی  
بند بات سے محروم ہے پیٹ نہیں رکھتا۔ شہروانی تو قبیل نہیں رکھتا۔ انسانی ضرورتوں سے  
بے نیاز ہے۔ اس کے لیے تنتیا نہ زندگی بسرا کرنا کچھ مشکل نہیں۔ مگر ہم انسانی کمزوریاں  
رکھتے ہوئے اس کی تقلید کیسے کریں؟ اس لیے خود ری تھا کہ ایک انسان اپنی جذبات  
و راعیات اور اپنی تمام قوتوں اور انسانی تقيیدات کے ساتھ زمین پر آتا اور لوگوں  
کے سامنے احکام اپنی کے مطابق زندگی بسرا کر کے بتاتا کہ اس طرح انسان خدا کے پیٹ  
ہوتے طریقے پر عمل کر سکتا ہے۔ اس کو زندگی کے وہ تمام معاملات پیش آتے جو ان  
کو پیش آتے ہیں۔ وہ ان تمام معاملات میں عام انسانوں کے ساتھ شرکیں ہوتا ہے۔

حصہ لیتا، قدم قدم پر ان کو اپنے عمل اور اپنے قول سے ہدایات دیتا، ان کی تربیت کرتا، اور انہیں جب آتا کہ زندگی کی پیغمبریہ را ہموں میں سے کس طرح انسان بچ کر حق اور نیکی کے پیدا ہے راستے پر چل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تہذیباً کتاب اللہ کو کافی نہ سمجھا اور رسول اللہ کے اتباع اور ان کے اسوہ حسنة کی پیری دی کو اس کے ساتھ لازم کر دیا۔

قرآن شریعت میں صفات طور پر تین چیزوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک حکم خدا، دوسرا سے حکم رسول، تیسرا سے مسلمان حکام اور فرمان رواؤں کے احکام آطیعوَا اللہ وَ آطِیعُوا الرَّسُولَ وَ اُولَئِی الْأَفْرَادِ مِنْكُمْ رَا النَّاسَ (النَّاسَ: ۵۹) اگر بعض قرآن کا اتباع کافی ہوتا اور اس کے سوا کسی دوسری چیز کے اتباع کی حاجت نہ ہوتی تو رسول اور حکام داولی الامر کی اطاعت کا حکم ہے دو یا جاتا۔ اگر رسول اور داولی الامر کا حکم قرآنی احکام کے مساوا کوئی شے نہ ہوتا، تب کبھی بقیہ دونوں کی اطاعت کا حکم الگ دینا بے معنی تھا۔ تین چیزوں کی اطاعت کا الگ الگ حکم دینا صاف تھا تا ہے کہ قرآن میں جو احکام براہ راست اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں، ان کے علاوہ وہ احکام بھی واجب الاطاعت ہیں جو رسول اللہ دیں، اور ان کی اطاعت بعدینہ ایسی ہے جیسی اللہ کی اطاعت، مَنْ يَطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ رَا النَّاسَ (النَّاسَ: ۵۹) پھر ان کے مساوا جو احکام مسلمانوں کے اولی الامروں ان کی اطاعت بھی لازم ہے۔ بشرطیکہ ان کے احکام خدا اور رسول کے احکام سے اصول مطابقت رکھتے ہوں۔ اختلاف کی صورت میں ضروری ہے کہ اللہ اور راس کے رسول کی دی ہوئی ہدایات کی طرف رجوع کیا جائے، فَإِنْ تَنَازَعْ مُحَمَّدٌ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمُوُّ رَا النَّاسَ (النَّاسَ: ۵۹)

اس سے معلوم ہوا کہ تہذیباً کتاب اللہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ بیان کا شرط ناقابلِ انقطاع ہے، اور احکام رسول کی اطاعت اور اسوہ رسول کی پیری بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح خود کتاب اللہ کے احکام کی اطاعت

فرض ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ ہم صرف کتاب اللہ کو میں گے اور حکمر رسول دا سوہ رسول کو نہ میں گے وہ رسالت سے اپنا تعلق منقطع کرتا ہے وہ اس واسطہ کو کاٹتا ہے جسے خود اللہ نے اپنے بندوں اور اپنی کتاب کے درمیان ایک لازمی واسطہ کے طور پر قائم فرمایا ہے۔ وہ کو یا یہ کہتا ہے کہ خدا کی کتاب اس کے بندوں کے لیے کافی تھی مگر خدا نے بلا ضرورت یہ فعل عجیب کیا کہ کتاب کو رسول کے ذریعہ نازل فرمایا۔ **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

کتاب اللہ اور سنت رسول کا لازمی تعلق ثابت ہو جانے کے بعد اس سوال پر خورجیجے کہ آپ رسول اللہ کے احکام کی اطاعت اور ان کے اسوہ حسنہ کی پیروی صرف ان کی حیات جہانی تک ضروری تھی؟ ان کے بعد اس کی خاتمی نہیں رہی؛ اگر ایسا ہے تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف اسی عہد کے لیے تھی جس میں آپ جسم کے ساتھ زندہ تھے اپنے کے ردت فرماتے ہی آپ کی رسالت کا تعلق عمل دنیا سے منقطع ہو گیا۔ اس صورت میں رسالت کا منصب بے معنی ہو جاتا ہے۔ رسول کا کام اگر محض ایک نامہ بر کی طرح کتاب اللہ کو پہنچا دینا تھا، اور اس سے بڑھ کر کسی اور چیز کی ضرورت نہ تھی تو ہم پھر وہی کہیں گے کہ اس صورت میں رسول کی ضرورت ہی تھی تھی۔ یہ کام کوئی فرشتہ کر سکتا تھا۔ بلکہ اسے بلا واسطہ بھی کرنا ممکن تھا۔ لیکن اگر کتاب پہنچا دینے کے علاوہ بھی کسی شے کی ضرورت تھی اور اسی کے لیے اتباع کے احکام دیتے گئے تھے، اور اگر ہدایت نوع بشری کے لیے قرآن کے ساتھ رسول کی ہدایات اور سیرت نبوی کے عمل نہیں کی بھی ضرورت تھی، تو پھر پس کچھ صرف تینیں چوبیں سال کے لیے ہونا کیا معنی؟ محض ایک صدی کے چوتھائی حصہ کے لیے ایک رسول میتوث کرنا اور اتنی سی مدت کے لیے رسالت کا آنڈرا منصب قائم کرنا، اور ایک چیز کو جو رسول کے جسم و جان کا تعلق منقطع ہوتے ہی دنیا کے لیے غیر ضروری ہو جانے والی تھی، اتنی شدود کے ساتھ ذریعہ ہدایت قرار دینا، یہ سب

پیغمبر کا کھلیل معلوم ہوتا ہے جو خدا نے حکیم دوانکے پر گز شایان شان نہیں ہے۔  
 اس الزام کو خود اللہ نے اپنی کتاب میں دفع کر دیا ہے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ  
 وسلم سے فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (ابنیات) خدا پر ہے  
 کہ اگر رسول اللہ کا فیضان رسالت صرف اپنے زمانے تک کے لیے ہوتا تو آپ کو  
 رحمت اللعالمین تھیں گہا جا سکتا تھا۔ اگر کہا جاتے کہ آپ قرآن لستے ہیں جو ہمیشہ رہنے  
 والے ہے اور اسی لیے آپ رحمت اللعالمین ہیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ تھت  
 نہ تھے بلکہ رحمت تو قرآن تھا اور آپ کو خواہ مخواہ رحمت کہہ دیا گیا، حالانکہ اللہ  
 تعالیٰ نے قرآن کو الگ رحمت فرمایا ہے اور اس کے لانے والے کو الگ پھر  
 یہ جو فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ كَثِيرًا وَنَدِيْمًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ  
 النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ (ابنیات: ۷۷) یہ ارشاد صاف اشارہ کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ  
 علیہ وسلم کی بخشش کے وقت سے کر قیامت تک جن بندگان خدا پر الناس کا  
 اطلاق ہوتا ہے ان سب کے لیے آپ قدار کے رسول ہیں۔ آپ کی رسالت کسی  
 خاص زمانہ کے لیے نہیں ہے بلکہ جب تک روئے زمین پر الناس پڑتے ہیں  
 اس وقت تک آپ کی رسالت قائم ہے۔ آیت میں کوئی قرینہ ایسا نہیں ہے  
 جس سے معلوم ہو کہ "الناس" سے صرف اسی زمانہ کے لوگ مراد ہیں۔ نہ ایسا کوئی تخفیف  
 سے تھیف اشارہ موجود ہے جس سے بعد کے کسی زمانہ تک کی قید نکلتی ہو۔ بخلاف  
 اس کے دوسری آیات اس تفسیر کی تائید کرتی ہیں کہ حضور کی رسالت دائمی ہے۔  
 اللہ تعالیٰ حضور کے ذریعہ سے دین کی تکمیل کر جا چکا ہے۔ آنیوْهَ الْمُكْتَصَفُ لَكُمْ  
 دِيْنُكُمْ وَأَنْتُمْ مُعَذَّبُكُمْ بِغَمْبَرِيْتِيْ (ملکو: ۲۴) حضور کی ذات پر ثبوت کا سلسلہ  
 ختم کر دیا گیا ہے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدًا أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
 وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمَا رَازِيْب: ۲۵) اور دوسرے  
 انتباہ کی لامی ہوئی کتابوں کے بخلاف آپ کی لامی ہوئی کتاب کو ہمیشہ کہیے  
 حضور خدا کیا گیا ہے، یکیوں تکمیلی کتاب میں مخصوص زمانوں کے لیے ہدایت تھیں اور یہ

وَالْمُنْتَهَىٰ هُدَايَتٌ هُدَايَةٌ لِّخَلِفَاتِهِ - (المجر: ۱۹)

اس سے ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت مہمیت  
کے لیے ہے اور حب ایسا ہے تو وہ تمام آیات اور احکام بھی مہمیت کے لیے ہیں  
جن میں آنحضرت کے احکام کی اطاعت فرض قرار دی گئی ہے، آپ کی ذات  
کو اسوہ حسنة تباہیا گیا ہے، آپ کے اتباع کو منکرے اہلی کے حصول کا ذریعہ  
کہا گیا ہے، اور پداشت کا دامن آپ کی پیروی کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہے۔  
وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا (الغور: ۷۶) رضاۓ اہلی حاصل کرنے اور پداشت پانے  
کی ضرورت جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عہدوں کو گوں کو تھی اسی  
طرح آج کے لوگوں کو بھی ہے، اور قیامت تک جو لوگ آئیں گے ان سب کو  
رہے گی۔ پس جب یہ دونوں چیزوں رسول اللہ کے اتباع اور آپ کے نمونہ چیز  
کی تقلید کے ساتھ وابستہ ہیں تو لازم ہوا کہ سیرت نبوی کے وہ پاک نور نے اور  
زبان و حج ترجمان کے وہ مقدس احکام بھی قرآن کے ساتھ ساتھ باقی رہیں جن  
سے رسول اکرم کے ہم عہدوں کو گوں نے پداشت پائی تھی، ورنہ بعد کی نسلوں کے لیے  
پداشت ناقص رہ جائے گی۔

میں نے "پداشت ناقص" کے الفاظ بہت ہی فرم استعمال کیے  
ہیں۔ تنزیل کتب کے ساتھ رسالت کا جو ناقابلِ انقطع رشتہ اللہ تعالیٰ نے  
قام کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اور اس باب میں اللہ تعالیٰ کی جو غیر مبدل  
سنت ابتداء سے چلی آرہی ہے اس کا حافظ کرتے ہوئے تو مجھے کہنا چاہیے تھا  
کہ اگر اسوہ رسول باقی نہ رہتا، اگر رسول اللہ کے احکام باقی نہ رہتے، اگر پداشت  
کا وہ پاک سر حشیہ پندرہ ہو جاتا جو رسول اللہ کی سیرت میں تھا، تو محض کتاب اللہ سے  
دنیا کی پداشت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے کہ رسالت کے آثار مٹ جانے کے  
بعد کتاب اللہ کا باقی رہ جانا بالکل ایسا ہی ہے جیسے رسول کے بغیر کتاب اللہ  
کا نازل ہونا۔ اگر کتاب کی تنزیل کے بعد آثار رسالت کے باقی رہنے کی ضرورت

نہیں ہے تو سرے سے تنزیل کے لیے رسالت ہی کی ضرورت نہیں ہے۔ پر خدا کی حکمت پر کھلا ہوا طعن ہے۔ اور اگر تنزیل کے ساتھ رسالت کا ہونا لازم ہے تو تلقیناً اس کے ساتھ آثار رسالت کا رہنا بھی لازم ہے۔ بغیر آثار رسالت کے تھے اکتاب اللہ موجب برایت نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آثار رسالت محو ہو جاتے تو مسلمانوں کا حشران قوموں کا سا ہو جاتا جن کے پاس بجز افسانوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ لوگ کہتے کہ جس شخص پر تمہارے قول کے مطابق یہ کتاب نازل ہوتی ہے اس کے حالات تو تباہ کہ ہم ان کو جان کر دیکھیں کہ آیا فی الواقع وہ رسول خدا ہونے کے قابل تھا بھی یا نہیں۔ مگر ہم نہیں کچھ نہ بتا سکتے۔ لوگ پوچھتے کہ تمہارے پاس قرآن کے دعوے کی تائید میں کوئی ایسی خارجی شہادت ہے جس سے تمہارے نبی کی ثبوت ثابت ہو سکتی ہو، مگر ہم کوئی شہادت نہ پیش کر سکتے۔ ہم کو خود یہ نہ معلوم ہو سکتا کہ کب اور کتنے حالات میں قرآن نازل ہوا، کس طرح رسول اللہ کی شخصیت اور آپ کی پاک زندگی کو دیکھ کر لوگ فوج در فوج ایمان لاتے، کس طرح آپ نے نقوص کا تذکیرہ کیا، حکمت کی تعلیم دی اور آیاتِ الہی کی تلاوت سے معرفت حق کا نور چھپایا، کس طرح آپ نے اللہ کی زندگی کے تمام شعبوں میں تنظیم اور اصلاح کا وہ زبردست کام انجام دیا اور شرعیت کا وہ سہی گیر اور حکیمانہ ضوابطہ بنایا جو محض انسانی عقل کے بین کا کام نہیں ہے۔ اور جو اس بات کا ناقابلِ انکا ثبوت ہے کہ آپ حقیقت میں اللہ کے رسول تھے یہی نہیں بلکہ اگر وہ روایات نہ ہوتیں جو منکرین حدیث کے نزدیک دریا برد کر دینے کے قابل ہیں تو ہم قرآن کی سند اس کے لانے والے کاش پہنچ سکتے۔ ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہ ہوتا کہ یہ قرآن حقیقت میں وہی ہے اور اسی عبارت میں ہے جس میں رسول اللہ پر نازل ہوا تھا۔ ہماری اس کتاب کی وہی حقیقت رہ جاتی جو شرمند، اوستا، گیتا، ویدوں اور بدھ مذہب کی کتابوں کی حقیقت ہے۔ اسی طرح ہماری مدھی زندگی کے جتنے اعمال اور حقیقتے اصول فتویں

ہیں، یہ بھی سب کے سبب ہے سند ہو کر وہ جاتے نہ از، روزہ، حج، ذکرۃ اور وہترے اعمال جس صورت میں اور کیسے جاتے ہیں ان کے متعلق ہم بتا سکتے، اور خود نہ جانتے کہ یہ سب رسول اللہ ﷺ کے مقرر کیے ہوتے طریقوں پر ہیں۔ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ ان سب اعمال کے لیے "سنن متواترہ" کافی ہے۔ مگر مدفن اور سخنداشت کی خیر موجودگی میں اس "سنن متواترہ" کی حیثیت بجز اس کے اور کیا ہوتی کہ اگر ان سے پچھلوں تک نہ لائے جائیں ایسا ہوتا چلا آیا ہے؟ اس قسم کی متواتر سنن تو ہندوؤں، بودھوں اور دوسری قوموں میں بھی ہیں۔ وہ سب یہی کہتے ہیں کہ جو عبادتیں ہم کرتے ہیں اور جو ہمیں ہم میں جاری ہیں وہ بزرگوں سے یہ بھی چلی آری ہیں۔ مگر کیا آج ان کی سنن متواترہ پر دنیا اور خود ان قوموں کے روشن خیال لوگوں میں پہ شہر نہیں کیا جاتا کہ خدا جانے ان طریقوں کی اصل کیا تھی اور اتنا دو زمانہ کے ساتھ وہ کس طرح بدلتے چلے گئے ہی کیا ان تمام طریقوں پر آج رسول پرستی کی تحریکی نہیں اڑاتی جاتی؟ اگر کوئی شخص ان میں تغیر کر کے کوئی نئی بدعت ایجاد کرنا چاہے تو کیا ان کے پاس اس بدعت کے خلاف کوئی جگت بجز اس ایک دلیل کے موجود ہے کہ جو کچھ باب دار کرتے چلے آ رہے ہیں اس میں تغیر نہیں ہو سکتا ہو پھر اگر منکرین حدیث کی خواہش کے مطابق ہمارے ہاں بھی ایسی مسلسل، مستند اور مرتب روایات نہ ہوں گی جو ہمارے عہد سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک ہر واقعہ یا ہر قول کی سند بہم پہنچا دیتی ہیں اور اگر ہمارے پاس بھی صرف عمل متواتری باقی رہ جاتا، جس کو "حق گو" صاحب "سنن متواترہ" سے تعبیر فرماتے ہیں، تو ہمارے مذہبی اعمال اور معتقدات کا حال ان طریقوں اور ان ادیام سے کچھ مختلف نہ ہوتا جو ہندوؤں اور دوسری قوموں میں پائے جاتے ہیں اور جن کو "رسم" اور "مذہبی انسانوں" سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ غور کیجیے، یہ اسلام کے لیے قوت اور استحکام کا سبب

---

لہ خود مسلمانوں میں عرسوں، نیازوں، اور شادی وغیری کی رسماں کا جو سلسلہ کچھ چل رہا ہے، حدیث کی غیر موجودگی میں ان سب کو بھی "سنن متواترہ" قرار دیا جاسکتا ہے۔ اور انکاحدار حدیث کے بعد ان متواتر سننتوں کی تردید نہیں کی جاسکتی۔

ہونا یا کمزوری دن استواری کا سبب ہے؟

اس بحث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کتاب اللہ کے ماتحت رسول کا رہنا قطعاً ضروری اور ناگزیر ہے۔

اب اس سوال کی طرف آئیے کہ صفت رسول کے ہم تک پہنچنے کی صورت کیا ہے اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بالکل ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد سے رحلت تک تقریباً بیج صدی کا جزو ماںہ بسر کیا وہ مخفی قرآن پڑھنے اور نہ بھی میں بسر نہیں ہوا ہو گا، بلکہ آپ تلاوت آیات کے علاوہ بھی شب و روز اپنے دین کی تبلیغ فرماتے رہتے ہوں گے، مگر ان لوگوں کو سمجھنے کی کوشش بھی فرماتے ہوں گے ایمان لانے والوں کو تعلیم بھی دیتے ہوں گے، اور اپنی عبارات، اپنے اخلاق، اور اپنے اعمال حسنہ کا خوبصورت پیش کر کے لوگوں کی تربیت اور اصلاح کرنے میں مشغول رہتے ہوں گے۔ خود قرآن میں فرمایا گیا ہے **بَيْتُكُمْ أَيْتَنَا وَمِنْ كُمْ دُلْعَتِكُمْ**۔  
**أَكْتَبْتُ بِعَوْنَوْنَ وَلِيَكُمْ مَا كُنْتُ تَنْذُلُوْنَ لَعْلَمُوْنَ**۔ مقدمہ ۱۵۰ آنحضرت قرآن سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ معلمانہ زندگی ایسی شدید صحر و فہیت میں بسر ہوتی تھی کہ آپ کو اپنے آرام کا ذرہ برابر خیال نہ تھا، ہر لمحہ یا تو عبارات میں بسر ہوتا تھا، یا وعظ و نصیحت اور تعلیم صفت اور حکمیت نہ نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ بار بار اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتا تھا کہ آپ اس قدر محنت کیوں کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو ملاک کہوں کیے ڈالتے ہیں؟

اب کیا کہی کہہ سکتا ہے کہ ایسی سرگرد مبدعاً نہ زندگی میں آیات قرآن کے سوا کوئی بات بھی آپ کی زبان سے ایسی نہ نکلتی تھی جو یاد رکھنے اور بیان کرنے کے قابل ہوئی؟ کوئی کام بھی آپ کی زندگی کا ایسا نہ تھا جس کو لوگ اپنے یہی نہ نہیں سمجھتے، اور دوسروں کو اس پائیزہ نہ نہیں کی تلقید کا مشورہ دیتے؟ آپ کے اقوال و اعمال کے متعلق تو اب ایمان کا اعتقاد تھا اور قرآن نے بھی ان کو یہی اعتقاد رکھنے کا حکم دیا تھا کہ آپ کا ہر ارشاد برحق ہے، **وَمَا يَنْهِيْقُ عَنِ الْهَوْى** (انجم: ۲) اور آپ کا ہر عمل واجب التقدید ہے، **لَقَدْ كَانَ نَكْرٌ فِي الرَّسُولِ إِنَّهُ أَمْوَالٌ حَسَنَةٌ**۔ ظاہر ہے

کریں اتفاقاً درجتے ہیں۔ تو مسلمان تعیناً آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد کو دل سے سنتے ہوں گے، ہر عمل پر نگاہ رکھتے ہوں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حصہ حضور کے اقوال و اعمال کے چرچے کرتے ہوں گے۔ جہاں رسالت اور کسی قسم کے تقدیس کا اعتماد نہیں ہوتا، ابھی بھی ٹوپے لوگوں کی باتوں اور حرکات و سکنات پر لگ نظر رکھتے ہیں۔ اور ان کے اقوال و اعمال کے چرچے کیا کرتے ہیں پھر کہ بخوبی ممکن تھا کہ صحابہ کرام جسی تقدیس انسان کو خدا کا رسول اور اسلام کا مکمل نور نہ سمجھتے تھے اس سے صرف قرآن لے بیٹھتے اور اس کے روایتے تمام ارشادات اور اس کے تمام اعمال کی طرف سے کام اور آنکھیں بند کر لیتے۔

اس زمانہ میں قوتوگرانی کے آلات نہ تھے کہ آنحضرت کی تمام حرکات و سکنات کے غیر لیے جانتے۔ نہ آواز بھرنے کے آلات تھے کہ آپ کی تقریروں کے دیواروں پر لکھ کر کہیے جاتے۔ نہ مکہ و مدینہ سے اخبارات نہ لکھتے تھے کہ روزانہ آپ کی تبلیغی مرگری میں اور آپ کے اصلی حیات کی روپیں شائع ہوتیں۔ ضبط لود نقل کا ذریعہ جو کچھ بھی تھادہ لوگوں کا حافظہ اور زبانیں تعین قدم پہم زمانہ میں نہ صرف عرب بلکہ تمام قومیں کے پاس واقعات کو محفوظ رکھنے اور بعد کی نسلوں تک پہنچانے کا بھی ایک ذریعہ تھا۔ مگر عرب خصوصیت کے ساتھ اپنے حافظہ اور محت نقل میں ممتاز تھے، اور ان کی یہ خصوصیت ایسی تھی کہ شاید ہمارے "حق گو" صاحب کے فون کریں کوئی بھی اس سے اذکار نہ ہو۔ جو قوم ایام العرب، کلام جاہلیت، النسب، قبائل حقی کرا ذہنوں اور گھوڑوں تک کے نسب نامے یاد کرتی ہو اور اپنی اولاد کو یاد کراتی ہو، اس سے بعید تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسی عظیم اشنان شخصیت کے حالات اور آپ کے ارشادات کو یاد نہ رکھتی اور آنے والی نسلوں تک انہیں منتقل نہ کرتی۔

پھر جب آنحضرت صلعم کا وصال ہوا تو فطری بات تھی کہ لوگوں میں اپکے  
 احوال و اقوال کی جستجو اور زیادہ بڑھ جاتی۔ جو لوگ حضور کی نیارت اور صحبت سے  
 محروم رہ گئے تھے ان میں یہ شوق پیدا ہونا بالکل فطری امر تھا کہ آپ کے صحبت یافتہ  
 بزرگوں سے آپ کے ارشادات اور آپ کے حالات پر بھیں۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ  
 اگر کوئی پیر مروایا نہیں آتا ہے جس نے چھپی صدی کے اکابر میں سے کسی نامور  
 بڑے شخص کی صحبت پائی ہو تو لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کے حالات  
 دریافت کرتے ہیں ہمارے ایک دوست نے شمالی ہندوستان سے چیدر آباد  
 کا سفر اس غرض کے لیے کیا کہ اگر کوئی پرانتا آدمی ایسا مل جائے جس نے سید  
 جمال الدین افغانی کی صحبت پائی ہو تو اس سے سید صاحب کے حالات معلوم  
 کریں۔ یہ معاملہ جب بھولی انسانوں کے ساتھ پیش کا تاہے تو کیا یہ ملکی تھا کہ  
 خدا کے سب سے بڑے پیغمبر اور ویلک کے سب سے بڑے معلم کی وفات کے  
 بعد مسلمانوں میں اس کے حالات پر چھٹے اور اس کے ارشادات سے مستغفید  
 ہونے کی کوئی خواہش نہ ہوتی؟ کیا تاریخ کے ان واقعات میں کوئی استبعاد  
 ہے کہ لوگ جہاں کسی صحابی کی خبر پا لیتے رہاں سینکڑوں میل سے سفر کر کے جائے  
 اور آنحضرت صلعم کے حالات پر چھٹے یہی معاملہ یقیناً صحابہ کے بعد تابعین کے  
 ساتھ پیش آیا ہو گا۔ کم از کم دو صدی تک سماحت حدیث اور نعلیٰ حدیث کا  
 خیر محسوبی شغفت مسلمانوں میں پایا جاتا یقینی ہے اور یہ بات نہ صرف قیاس کے  
 میں مطابق ہے، بلکہ تاریخ بھی اس کی شہادت دیتی ہے۔ ملکرین حدیث قیاس کی  
 حقیقی سے تو کام ہی نہیں یہتے۔ رہی تاریخ، تو وہ اس کے مرد اسی حصہ کر  
 ملتے ہیں جس سے انکار حدیث کے لیے مواردیں سکتا ہو۔ اس کے سرا تاریخ  
 کی حقیقی شہادتیں ہیں سب ان کے نزدیک نامعتبر ہیں۔ میکن جن لوگوں میں انکلاد  
 حدیث کے لیے ضرریداً ہیں ہوئی ہے وہ یقیناً اس بات کو تیز کر لیں گے کہ  
 یہی مصلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست شخصیت اور آپ کی تابناک پیغمبر از نزدِ ملک اُتی

ناقابل اقتدار نہ بھی کہ مسلمانوں میں کم از کم دوسو بر سو تک بھی آپ کے حالات معلوم کرنے اور آپ کے ارشادات سننے کا عام شوق نہ رہتا۔ اس سے انکار کرنے کے دوسرے معنی یہ ہوں گے کہ قرون اولیٰ کے لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اثر نہ تھا، اور وہ لوگ بھی آپ کی جانب کوئی توجہ نہ رکھتے تھے جو آپ کی رہات کے قابل ہو چکے تھے۔ منکرین حدیث کو اختیار ہے کہ رسول کی ذات اور ان لوگوں کے متعلق جو آپ سے قریب تر تھے یہ یا اس سے بھی زیادہ بُری کوئی راستے قائم کر لیں۔ مگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مسلمان تو کجا، اسلامی تاریخ اور اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کرنے والا کوئی منصف مزاج غیر مسلم بھی اس راستے کو صحیح باور نہ کرے گا۔

اس میں شک نہیں کہ عہد رسالت سے دُور ہونے کے بعد مسلمانوں میں بڑی اثرات بھی داخل ہوتے گکے تھے، اور یہ اثرات بیشتر وہ لوگ اپنے ساتھ لائے تھے جنہوں نے عراق، ایران، شام اور مصر میں مذہب اسلام قبول تو کر لیا تھا مگر قیدِ مذاہب کے تخیلات ان کے ذہن سے محو نہ ہوتے تھے۔ اس میں بھی شک نہیں کہ مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا بھی پیدا ہو گیا تھا جو اپنے دل سے گھر کی باتیں نکالتا تھا اور حق دو گروں پر اثر قائم کرنے کے لیے ان باتوں کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیتا تھا۔ یہ دونوں باتیں تاریخ سے بھی ثابت ہیں اور قیاس بھی یہی چاہتا ہے کہ ایسا ضرور ہوا ہو گا۔ مگر اس سے یہ نتیجہ نکالنا کیا درست ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں سب کے سب ایسے ہی لوگ تھے جو سب جھوٹے اور سے ایمان تھے؟ سب ایسے منافق تھے کہ اسی سبق پر ہتھان گھڑتے جس کی رسالت پر وہ دن بھر میں کم از کم پانچ مرتبہ گواہی دیا کرتے تھے؟ سب ایسے دشمن تھے کہ دنیا بھر کی خرافات نے گر رسول کے نام سے خدا کے دین میں داخل کرتے اور اس کی جریں کاٹتے؟ یہ نتیجہ نہ عقل نکالا جا سکتا ہے اور نہ تاریخ اس کی تائید کرتی ہے اور جب یہ صحیح نہیں ہے تو صداقت کے ساتھ صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلی حدیث کے آخر سے حدیث کے ذخیرے میں ایک حقہ ایسی روایات کا بھی

داخل ہونے لگا تھا جو مو صورع تھیں، اور یہ کہ بعد کی نسلوں کو جواہاریت پہنچی  
ہیں ان میں صحیح اور غلط اور مشکوک سب قسم کی حدیثیں ملی جاتی تھیں۔

کھرے اور کھوٹے کی اس آمیزش کے بعد صحیح طریق کا رکھا کیا تھا؟ کیا یہ صحیح  
ہو سکتا تھا کہ آمیزش کی بنابر صحیح اور غلط سب کو ایک ساتھ روکر دیا جاتا، اور  
بعد کے مسلمان رسالت سے اپنا تعلق منقطع کر دیتے؟ منکریں حدیث اس کو ایک  
آسان بات سمجھتے ہیں۔ مگر جو لوگ قرآن پر ایمان رکھتے تھے اور رسول اللہ کی فات  
کو اسوہ حسنة سمجھتے تھے، اور جن کے نزدیک حضور کی پیروی کے بغیر دوایت کا  
بیت سو ناممکن نہ تھا، ان کے لیے ایسا کرنا بہت دشوار تھا۔ اتنا دشوار ہوتا  
کہ کسی کے لیے برصغیر غربت آگ میں کو دپٹانا ہو سکتے ہے۔ انہوں نے سب کو رد  
کر دیتے کی تب نسبت پہاڑ کھو دکر جو اپنے نکلنے کی مشقت کو زیادہ آسان سمجھا۔  
رسالت سے اپنا اور مسلمانوں کا تعلق برقرار رکھنے کے لیے شب و روز مختین  
لکھیں۔ حدیثوں کو جانپنے اور پرکھنے کے اصول بناتے کھرے کو کھوٹے سے ممتاز  
کیا۔ ایک طرف اصول روایت کے اختیار سے حدیثوں کی تبیخ کی، دوسری  
طرف ہزاروں لاکھوں راویوں کے احوال کی جانچ پڑتاں کی۔ تیسرا طرف  
درایت کے اختیار سے حدیثوں پر تقدیر کیا۔ اور اس طرح سنت رسول کے تعلق  
ان لوگوں نے ایک ایسا ذخیرہ فراہم کر دیا جس کے پر اب مستند اور معتبر ذخیرہ آج  
دنیا میں گذشتہ زمانے کے کسی شخص اور کسی عہد کے متعلق موجود نہیں ہے منکریں  
حدیث کو آزادی ہے کہ ان کی ساری محتتوں پر ایک جنیش قلم پانی پھیر دیں منکریں  
حدیث کو اختیار ہے کہ دین کے ان سچے خادموں کو وضائع حدیث، پروردگان  
عجم، زلہ ربانی امیہ و بنی عباس اور جو کچھ چاہیں کہیں۔ لیکن حق پر ہے کہ مسلمانوں  
پر ان محمد نبی کا اتنا بڑا احسان ہے کہ وہ قیامت تک اس بارے سبکدوش نہیں

---

لے یہ سب القاب "جن گو" صاحب نے انہوں حدیث کے لیے استعمال فرماتے ہیں۔

ہو سکتے۔ اللہ ان کی قبروں کو فور سے بھروسے، یہ اپنی عاشقان رسول کی مختوفوں کا  
نتیجہ ہے کہ آج ہمارے پاس رسول اکرم اور صحابہ کرام کے عہد کی پوری تاریخ پانی  
جو ائمہ کے ساتھ موجود ہے اور وہ وسائل بھی ہمارے پاس موجود ہیں جن سے  
ہم حدیث کے ذریعے کی جانب پڑتاں کر کے آج بھی واقعات کی صحیح تصحیح تحقیق  
کر سکتے ہیں۔ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ بجز متواتر دو ایام کے (جو بہت کم  
ہیں) باقی عین احادیث میں تلقین نہیں ہیں، ان سے علم تلقین حاصل نہیں ہوتا  
 بلکہ زیادہ سے زیاد جن غائب حاصل ہوتا ہے، پھر اسی چیزوں پر مذہب کا  
مدار رکھنا کیا معنی؟ ہم کہتے ہیں کہ مشاہدہ عینی اور تجربہ حقی کے سوا دنیا میں کوئی  
فرائیعہ بھی ایسا نہیں ہے جو مفید ہو سکتا ہو۔ تو اتر کو بھی محض اس قیاس کی بناء پر تلقین  
سمجھا جاتا ہے کہ بہت سے آدمیوں کا جھوٹ پر متفق ہو جانا مستبعد ہے۔ لیکن  
خبر متواتر کے لیے جو شرائط ہیں وہ بہت کم ایسی خبروں میں پائی جاتی ہیں جن پر تو اتر  
کا گمان ہوتا ہے۔ اکثر وہ پیشہ امور غریب میں خواہ مزماںہ ماضی سے تعلق رکھتے ہوں  
یا حال سے، ہمارے علم اور ہمارے فیصلوں کا مدار اسی طبق غائب پر ہے جو کم از  
کم دو شہزادوں سے حاصل ہوتا ہے۔ خود قرآن نے اسی طبق شہزادت کو اتنا معتبر  
قرار دیا ہے کہ اس کی بناء پر ایک مسلمان کا خون مباح ہو سکتا ہے۔ حالانکہ قرآن  
کی رو سے مسلمان کا خون اتنا محترم ہے کہ جو کوئی مسلمان کو حدداً قتل کر دے  
 اسے خلود فی النار کی سزا دی جائے گی۔ اسی طرح زنا، قذف اور سرقہ کی حدود  
 میں بھی ایسے ایم فیصلہ جات کا مدار صرف دو یا چار شہزادوں پر رکھا گیا ہے جن  
 سے ایک مسلمان کا ہاتھ کاٹ دیا جاسکتا ہے، یا ایک مسلمان کی پلٹی پر کوٹے  
 بر سارے جاسکتے ہیں۔ پس جب قرآن مجید میں غیر متواتر شہزادوں ہی پر پورے  
 نظامِ عدل کی بنیاد رکھی گئی ہے تو قرآن کے مقابلہ میں کس مسلمان کو یہ کہنے کی جگہ  
 ہو سکتی ہے کہ کسی حدیث کو حدیث رسول مان لینے کے لیے ہر مرتبہ اسناد میں  
 دو چار راویوں کا ہونا کافی نہیں ہے؛ البتہ راویوں میں سے ہم ہر راوی پر اعتماد

ذکریں گے جس طرح شاہدین میں سے ہر شاہد کا اعتبار نہیں کرتے۔ ہم حکم قرآن کے بحیب  
ذق اعدیل کی شرط لگاتے ہیں اور اسی کی تحقیق کے لیے اسماء الرجال کافی ایجاد کیا گیا،  
تاکہ راویوں کے حالات کی تحقیق کی جاسے۔ اسی طرح ہم راویوں پر جرح بھی کریں گے  
کوئی حدیث کے جو ہری تکاٹ میں ان کے درمیان ایسا اختلاف تو نہیں ہے جو ان کے  
بیان کی صحت کو مشکوک کر دیتا ہو، اسی طرح ہم درایت سے بھی کام نہیں گے جیسے ایک  
بچ مقدمات میں درایت سے کام لیتا ہے۔ مگر جس طرح شاہدین کے بیانات کا جانختا  
ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے، اسی طرح درایت بھی پھر ان کا خیل نہیں ہے۔ حدیث  
کو اصول درایت پر ہی شخص جانختا ہے جس نے قرآن کا علم حاصل کر کے اسلام کے  
اصول اور یہ کو خوب سمجھ دیا ہو، اور جس نے حدیث کے بشیر ذخیرہ کا گہرا مطالعہ کر کے  
ادایت کو پڑھنے کی نظر بھی پہنچائی ہو۔ کثرت مطالعہ اور ممارست سے انسان میں  
ایسا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حشاس ہو جاتا  
ہے اور اسلام کی صحیح روح اس کے دل و دماغ میں بس جاتی ہے۔ پھر وہ ایک حدیث  
کو دیکھ کر اول نظر میں سمجھ دیتا ہے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرمائے تھے  
یا نہیں؟ یا آپ کا عمل ایسا ہو سکتا تھا یا نہیں؟ پھر جس طرح ایک معاملہ میں دو  
ضدیوں کا اجتہاد مختلف ہوتا ہے اور جس طرح قرآن مجید کے معانی میں دو فاعلوں  
کی تفسیری مختلف ہو سکتی ہیں، اسی طرح دو محدثوں کی درایت میں بھی اختلاف ممکن  
ہے۔ خدا نے ہم کو انسانی طاقت سے زیادہ کسی چیز کا مقابلہ قرار نہیں دیا ہے اتنا  
ہے انسانی فطرت کا مقابلہ ہے، اور اس کی وجہ سے نہ قرآن چھوڑ جاسکتا

لہ فِنْ حدیث میں درایت کی حیثیت وہی ہے جو قانون میں بچ کی راستے اور قوتِ فیصلہ کی  
ہے۔ جس طرح بچ ہرگواہ کے بیان کو یونہی قبول نہیں کرتا بلکہ اس کو مختلف پہلوؤں سے  
جانخت کر رائے قائم کرتا ہے اسی طرح ایک حدیث بھی ہر درایت کا آنکھ بند کر کے قبول نہیں  
کرتا بلکہ جانخت پڑتا ہے اس کے متعلق رائے قائم کرتا ہے۔

ہے، نہ حدیث، اور نہ عدالت کی کرسی پر ایک حدیث کے متعلق جس حد تک تحقیق انسان کے بس میں ہے، اس کا سامان محدثین نے فراہم کر دیا ہے۔ ہمارا کام اس سامان سے فائدہ اٹھا کر صحیح کو غلط سے ممتاز کرنا اور صحیح کا اتباع کرنا ہے۔ نہ یہ کہ صحیح و غلط کے اختلاط کو دیکھو کر سرے سے رسالت ہی سے قطع تعلق کر لینا۔ منکرینِ حدیث کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو صرف تاریخ کی حیثیت سے لیں گے، جبکہ شرعی نہ بنایں گے۔ لگر کیا ان حضرات نے رسول کی تاریخ کو سکندر اور زپون کی تاریخ سمجھا ہے کہ اس کے صحیح ہونے پاہنہ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو؟ کیا وہ انسان نہیں سمجھتے کہ یہ اس انسان کی تاریخ ہے جس کا اتباع فرض ہے، جس کی اطاعت پر بخات کا مدار ہے، جس کی سیرت مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے؟ اس ذات پاک کی تاریخ دو حال سے خالی نہیں ہو سکتی، یا صحیح ہوگی یا غلط۔ اگر غلط ہے تو اس کو یعنی کیا معنی نذر آتش کر دیجیے۔ رسول پر پہنچان اور آپ اس کو تاریخ کی حیثیت سے قبول کریں؟ اور اگر وہ صحیح ہے تو اس کا اتباع فرض ہے مسلمان ہوتے ہوئے اس کی پیروی سے آپ پنج کہاں سکتے ہیں؟

منکرینِ حدیث کے مقالات پر نظر کرتے ہوئے انکارِ حدیث کے دو وجہہ قرار دیتے جاسکتے ہیں۔

ایک یہ کہ اسلام کے نظامِ دینی میں سرے سے حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صرف قرآن کافی ہے۔

دوسرے یہ کہ احادیثِ ناقابلِ اعتبار میں۔

ان میں سے پہلی وجہ کا جواب پہلے دیا جا چکا ہے۔ ہری دوسری وجہ، تو اس کی غلطی بھی اشارۃ گذشتہ صفحات میں ظاہر کی جا چکی ہے۔ لیکن ضرورت ہے کہ اس شبہ کو بھی تفصیل کے ساتھ رفع کر دیا جائے۔ احادیث کرنا قابلِ اعتبار سمجھنے کی اصل وجود ہم اور شک کا حصہ سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ انسان کی فطرت میں شک کا ماڈ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ بحث و تحقیق اور تلاش و تجویز کے لیے متحرک ہوا و

حقیقت کی جستجو پر انسان کو ابھار سے لیکن ہر چیز کے لیے ایک حد ہوتی ہے جس سے  
گھٹنے یا بڑھانے پر وہ مستحق نہیں رہتی۔ شک کا مادہ اگر اتنا بڑھ جلتے کرو تو حقیقی  
کے ان طرقوں سے جوانان کے امکان میں ہیں، اس کو ملٹن نہ ہونے والے اور  
ان تمام باتوں سے انکار پر آمادہ کر دے جو حقیقت کے ایک غیر ممکن الحصول میں  
پر پوری نہ اترتی ہوں تو یہ بھی ایک مذموم صفت ہے جس کو ہم اردو زبان میں وہی کہ  
سے تعجب کرتے ہیں۔

غور کریجیے تو معلوم ہو گا کہ انسان اکثر و بیشتر معاملات میں صرف اس تحقیق پر  
اعتماد کرنے کے لیے مجبور ہے جس سے خلن غالب حاصل ہوتا ہے۔ اگر وہ اس  
تحقیق میں شک کرے، اور علم لقین کے بغیر ہر مابت کو مانند سے انکار کر دے تو  
وہ دنیا کے کام کا نہ رہے گا بلکہ شاید زندہ بھی نہ رہ سکے گا۔ مثال کے طور پر میں نے  
آج تک کبھی کسی شخص کو سانپ کے کاٹے سے مرتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ مجھے سانپ  
نے کام کر اس کے ہڈک ہونے کا مجھے علم لقین حاصل ہوتا۔ میں نے صرف لوگوں سے  
یہ سنا ہے کہ جب سانپ کاٹا ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ میں اس روایت پر  
لقین رکھتا ہوں، اور سانپ کو دیکھ کر اس سے بچ جانا ہوں۔ لیکن اگر میں اس وقت  
میں شک کروں اور کہوں کہ جب تک سانپ میرے ملئے کسی کو نہ کاٹے اور  
اسی کی ثابتی سے وہ میرے ملئے مرن جاتے یا جب تک سانپ خود مجھ کو نہ کاٹے  
اور میں اس کے زیر سے نہ مر جاؤں، اس وقت تک میں لقین نہ کروں گا کہ سانپ  
ہڈک ہوتا ہے، تو میرے اس شک کا جو کچھ انعام ہو گا وہ ظاہر ہے۔

یہ تو خیر روایت متواترہ کی مثال ہے جس کے مفید لقین ہونے کو عموماً تسلیم  
کیا جاتا ہے۔ لیکن ہماری زندگی کے بے شمار معاملات ایسے ہیں جن میں ہم اخبارِ حاد  
رعینی ایکس دوراً یوں کی دی ہوئی خبروں (کو تسلیم کرتے ہیں، اور انہی پر اپنے فیصلوں  
اور اپنے علم و عمل کا مدار رکھتے ہیں۔ مخفی خبر ہونے کی حیثیت سے ہر خبر میں بچ اور  
چھوٹ ہونے کا یہاں اختلاف ہوتا ہے، مگر ہم ان دونوں پہلوؤں میں سے ایک کو

تریجع دینے کے لیے مختص خبر کے ہونے ہی پر نظر نہیں رکھتے، بلکہ عموماً خارجی قرآن سے مدد لے کر صدق یا کذب کے کسی ایک پہلو کو ترجیح دیتے ہیں، اور بسا اوقات ہماری یہ ترجیح اتنی زیادہ قوی ہوتی ہے کہ دوسرا سے پہلو کے امکان کو بھی تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ مثلاً ہر شخص کو یہ بات کروہ اپنے باپ کی جائز اولاد پے صرف اپنی ماں کی روایت سے معلوم ہوتی ہے۔ اس خبر واحد میں جس کے لیے کوئی دوسرا شاہد سرے سے مل ہی نہیں سکتا، نفس خبر ہونے کی چیزیں سے صدق و کذب کا یکساں اختلال ہے۔ لیکن کوئی شریعت آدمی اس میں کذب کے پہلو کو ترجیح دینا تو درکنار، کسی درجہ میں بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو گا خواہ واقعہ کے عقیل سے اس کا اپنی ماں کے بیان پر یقین کرنا درست نہ ہو۔

اپنے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق جذبات سے ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جہاں جذبات کا دخل نہیں ہوتا وہاں بھی ہم اسی طرح اخبار احادیث امکانی جا بچ پڑتاں کے صدق و کذب کے دونوں پہلوؤں میں سے ایک کو ترجیح دیتے ہیں، اور اگر جس ترجیح سے صرف نہیں غالب حاصل ہوتا ہے، لیکن اس نہیں پر ہم اسی طرح عمل کرتے ہیں جس طرح علم یقین حاصل ہونے کی صورت میں کرتے۔ ہماری زندگی کے معاملات میں سب سے زیادہ اور اہم اور ناک معااملہ عدالت کا ہے جس میں جذبات کا ذرہ برداشت دخل نہیں، بلکہ خالص اور ٹھوں عقلی امتحان پر احکام کی بنارکھی جاتی ہے۔ عاضی یا ناجح کے سامنے چند معااملات پیش ہوتے ہیں ان سب کا تعلق گزرے ہوئے واقعات سے ہوتا ہے اور یہ ہے کہ واقعات بلکہ شاذ و ناوارائیے ہوتے ہیں جن میں شہادتیں تو اتر کی حد کو پہنچتی ہوں۔ بیشتر معااملات میں ناجح کے سامنے صرف "اخبار احادیث" پیش ہوتی ہیں جنہیں وہ جریح و تعديل، قرآن و آثار، اور قیاس عقلی کی کسوٹی پر کس کرچے اور جھوٹ کے امکانی پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو کو راجح قرار دیتا ہے اور جب کوئی پہلو راجح ہو جاتا ہے تو اس پر وہ اس طرح فیصلہ کرتا ہے جیسے اس کے نزدیک واقعہ یقین کی حد تک ثابت ہو گیا ہے۔ اگر کوئی ناجح ہر شاہد کو جھوٹا

اور پر شہادت کو غلط فرض کر کے اپنا کام شروع کرے، اور سرواقعہ کو تسلیم کرنے کے لیے اس بات پر اصرار کرے کہ یا تو واقعہ خود اس کی آنکھوں کے صافی پیش آتے، یا متو اتر روایات اس تک پہنچیں، تو یقیناً چند ہی ساعتوں میں اس کو عدالت کی کرسی چھوڑ دینی پڑے گی۔

اسی طرح تجارت، تدبیر سلطنت اور دوسرے دنیوی کاروبار میں بھی اس دن اخبار احادیث پر ہمارے معاملات چلتے ہیں بلکہ بہت سی خبریں تو ہم کو تمارا اور اخبارات کے ذریعہ سے ملتی ہیں جن کی صحت میں عقلابہت سے شکوک و شبہات کی گنجائش نکلتی ہے۔ ہم نہیں کہ سکتے کہ جس شخص نے ہم کو تمار دیا ہے وہ درستیت وہی شخص ہے جس کا مامن تاریخ پر لکھا ہوا ہے۔ اور اگر تاریخ الواقع اسی کا دیا ہوا ہے تو بھی ہم کو نہیں معلوم کہ جو خبر وہ دسے رہا ہے وہ اسے کس ذریعہ سے معلوم ہوتی ہے اور اس کا ذریعہ معتبر ہے یا نہیں؟ اس قسم کے بہت سے اختلافات ہر تاریخی خبر میں ہوتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کا سارا کاروبار انہی خبروں پر مبنی ہے وہ ان اختلافات کی طرف بہت کم توجہ کرتے ہیں۔ محسن خلاہری قرآن سے یہ جانچ یقتنے ہیں کہ تمار انہی کے ایکیں کا دیا ہوا ہے یا نہیں، اور حب ایک غلیق غالب ای کو حاصل ہو جاتا ہے تو اس پر اپنے لاکھوں روپے لگادیتے ہیں۔

بھی صورت مذکوری معاملات میں بھی ہے۔ سب سے بڑی ہی خبر جس پر ہمارے ایمان کا مدار ہے قرآن مجید ہے۔ اس کتاب کا کلام الہی ہونا ہم کو صرف ایک گواہ کی شہادت سے معلوم ہوا ہے اور وہ گواہ ذاتی رسالت پناہ ہے۔ نفس خبر ہونے کے لحاظ سے اس میں بھی صدق و کذب کا اختصار ہے۔ لیکن خبر جسی گواہ نے دی ہے اس کی راست بازی، دیانت اور پاکیزہ سیرت کو دیکھو کر اور جو خبر اس نے دی ہے اس کی متفقیت اور حقائقیت کا لحاظ کر کے ہم کذب کے پہلو پر صدق کے پہلو کو لاج فرار دیتے ہیں، اور پھر بھی ترجیح ایمان بن کر ہمارے قلب میں ایسی راستی ہو جاتی ہے کہ کذب کا تصور تک آنے نہیں پتا۔ لیکن دوسری

طرف بہت سے لوگ ہیں جنہیں اس شاہد ایمن کی شہادت میں شک ہے، اور اسی شک کی بنیاد پر وہ اس کی تصدیق سے انکار کر رہے ہیں۔ ہم میں اور ان میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ ہم نے ایک راست بازگواہ کی گواہی کو تسلیم کیا اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اس کی گواہی میں شک کیا اور کفر میں مبتلا ہو گئے۔ ورنہ یہ ظاہر ہے کہ وجہ اترتے ہوئے نہ ہم نے دیکھی اور نہ انہوں نے۔

ان مشاہدوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بالعموم اوس طور پر کے انسان اپنی نندگی کے معاملات میں نہ اتنے ضعیفۃ الاعتقاد ہوتے ہیں کہ ہر خبر کو بلا تحقیق و تفہیش قبول کر لیں، اور نہ اتنے شکلی اور وہی ہوتے ہیں کہ ہر خبر کی صحبت اور ہر رادی کی صداقت میں شنبہ کریں اور ہر معاملہ میں راتے قائم کرنے کے لیے اس علم قبین کا مطالیہ کریں جو صرف تجربہ و مشاہدہ یا رواستہ متواترہ سے حاصل ہونا ہے۔ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان عقل سليم اور معتدل فطرت رکھنے والے انسانوں کا طرز عمل ہے تو ہماہے کہ وہ خبروں اور روایتوں کو امکانی ذرائع تحقیق سے کامنے کر جائیجے میں اور اس جا پچ پڑناں میں اگر ان کے غلط ہونے کا گمان غالب دنکہ یقین، ہوتا ہے تو انہیں رد کر دیتے ہیں، اور اگر ان کے صحیح ہونے کا گمان غالب دنکہ یقین، حاصل ہو جاتا ہے تو ان کو قبول کر کے انہیں کے مطابق عمل کرنے ہیں۔ تحقیق اور جا پچ پڑناں کا معیار بھی نامم خبروں کے لیے یہاں نہیں ہوتا بلکہ اس کے سخت اور نرم ہونے کا انحصار خبر کی نوعیت اور اس معاملہ کی اہمیت پر ہوتا ہے جس سے اس خبر کا تلقین ہو۔ یہ تو اس مسئلہ کی علمی حیثیت تھی۔ اب اگر آپ عقلی حیثیت سے بھی غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ یہی اعتدال کا طریقہ عین مطابق عقل ہے۔ اور اس کے خلاف ضعیفۃ الاعتقادی اور وہی پن دنوں خلاف عقل ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ عقل کے نزدیک پرواقعہ میں شک کرنا ممکن ہے، ختنی کہ محسوسات اور مشاہدات تک میں بھی شک کیا جاسکتا ہے، لیکن یہ لازم نہیں کہ ہر فعل جو کیا جاسکتا ہو اس کا کرنا عقل کے نزدیک درست اور احسن بھی ہو۔ مزید برآں عقل ہر خبر کے متعلق صرف

یہ حکم لگافی ہے کہ اس میں صدق اور کذب کا یکساں اختال ہے، یعنی محسن خبر ہونے کی حیثیت سے وہ پچ اور جھوٹ ہونے کا مساوی امکان رکھتی ہے اور جیسے تک کوئی معقول وجہ کسی ایک پہلو کو ترجیح دیشے کے لیے موجود نہ ہو کسی خبر کو نہ پچ کہا جاسکتا ہے اور نہ جھوٹ۔ لیکن کوئی خبر تم کو محسن خبر ہونے کی حیثیت سے نہیں پہنچتی، بلکہ اس کے ساتھ لازماً بہت سے لیے قرآن مجید ہوتے ہیں جن سے تصدیق یا تکذیب کی جانب پڑا ہے وہ جھکتا ہے۔ خالص شک کا مقام عینی جہاں نہ تصدیق ہوا اور نہ تکذیب، ایک ایسا باریک مقام ہے کہ انسان کا ذہن چند لمحے تک اس پر نہیں ٹھیک رکتا۔ اس لیے ہر خبر کو سنتے ہی ذہن فوراً ایسے وجہہ ملاش کرنے لگتا ہے جن سے مدد کے کروہ شک کے مقام سے تصدیق یا تکذیب کی طرف پھر جاتے۔ پھر یہ بات بالکل ذہن کے سلیکم یا مرضی ہونے پر موقوف ہے کہ وہ ان دونوں پہلوؤں میں سے کسی پہلو کو معقول وجود کے ساتھ ترجیح دیتا ہے یا غیر معقول وجود کے ساتھ۔ کسی خبر کا متواتر نہ ہونا، یا خبر واحد ہونا عقل لا اس کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے کہ مجرد اسی بنیاد پر اس کے غلط ہونے کا حکم لگا دیا جاتے۔ نہ یہ بات کسی خبر کو جھوٹ قرار دینے کے لیے کافی اور معقول وجہہ ہو سکتی ہے کہ وہ بہت قدیم زمانے سے متعلق ہے اور ہم تک بہت سے واسطوں سے پہنچی ہے، نہ کوئی صاحب عقل آدمی یہ فرض کر سکتا ہے کہ ہر خبر جھوٹ ہوتا ہے اور دنیا کے تمام خبر آپس میں متفق ہو کر جھوٹی خبریں دینے کا فیصلہ کر پچھے ہیں۔ اس قسم کے تمام مفروضات جو تکذیبی ذہنیت سے دیکھنے والوں کے دل وہ دماغ پر مسلط ہو جاتے ہیں اور جن کی بنیاد پر وہ ہر خبر کی تکذیب کی طرف مائل ہو جاتا کرتے ہیں، قطعاً خلاف عقل ہیں اور اسی طرح اس کے برعکس جن مفروضات کی بنیاد پر ہر خبر اور ہر خبر کی تصدیق کی جاتی ہے وہ بھی عقل کے مطابق نہیں ہیں۔ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان صحیح راستہ جو ایک سلیکم الفطرت ذہن اختیار کرے گا وہ یہی ہے کہ وہ مجموعاً تمام خبروں کی نہ تصدیق کرے گا اور نہ تکذیب، بلکہ وہ

ہر خبر کو فرقاً فردائے کراس کے مخصوص حالات کے لحاظ سے تحقیق و تفصیل کے ایک خاص معیار پر جانچے گا، اور جب اس تحقیق کے ذریعہ سے صدق و کذب کے وغافل پہلوں میں سے کسی ایک پہلو کی طرف گان غائب حاصل ہو جاتے گا تو اسی پہلو کا حکم لگا دیا جائے۔ اب یہیں دیکھتا چاہیے کہ کسی خبر کی تحقیق کا سخت سے سخت قابل عمل معیار کیا ہو سکتا ہے۔ فرض کیجئے زید نام کا ایک شخص اب سے سورس پہلے گزر ہے، جس کے متعلق عمر و ایک روایت آپ تک پہنچتا ہے۔ آپ کو تحقیق کرنا ہے کہ زید کے متعلق یہ روایت درست ہے یا نہیں؟ اس غرض کے لیے آپ جب زیل تحقیقات قائم کر سکتے ہیں۔

(۱) یہ روایت عمر تک کس طریقے سے پہنچی؟ درمیان میں جو واسطے میں ان کا سلسلہ زید تک پہنچتا ہے یا نہیں؟ درمیانی راویوں سے ہر راوی نے جس شخص سے روایت کی ہے اس سے وہ ملا جی تھا یا نہیں۔ ہر راوی نے روایت کس عمر اور کس حالت میں سنی؟ روایت کو اس نے فقط بفقط تقل کیا یا اس کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں ادا کیا؟

(۲) کیا یہی روایت دوسرے طریقوں سے بھی منقول ہے۔ اگر منقول ہے تو سب بیانات متفق ہیں یا مختلف؟ اور اختلاف ہے تو کس حد تک؟ اگر کھلا ہوا اختلاف ہے تو مختلف طریقوں میں سے کوئا طریقہ روایت زیادہ معتبر ہے؟

(۳) جن لوگوں کے واسطے سے یہ خبر پہنچی ہے وہ خود کیسے ہیں؟ جھوٹے یا بد دیانت تو نہیں؟ اس روایت میں ان کی کوئی ذاتی یا جماعتی غرض تو نہیں ہیں؟ ان میں صحیح یا درکھنے اور صحیح تقل کرنے کی قابلیت تھی یا نہیں؟

(۴) زید کی اتفاق و طبع، اس کی سیرت، اس کے خیالات، اور اس کے ماحول کے متعلق جو مشہور و متواتر روایات پا ثابت شدہ معلومات ہمارے پاس موجود ہیں یہ روایت ان کے خلاف نہیں ہے؟

(۵) روایت کسی غیر معمولی اور بعید از قیاس امر کے متعلق ہے یا معمولی اور قرین قیاس امر کے متعلق ہے؟ اگر پہلی صورت ہے تو کیا طریق روایت اتنے کثیر مسلسل اور مختبر ہیں کہ ایسے امر کو تسلیم کیا جاسکے؟ اور اگر دوسری صورت ہے تو کیا روت اپنی موجودہ شکل میں اس امر کی صحت کا اطمینان کرنے کے لیے کافی ہے؟

بھی پانچ پہلو ہیں جن سے کسی خبر کی جانچ پڑتاں کی جاسکتی ہے۔ ان سوالات کے متعلق اگر ذرائع تحقیق ہمارے پاس موجود ہوں، اور ان ذرائع سے کوئی خبر تحقیق کے معیار پر پوری اُتر جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس کی تکذیب کریں اور اگر کوئی خبر اس معیار پر پوری نہ اُترے تو ہم کو حق ہے کہ خواہ اس کی تکذیب کریں یا اس کو رد کریں۔ لیکن اگر ذرائع تحقیق موجود ہوتے ہوئے بھی کوئی شخص فرد افراداً ہر خبر کو جانچنے اور اس کے متعلق راستے قائم کرنے کے پھر اسے تمام خبروں کو مجموعاً محض اس بنا پر رد کر دے یا جھوٹ قرار دے کر ان میں بعض جعلی خبریں ملی ہوئی ہیں، یا بعض راویوں کی کمزوریاں ثابت ہیں، یا بعض اس شخص کی عقل میں نہیں مجاہدیں، تو اس سے بڑھ کر غیر معقول طرز عمل اور کوئی نہیں ہو سکتا۔

اس تمہیدی بیان نے معاملہ کو بالکل صاف کر دیا ہے۔ اگر کوئی شخص ذات رسانیت پناہ کے اسوہ حسنة اور سفت مطہرہ سے کوئی تعلق رکھنا ہی نہ چاہتا ہو، تو ہبہ ایک دوسری بات ہے۔ لیکن اگر وہ آن حضرت کی تقلید ضروری سمجھتا ہے اور اسے واقعی یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ حضور نے اپنی ۲۳ سال کی حیات نبڑی میں کس طرح زندگی بسر کی؟ کون سے افعال کیے؟ کن افعال سے اجتناب کیا؟ کن باتوں کو جائز رکھا؟ کن باتوں سے منع فرمایا؟ تو لامحالہ اس کو حدیث کے ذخیرے کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا یہاں وہ دیکھے گا کہ اس وقت بھی دنیا میں کم و بیش چار پانچ لاکھ آدمی ایسے موجود ہیں جن کے پاس حدیث کی کتنا بیس امام مالک، امام محمد، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری اور دوسرے ائمہ حدیث سے مسلسلہ پہنچی ہیں۔ اس لیے اس امر میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں

کو یہ کہا بین اپنی بزرگوں کی لمحی ہوتی ہیں۔ پھر اس میں بھی شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ ان بزرگوں نے ہر حدیث کی جو سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صاحبہ کرام تک پہنچاتے ہیں، وہ کم از کم ان کی تحقیق کے لحاظ سے درست تھی۔ لہذا ان کتابوں کے ذریعہ سے حدیث کا وہ علم قریب قریب یقینی طور پر پہنچ تک پہنچ گیا ہے جو پہلی، دوسری، تیسرا اور چوتھی صدی ہجری کے ائمۃ حدیث کے پاس تھا۔ اس کے علاوہ احادیث کے متعلق وہ تمام معلومات بھی معتبر کتابوں کے ذریعہ سے ہم تک پہنچ گتی ہیں جن سے کام لے کر ان محدثین نے حدیثوں اور ان کے روایوں کے حالات کی جانچ پڑتاں کی تھی۔ اور یہم نے ایک خبر کی تحقیق کے لیے جو تحقیقی سوالات قائم کیے ہیں ان میں سے ہر سوال کا مفصل جواب قریب قریب ہر حدیث کے متعلق ہم کو ان کتابوں میں مل جاتا ہے۔ پھر محدثین کے درمیان احادیث اور ان کی تحقیق کے باسے میں جو اخلاف آراء ہوتے ہیں وہ بھی تمام دلائل اور وجہ کے ساتھ محفوظ ہیں۔ اس وسیع، مفصل اور زیادہ سے زیادہ امکانی واقع رکھنے والے ذخیرے کے موجود ہوتے ہوئے کوئی صاحب عقل انسان پر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی واقعہ اور آنحضرت کا کوئی ارشاد آج دنیا میں صحت کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ ایسا دعویٰ کرنے والے کو سب سے پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ عہدِ رسالت سے لے کر ہمارے زمانے تک جو لاکھوں سے متجاوز اور کروڑوں تک پہنچے ہوئے مسلمان احادیث ضمیم کے تقل کرنے اور سننے سنانے میں مشغول رہے ہیں وہ سب کے سب، یا ان میں سے اکثر جھوٹے تھے اور انہوں نے بالاتفاق پہنچ کر پاتھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھہیت گھوڑنے اور اس طریقے سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے اور اسلام کو تباہ و بر باد کرنے ہی میں اپنی ساری عمر سپر کریں گے اگر کوئی منکر حدیث اس امر کا ثبوت رکھتا ہے تو وہ اس کو پیش کرے یہم اسے یقین دلاتے ہیں کہ ساری دنیا کے محققین اور مکتشفین کے کارنامے اس کی اس نادر

تحقیق کے سامنے دب جائیں گے لیکن اگر اس کے پاس مددگاری اور جھوٹے الزامات اور کل پر بعض کا حکم لکانے کے مقابلہ انگیز اور غلط عقل و ریاثت طرقوں کے سوا اور کوئی چیز اسی نہیں ہے جس کو وہ اپنے دعوے کے ثبوت میں پیش کر سکتا ہے تو اسے کہ از کم یہ امید تو نہ کھنی جا ہے کہ جن لوگوں کی عقل درست ہے اور جو فطرت سے بہرہ دریں، وہ بھی اس کے عوی کو تسلیم کر کے حدیث کی ساری خبروں کو مجموعی حیثیت سے غلط اور قابلِ درقرار دے دیں گے۔

ہم نے کبھی اس خیال کی تائید نہیں کی کہ ہر شخص کو ائمہ حدیث کی اندھی تقدیم کرنی چاہیے یا ان کو غلطی سے مبترا سمجھنا چاہیے۔ نہ کبھی ہم نے یہ دعویٰ کی کہ ہر کتاب میں جو روایت قائل رسول اللہ سے شروع ہواں کو انہیں بند کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مان لیا جاتے۔ بر عکس اس کے ہمارے نزدیک کسی حدیث کو حدیث رسول قرار دینے کی ذمہ داری ایک گران بار ذمہ داری ہے جس کو اٹھانے کی جرأت کافی تحقیق کے بغیر سرگز نہ کرنی چاہیے اور تحقیق و اجتہاد کے متعلق بھی ہمارا مذہب یہ ہے کہ اس کا دروازہ ہر زمانہ میں کھلا ہے تو اسے اور کسی خاص عہد کے لیے مخصوص نہیں ہے لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ جن لوگوں نے فنِ حدیث کی تحقیق اور اس کے باقاعدہ مطالعہ اور تحقیقات میں پورا ایک چینیہ بھی صرف نہیں کیا ہے وہ ان بزرگوں کے کارناموں پر تقدیم کریں جنہوں نے پوری پوری عمر میں اس فن کی خدمت میں بسرا کر دی ہیں۔ صرف ایک فنِ حدیث ہی پر متوقف نہیں ہے دنیا کا کوئی علم و فن بھی آپ کو ایسا نہ ملے گا جس میں ہتھیار اور اندازوں کو رسیح اور ماہر اخبار رہتے اور مجتہدا نہ کلام کا حق دیا جاتا ہو۔ یہ حق انسان کو صرف اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ فن کے مبادی اور اصول پر پوری طرح حاوی ہو چکا ہو، اور قبضنا ذخیرہ معلومات اس فن کے متعلق موجود ہو وہ سب اس کی نظر میں ہو۔ باقی رہا وہ شخص جو بالی اس

مرتبہ پندرہ بیان چاہے تو اس کے بیس سلامتی اسی میں ہے کہ وہ امکۂ فن کی تجھیات اور ان کی آراء کا اتباع کرے۔ تمام دنیوی علوم کی طرح مذہبی علوم میں بھی یہی طریقہ بہتر اور صیحہ تر ہے۔ اس کو بچپن ڈر کر جو لوگ اچھا رہ بلہ علم کا علم بنند کرتے ہیں وہ دنیا اور دین دونوں میں اپنے بیسے رُسوائی کا سامان کرتے ہیں۔

(”ترجمان القرآن“ صفحہ ۲۷۷۔ جون ۱۹۷۴ء)

---

# مسک اعتدال

کسی مسلمان کو اس بات سے انکار نہیں ہو سکتا کہ امور دین میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل واجب الاتباع ہے اور قرآن کے بعد جس چیز کے ذریعہ سے ہم کو اپنے دین کا علم حاصل ہوتا ہے وہ حضور کاظمؑ ہی ہے۔ اس کے بعد سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ طرقِ نبوی کے علم کی کیا کیا صورتیں ہیں اور کس صورت کا دین میں کیا مرتبہ ہے۔

جو باتیں حضور سے ہم تک پہنچی ہیں ان کو دو حصوں پر تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک وہ حصہ ہے جو تو اتر کے ساتھ آیا ہے، خواہ وہ تو اتر علی ہو یا جو دوسرا حصہ وہ ہے جو تو اتر کے ساتھ نہیں آیا۔ ان میں سے پہلے حصہ کے متعلق تمام امرت کااتفاق ہے کہ وہ یقینی ہے اور عقل بھی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اسے ثابت شدہ حقیقت تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ تو اتر کا مفید یقین ہونا مستلزم ہیں سے ہے۔ رہا دوسرا حصہ تو اصولاً اس کو سب طبقی مانتے ہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ مفید علم ضروری ہے۔ مگر اختلاف جو کچھ واقع ہوتا ہے وہ اس امر میں ہے کہ اس اصولی طبیعت کی بناء پر اخبار احادیث کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتے؟ اس مشکلہ میں تین مختلف مسک ہیں۔

ایک گروہ کہتا ہے کہ احادیث کا تمام مجموعہ ظنی ہے، اس لیے وہ من جیٹ انکل روکر دینے کے لائق ہے، کیونکہ جو چیز ظنی ہے وہ ثابت شدہ نہیں اور جو ثابت شدہ نہیں وہ لائق اتباع نہیں۔ مگر خود سے سے غور و خوض کے بعد اس مسک کی غلطی واضح ہو جاتی ہے اس میں شک نہیں کہ کوئی مظنوں چیز ثابت نہ

نہیں ہوتی لیکن کسی چیز کا ثابت شدہ نہ ہونا یہ مضمونی کب رکھتا ہے کہ وہ روایتی کر دئے  
کے قابل ہو؟ اگر اتباع کے یہے تقدیمی ہونا شرط ہے تو فرمائیے کہ "تینیات" نیا  
میں ہیں کتنے؟ آپ کی زندگی کے لئے معاملات ایسے ہیں جن میں آپ صرف تینیات  
کی پیروی کرتے ہیں اور مفہومات کو من حیث اکمل روکر دیتے ہیں؟ تجزیہ و تحلیل  
کے چند ہی مدارج طے کر کے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ قاعدہ زندگی میں نہ کبھی  
چلا ہے نہ چل سکتا ہے مفہومات کو من حیث اکمل قبول کر لینا جس درجہ کی غلطی  
ہے، اسی درجہ کی غلطی ان کو من حیث اکمل روکر دینا بھی ہے۔ عقول سدید کا فضائی  
یہ ہے اور اسی کی پیروی زندگی کے تمام معاملات میں انسان کرتا ہے کہ تمام  
مفہومات کو ایک ہی لکڑی سے نہ پان کا جائے بلکہ ان کے درمیان تمیز کی جائے۔  
ان میں سے ہر ایک کو جدا جدا بچ کر دیکھا جائے اور تحقیق کے مختلف زرائع سے  
کام لے کر یہ دریافت کیا جائے کہ کوئی کسی چیز تینیں سے کس درجہ قریب یا کس درجہ بعد  
ہے۔ جو چیز بعد ہو اسے روکر دو۔ جو چیز قریب و بعد کے درمیان ہو اس میں توقف  
کرو۔ اور جو چیز قریب یا اقرب ہو اس کو بجا خدا اس کے درجہ کے قبول کرو۔ بھی ہوں  
ہے جس پر دنیا کے سارے معاملات میں عمل کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ ہمارا دن غیر  
معقول نہیں ہے اس لیے اسی کی پیروی دین کے معاملات میں بھی کرنی چاہیے۔  
کم از کم ہم تو قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ملی جو اس اصول کو خلاف  
حق قرار دیتی ہو۔ جن آیات میں ظن پر چلنے والوں کی بُرائی وارد ہوتی ہے ان کا  
مقصد یہ نہیں ہے کہ ظن کوئی گناہ ہے یا اس سے بالکلیہ اختناک واجب  
ہے، بلکہ اس کا نشاستھ صرف یہ ہے کہ جو ظن و تنبیہ وحی کے خلاف ہو، یا جس  
کو وحی سے یہ نیاز اور یہ پرواہ کر اختیار کیا جائے، وہ گمراہی کا سبب ہے۔  
احادیث کو بالکلیہ روکر دینے سے ہے عملًا جو خرافی واقع ہوتی ہے وہ یہ ہے  
کہ جزئیات میں انسان رسالت کی رہنمائی سے محروم ہو جاتا ہے، اور دین پر  
عمل کرنے کی تفصیل صورتوں میں قیاس و راستے کا دخل اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ

اس سے اصولی احکام کی اصل اپرٹیٹ کے بھی خلاف ہو جانے کا خوف ہے۔ نیز اس میں یہ بھی خطرہ ہے کہ جب تفصیلات میں سرے سے کوئی سند ہی نہ ہوگی تو لا محال انفرادیت را ہ پائے گی۔ ہر شخص اپنی راستے اور اپنے رجحان کے مطابق جو صورت پائی ہے گما اختیار کرے گا۔ اور کوئی قوت اپنی باقی نہ رہے گی جو تفرقہ و انتشار اور اختلافِ عمل کو انفرادیت کی آخری حدود تک پہنچنے سے روک سکتی ہو۔ مثال کے طور پر ایک نماز جمعہ ہی کو لیجئے۔ بنا پرے پاس علم یقین کے جو ذراائع میں ان میں سے پہلا اور سبکے جزا ذریعہ یعنی قرآن ہم کو صرف یہ پداشت دیتا ہے کہ جب نماز جمعہ کے لیے بلا یا جائے تو سب کام چھوڑ کر دوڑ پڑو۔ دوسرا ذریعہ یعنی عمل متواتر ہم کو اس سے تھوڑی دوڑ آگئے بے جا کر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ صرف اتنا علم ہم کو دیتا ہے کہ جمعہ کا وقت ظہر کا وقت ہے، اس کے لیے جماعت شرط ہے، اس سے پہلے خطبہ ہونا پاہیزے، اس کی رکعتیں دو ہیں، اور اس کے لیے اذن عام ضروری ہے۔ ان امور کے بعد جتنے عمل جزئیات ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی قرآن یا عمل متواتر سے ہم کو معلوم نہیں ہوتی۔ اب اگر اخبار احاد کو پہلی تیزی مجموعی روکر دینے کا اصول اختیار کیا جائے، تو تیزی یہ ہو گا کہ ہر شخص جزئیات کو اپنی راستے سے منفر کر لے گا، اور کسی راستے کو بھی کوئی ایسی قوت حاصل نہ ہوگی جس کی بنا پر اسے دوسری راستے کے مقابلہ میں ترجیح دی جائے اور مسلمانوں کی کسی بڑی جماعت پر اس کی پیروی لازم ہو جائے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے جزئیات میں کتنی انفرادی برپا ہوگی، نظام جماعت کو کتنا نقسان پہنچے گا اور کس طرح بعض سورتوں میں عاصد شرعیت تک فوت ہو جائیں گے اس میں شک نہیں کہ اخبار احاد سے جو تفصیل معلوم ہوئی ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ مختلف ہیں لوران کی بنا پر بھی متعدد مذاہب ملکتے ہیں مگر اول تو ان میں شکل پارچ سات مذاہب ملکتے کی تباہی ہے اور بھرپور سے تباہے مذہب بھی ملکتے ہیں مگر ایک باوقتدار کی سند حاصل ہے جس کو سب مسلمان یہیں کرتے ہیں اور جس کی قوت سے

مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اس کا اتباع کرتی ہے بخلاف اس کے اخبار احادیث بالکل یہ رونگر دینے کے بعد بے شمار نما ہب کی گنجائش تکل آتی ہے اور ان میں سے کسی نہ ہب کو بھی کوئی ایسی سند حاصل نہیں ہوتی جو زیادہ نہیں وہی مسلمانوں کو ایک جزویہ میں ایک طریقہ پر جمع کر دے نتیجہ اس کا بالکل ظاہر ہے۔ جماعت کی قوت جماعت ہم ہو کر رہ جلتے گی، اختلافِ عمل اس مقصد ہی کا خاتمه کر دے گا جس کے لیے انتہت جماعت فرض کی گئی ہے۔

جماعہ کو ہم نے صرف مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ وہ اگر آپ خور کریں تو سعوم ہو گا کہ اسلام کے نظام شرعی کو جو چیز ایک مستقل عملی نظام بناتی ہے اور جو چیز مسلمانوں کی تہذیب، تقدیم، معاشرت، ہدایت، یا استغصان کی پوری اجتماعی زندگی اور انفرادی بناو کو ایک مستقل تفضیلی شکل میں ڈھالتی ہے وہ وہ وہی علم ہے جو ہم کو اخبار احادیث سے حاصل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیداوار اور راستوں کی زندگی، آپ کے اخلاق، آپ کی عادات، آپ کا طریقہ عبادت، آپ کا طرز تعلیم و تبیخ، آپ کا طرز عدالت، آپ کے قانونی فیصلے، زندگی کے مختلف شعبوں میں آپ کی پداپات، اور آپ کا طرز عمل، پھر آپ کے خلفاء اور صحابہ اور اہل بیت مارے تابعین کے آثار یہی وہ چیزیں ہیں جو اسلام کی عملی زندگی کا پورا نقشہ پیش کرتی ہیں اور اسی نقشہ پر اسلام ایک مکمل نظام حیات بنتا ہے۔ مگر ان چیزوں کے حصول کا ذریعہ نہ قرآن ہے نہ تو اتر صرف اخبار احادیث ہی ہیں جو ہم تک معلومات اور پداپات کا یہ عظیم الشان ذخیرہ پہنچاتی ہیں۔ ان کو مٹاوی کیسے پھر اسلام محسن ایک ڈھانچہ رہ جلتے گا جس پر گوشت پورست کچھ نہ ہو گا، جس کی شکل اور جس کے خدو خال کو جو شخص جس طرح چلتے گا بناتے گا۔ اس صورت میں درحقیقت کوئی ایک نظام جماعت قائم ہی نہ ہو سکے گا، کجا کہ کوئی ایسی تہذیب وجود میں اسکے جو اسلامی تہذیب ہو۔ پھر وحیہ ہے کہ حدیث کی مخالفت آج وہی لوگ کر رہے ہے میں جو دراصل اسلامی تہذیب کے نظام کو توڑنا چاہتے ہیں۔ وہ اس کے تعینات کی

حدود میں اپنی اہواد اور خواہشات کی پیر دہی کے لیے کوئی گنجائش نہیں پلتے، اس لیے انہوں نے یہ مسکن اختیار کیا ہے کہ اس چیز کو ہی مٹا دو جو اس نظام کی حد بندی کرتی ہے، پھر تم آزاد ہو جائیں گے کہ اسلام کے ڈھانچے پر جس طرح چاہیں گوشت پوشت چڑھائیں اور حصی چاہیں اس کی شکل بنادیں۔

یہ لوگ احادیث کو مجموعی حیثیت سے مردود قرار دینے کے لیے ان حدیثوں کو مثال میں پیش کرتے ہیں جو باہم متعارض ہیں، یا جن میں انبیاء علیہم السلام پر طعن پایا جاتا ہے، یا جو صریح عقل کے خلاف ہیں، یا قرآن کے خلاف نظر آتی ہیں۔ ان چند افراد سے یہ لوگ پورے مجموعہ کے غلط اور قابلِ رو ہونے پر استدلال کرتے ہیں۔ مگر یہ استدلال ایسا ہی ہے جیسے کسی قوم کے چند افراد کی بد معاشری سے پوری قوم کی بد معاشری پر استدلال کیا جاتے۔ جبکہ ہر روايت بمحاذِ ثمن اور بلحاظ اسناد و مسری روایت سے مختلف ہے تو ہر روايت کے متعلق جد اجدا تحقیق کر کے راستے قائم کرنی چاہیے کہ وہ قبول کرنے کے لائق ہے یا روکر دینے کے لائق۔ سب کو ایک مجموعہ کی حیثیت سے کہ پورے مجموعے کے متعلق ایک ہی راستے قائم کر لینا کسی معقول انسان کا فعل نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ لوگ احادیث پر فرد افراد انگاہ ڈالیں گے تو ان کو معلوم ہو گا کہ جہاں ایک قلیل تعداد ایسی حدیثوں کی ہے جنہیں دیکھ کر دل گواہی دیتا ہے کہ یہ حدیثوں رسول اللہ کی نہیں ہو سکتیں، وہاں ایک کثیر تعداد ایسی حدیثوں کی بھی ہے جو حکمت کے جواہروں سے برز ہیں، جن میں قانون اور اخلاق کے بہترین اصول پائے جاتے ہیں، جو اسلام کی تحقیقت اور اس کے مصالح و حکم پر بہترین روشنی ڈالتی ہیں اور جن کو دیکھ کر دل گواہی دیتا ہے کہ یہ ایک رسول ہی کی حدیثیں ہو سکتی ہیں۔

پھر اگر یہ لوگ حق پرست اور انصاف کے پسند ہوں تو انہیں نظر آتے کہ محمد نبی کرام نے عہد رسالت اور عہد صحابہ کے آثار و اخبار جمع کرنے اور ان کو چھانٹنے اور ان کی حفاظت کرنے میں وہ مختیں کی ہیں جو دنیا کے کسی گروہ نے۔

کسی فور کے حالات کے بیسے نہیں کیں۔ انہوں نے احادیث کی تنقید و تتفقیح کے لیے جو طریقے اختیار کیے وہ ایسے ہیں کہ کسی فور گذشتہ کے حالات کی تحقیق کے ان سے بہتر طریقے عقل انسانی نے آج تک دریافت نہیں کیے تھے تحقیق کے زیادہ سے زیادہ معتبر فرائع جو انسان کے امکان میں ہیں وہ سب اس گروہ نے استعمال کیے ہیں اور ایسی سختی کے ساتھ استعمال کیے ہیں کہ کسی دوڑتاریخ میں ان کی نظر نہیں ملتی۔ درحقیقت یہی چیز اس امر کا قین دلاتی ہے کہ اس غلطیہ اشتن خدمت میں اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق شامل حال رہی ہے، اور جس خدا نے اپنی آخری کتاب کی حفاظت کا غیر معمولی انتظام کیا ہے اسی نے اپنے آخری نبی کے تصور قدم اور آثار پدایت کی حفاظت کے لیے بھی وہ انتظام کیا ہے جو اپنی نظر اپنے ہی ہے۔

یہ تو اس گروہ کے متعلق تھا جو احادیث کی اصولی ظہیرت کی بنیاد پر انہیں بالکلیہ رد کر دینا چاہتا ہے۔ اب دوسرے گروہ کو لیجئے جو دوسری انتہا کی طریقہ لگایا ہے۔ یہ لوگ محمد بنین کے اتباع میں جائز حد سے بہت زیادہ تشدید رخصیار کرتے ہیں۔ ان کا قول یہ ہے کہ محمد بنین کرام نے دو حصہ کا رد وحدہ اور پانی کا پانی الگ کر کے رکھ دیا ہے، ایک ایک حدیث کو چنانچہ کروہ بتاچکے ہیں کہ کون کس حد تک قابل اعتبار ہے اور کون کس حد تک ناقابل اعتبار۔ اب بہارا کام مرد یہ ہے کہ ان بزرگوں نے احادیث کے جو وجہے مقرر کر دیتے ہیں انہی کے مطابق ہم ان کو اعتبار اور صحیحیت کا مرتبہ دیں۔ مثلاً جو قوی الاسناد ہے اس کے مقابلہ میں صحیح الاسناد کو چھوڑ دی جسے وہ صحیح قرار دے گئے ہیں اسے صحیح تسلیم کریں اور جس کی صحت میں وہ تدریج کر گئے ہیں اس سے بالکل استثناؤ نہ کریں۔ ان کے معروف کے معروف اور ان کے منکر کو منکر نہیں۔ روایۃ کے محل اور ضبط اور تعاہد کے متعلق جن جن آراء کا وہ اخبار کر گئے ہیں ان پر گویا ایمان لے آئیں۔ ان کی نگاہ میں احادیث کے معتبر پا غیر معتبر ہونے کا جو معیار ہے، تھیک اسی معیار کی ہم

بھی پابندی کریں۔ مثلاً مشہور کوشاذ پر، مرفوع کو مرسل پر، مسل کو منقطع پر لازماً ترجیح دیں اور ان کی چیزی ہوتی حد سے میک سر مُوجا و زنہ کریں۔ یہی وہ مسئلہ ہے جس کی شدت نے بہت سے کم علم لوگوں کو حدیث کی کلی مخالفت یعنی دوسری آنہا کی طرف دھکیل دیا ہے۔

محمد بن رحمہم اللہ کی خدمات مسلم۔ یہ بھی مسلم کے تقدیم حدیث کے لیے جو مواد انہوں نے فراہم کیا ہے وہ صدر اول کے اخبار و آثار کی تحقیق میں بہت کارآمد ہے کلام اس میں ہیں بلکہ صرف اس امر میں ہے کہ کلیتہ ان پر اعتماد کرنا کہاں تک درست ہے۔ وہ بہر حال تھے تو انسان ہی انسانی علم کے لیے جو عدیں فطرۃ اللہ نے مقرر کر رکھی ہیں ان سے آگئے تو وہ نہیں جاسکتے تھے۔ انسانی کاموں میں جو شخص فطری طور پر وہ جانتا ہے اس سے تو ان کے کام محفوظ نہ تھے۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس کو وہ صحیح قرار دیتے ہیں وہ حقیقت میں بھی صحیح ہے؟ صحت کا کامل یقین تو خود ان کو بھی نہ تھا۔ وہ بھی زیادہ بھی کہتے تھے کہ اس حدیث کی صحت کا ظن غالب ہے۔ فرمیدہ براں یہ ظن غالب ان کو جس پر حاصل ہوتا تھا وہ بمحاذہ روایت تھا کہ بمحاذہ نظر زیادہ تر اخباری ہوتا تھا۔ فقہہ ان کا اصل موضوع نہ تھا، اس لیے فقہہ تھا نظر سے احادیث کے متعلق راستے قائم کرنے میں وہ فقہہ تھے مجتہدین کی بہبودت کے درجے تھے۔ پس ان کے کمالات کا جائز اغراض کرتے ہوئے یہ ماشائی سے لگا کہ احادیث کے متعلق جو کچھ بھی تحقیقات انہوں نے کی ہے اس میں دو طرح کی کمزوریاں موجود ہیں۔ ایک بمحاذہ اسناد اور دوسرے بمحاذہ تفہیم۔

اس مطلب کی توضیح کے لیے ہم ان دونوں حیثیتوں کے نتائص پر تھوڑا سا کلام کریں گے۔

کسی روایت کے جانچنے میں سب سے پہلے جس چیز کی تحقیق کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ روایت جن لوگوں کے واسطے سے آئی ہے وہ کیسے لوگ ہیں۔ اس سلسلہ

میں متعدد حیثیات سے ایک ایک راوی کی جانچ کی جاتی ہے۔ وہ جھوٹا تو نہیں؟ روایتیں بیان کرنے میں غیر محتاط تو نہیں؛ فاسق اور بد عقیدہ تو نہیں؛ وہی ضعیف الحفظ تو نہیں؛ مجہول الحال ہے یا معروف الحال؟ ان تمام حیثیات سے رواہ کے احوال کی جانچ پڑتا کر کے محدثین کرام نے اساد الرجال کا عظیم اشنان ذخیرہ فرم کیا جو بلاشبہ نہایت بیش قیمت ہے۔ مگر ان میں کوئی چیز ہے جس میں خلطی کا احتمال نہ ہو؛ اول ترواه کی سیرت اور ان کے حافظہ اور ان کی دوسری باطنی خصوصیات کے متعلق بالکل صحیح علم حاصل ہونا مشکل، دوسرے خود وہ لوگ جو ان کے متعلق رائے قائم کرنے والے تھے، انسانی لکزدیوں سے مترانہ تھے۔ نفس ہر ایک کے ساتھ بکام ہوا تھا، اور اس بات کا توی امکان تھا کہ اشخاص کے متعلق اچھی یا بُری رائے قائم کرنے میں ان کے ذاتی رحمات کا بھی کسی حد تک داخل ہو جائے۔ یہ امکان محض امکان عقلی نہیں ہے بلکہ اس امر کا ثبوت موجود ہے کہ بارہا یہ امکان فعل میں آگیا ہے۔ حماد جیسے بزرگ نہام عملتے جماز کے متعلق رائے ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم نہیں، تمہارے نیچے بھی ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ "عطایا اور طاؤس اور مجاہد جیسے فضلاuds کے حق میں ان کی بھی رائے ہے۔ یہ حماد کون ہیں؟ امام ابوحنیفہ کے استاد اور ابراہیم النجفی کے جانشین۔ امام زہری کو دیکھیے۔ اپنے زمانہ کے اہل مکہ پر ریارک کرتے ہیں مَا رَأَيْتُ الْعَقْضَ لِعَرَبِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ حالانکہ مکہ اس وقت جدیل القدر علما و صلحاء سے خالی تھا۔ شعبی اور ابراہیم النجفی دونوں ٹرے درجہ کے لوگ ہیں۔ مگر ایک دوسرے پر کس طرح چوٹ کرتے ہیں۔ شعبی کہتے ہیں کہ "ابراہیم النجفی رات کو ہم سے مسائل پوچھتا ہے اور صحیح لوگوں کے سامنے اپنی طرف سے بیان کرتا ہے۔" ابراہیم النجفی کہتے ہیں کہ "وہ کذاب مسروق سے روایت کرتا ہے حالانکہ وہ مسروق سے ملا کے نہیں۔" صنعاک کو دیکھیے۔ ایک مرتبہ اپنی بات کی پیچ میں آکر صحابہ کرام کے متعلق کہہ گئے کہ "ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں۔" سعید بن جبیر جیسے محتاط بزرگ ایک مسئلہ میں شعبی پر جھوٹ کا

الازام رکھتے ہیں اور عکر مر کے حق میں اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ لا تکذب علی کمما  
کذب عکس فہ علی ابن عباسؓ امام مالک کی جدالیت شان و محییہ اور محدثین اصحاب  
جیسے شخص کے حق میں ان کا یہ فرمانا دیکھیے کہ ذاللک دَجَالُ الدَّجَالَةِ۔ اس سے  
بڑھ کر عجیب یہ کہ وہ تمام علمائے عراق پر سخت طعن کرتے ہیں اور ان کے حق میں  
فرماتے ہیں کہ اَنْزُلُوا هُمْ مَنْزَلَةً أَهْلِ الْكِتَابِ لَا تَقْدِرُهُمْ وَلَا تَكْذِبُهُمْ۔  
امام ابو حنفیہ کس قدر جلیل القدر اور مختار فقیہ ہیں، اعشش کے حق میں فرماتے ہیں کہ  
اس نے کبھی نہ رمضان کا روزہ رکھا نہ غسل جنابت کیا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ اَعْشَ اللَّادُ  
مِنَ الْمَاءِ کے قابل تھے اور حدیفہ کی حدیث کے مطابق سحری کیا کرتے تھے جو اللہ  
بن مبارک کس پا پر کے ثقہ بزرگ ہیں، ایک مرتبہ ان پر بھی ضرر نے غلبہ کیا اور امام  
مالك کے حق میں ان کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے کہ "میں اس کو عالم نہیں سمجھتا"  
یحیی بن معین نے تو بڑے بڑے ثقافت پر چوپیں کی ہیں۔ زہری، اوزاعی، ابو عثمان  
النہدی، طاؤس غرض اس عبید کے بڑے بڑے لوگوں پر وہ طعن کر گئے ہیں۔  
خنی کہ امام شافعی تک کے حق میں انہوں نے کہا کہ لیس یشیقیہ۔ ان سب سے  
بڑھ کر عجیب بات یہ ہے کہ اسما اوقات صحابہ رضی اللہ عنہم پر بھی پیشہ  
کا غلبہ ہو جاتا تھا اور وہ ایک دوسرے پر چوپیں کر جاتے تھے۔ ابن عمرؓ نے مُنا  
کہ ابوہریرہؓ و نفر کو ضروری نہیں سمجھتے۔ فرمائے گئے کہ ابوہریرہؓ جھوٹے ہیں۔ حضرت  
عائشہؓ نے ایک موقع پر انس اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما کے متعلق فرمایا کہ وہ  
حدیث رسول اللہ کو کیا جائیں، وہ تو اس زمانہ میں نچکے تھے۔ حضرت حسن بن علیؓ سے  
ایک مرتبہ شاہد و مشهود کے معنی پوچھے گئے۔ انہوں نے اس کی تفسیر بیان  
کی۔ عرض کیا گیا کہ ابن عمرؓ اور ابن زیرؓ تو ایسا اور ایسا کہتے ہیں۔ فرمایا دو نوں  
جو ہو گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے ایک موقع پر متغیرہ بن شعبہ کو جھوٹا فرار  
دیا۔ عبادہ بن حاصمت نے ایک مسئلہ بیان کرتے ہوئے مسعود بن اوس الصماری  
پر جھوٹ کا ازام لگا دیا، حالانکہ وہ بدربال کتاب جامع بیان العلم سے مأخوذه ہیں۔

اس قسم کی مشاییں پیش کرنے سے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسلام ارجال کا سارا علم غلط ہے۔ بلکہ ہمارا مقصد صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ جن حضرات نے رجال کی جرح و تعدل کی ہے وہ بھی تو آخر انسان تھے۔ پسروی کمزوریاں ان کے ساتھ بھی لگی ہوتی تھیں کیا ضرور ہے کہ جس کو انہوں نے تقدیر فرار دیا ہو وہ بالیقین تقدیر اور تمام و یوں میں تقدیر ہو، اور جس کو انہوں نے بغیر تقدیر کھیرایا ہو وہ بالیقین بغیر تقدیر ہو اور اس کی تمام رواتیں پائیں اخبار سے ساقط ہوں۔ پھر ایک ایک روایت کے حافظہ اور اس کی نیکیتی اور صحبتِ ضبط و غیرہ کا حال بالکل صحیح معلوم کرنا تو اور بھی مشکل ہے، اور ان سب سے زیادہ مشکل یہ تحقیق کرنا ہے کہ ہر روایت نے ہر روایت کے بیان میں ان تمام جزئیات متعلقہ کو ملحوظ بھی رکھا ہے یا نہیں جو فقیہانہ نقطہ نظر سے استنباط مسائل میں اہمیت رکھتی ہیں۔

یہ تو فتن رجال کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد دوسری اہم چیز سلسلہ اسناد ہے محدثین نے ایک ایک حدیث کے متعلق یہ تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہر روایت جس شخص سے روایت لیتا ہے آیا وہ اس کا ہم عصر تھا یا نہیں، ہم عصر تھا تو اس سے ملا بھی تھا یا نہیں، اور ملا تھا تو آیا اس نے یہ خاص حدیث خود اسی نے سنی یا کسی اور سے سُن لی اور اس کا حوالہ نہیں دیا۔ ان سب چیزوں کی تحقیق انہوں نے اسی حد ذات کی ہے جس حد تک انسان کر سکتے تھے، مگر لازم نہیں کہ ہر روایت کی تحقیق میں یہ سب امور ان کو تھیک ٹھیک ہی معلوم ہو گئے ہوں۔ بہت ممکن ہے کہ جس روایت کو وہ منتقل السند فرار دے رہے ہیں وہ درحقیقت منقطع ہوا اور انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا ہو کہ بیچھے میں کوئی ایسا بجهوں الحال روایت پھوٹ گیا ہے جو تقدیر نہ تھا۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ جو روایتیں مرسل یا معضل یا منقطع ہیں، اور اس پا پر پائیہ اعتماد سے گردی ہوئی بھی جاتی ہیں، ان میں سے بعض تقدیر اولیوں سے آئی ہوں اور بالکل صحیح ہوں۔

یہ اور ایسے ہی بہت سے امور ہیں جن کی بنابر اسناد اور جرح و تعدل کے

علم کو کلیتہ صیحہ نہیں سمجھا جاسکتا۔ یہ موارد اس حد تک قابل اعتماد ضرور ہے کہ سنتہ نبوی اور آثار صحابہ کی تحقیق میں اس سے مددی جلتے اور اس کا منہ لحاظ کیا جاتے، مگر اس قابل نہیں ہے کہ بالکل اسی پر اعتماد کر لیا جاتے۔

جیسا کہ ہم نے اور پر عرض کیا اور محدثین رحمہم اللہ کا خاص موضوع اخبار و آثار کی تحقیق بلحاظ روایت کرنا تھا۔ اس لیے ان پر اخباری نقطہ نظر غالب ہے گیا تھا، اور وہ روایات کو معتبر یا غیر معتبر قرار دینے میں زیادہ تصرف اسی حیثیت کا لحاظ فرماتے تھے کہ اسناد اور رجال کے لحاظ سے وہ کیسی ہیں، ریاضتیہا نہ نقطہ نظر الینی تین حدیث پر خود کر کے یہ راستے قائم کرنا کہ وہ قابل قبول ہے یا نہیں، تو وہ ان کے موضوع خاص سے ایک حد تک غیر متعلق تھا اس لیے اکثر وہ ان کی نکاہوں سے او جمل ہو جاتا تھا اور وہ روایات پر اس حیثیت سے کم ہی نکاہ طاقتے تھے۔ اسی وجہ سے اکثر سوچا ہے کہ ایک روایت کو انہوں نے صحیح قرار دیا ہے، حالانکہ معنی کے اعتبار سے وہ زیادہ اعتبار کے قابل نہیں ہے اور ایک دوسری روایت کو وہ تقلیل الاعتبار قرار دے سکتے ہیں، حالانکہ معنی وہ صحیح معلوم ہوتی ہے پہاں اس کا موقع نہیں کہ مشاہدے کے تفضیل کے ساتھ اس پر لوگ تو ضعی کی جاتے۔ مگر جو لوگ امور شریعت میں نظر رکھتے ہیں ان سے یہ بات پوچھیں کہ تحدیثات نقطہ نظر بکثرت مواقع پر فقیہا نہ نقطہ نظر سے بلکہ اگر کیا ہے اور محدثین کرام صحیح احادیث سے بھی احکام و مسائل کے استنباط میں وہ تو انکے اعتدال محفوظ نہیں رکھ سکے ہیں جو فقیہوں نے مجتہدین نے رکھا ہے۔

اس بحث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جس طرح حدیث کو بالکلیہ روکر دینے والے غلطی پر میں اسی طرح وہ لوگ بھی غلطی سے محفوظ نہیں ہیں جنہوں نے حدیث سے استفادہ کرنے میں صرف روایات ہی پر اعتماد کر لیا ہے۔ مسلم حق ان دونوں کے درمیان ہے اور یہ وہی مسلم ہے جو ائمۃ مجتہدین نے اختیار کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی قدر میں آپ بکثرت ایسے مسائل رکھتے ہیں جو مرسل اور معصل اور

شقطع احادیث پر مبنی ہیں، یا جن میں ایک قوی الاستاد حدیث کو حجپور کر ایک ضعیف الاستاد حدیث کو قبول کیا گیا ہے، یا جن میں احادیث کچھ کم تی ہیں اور امام ابو عذیفہ اور ان کے اصحاب کچھ کہتے ہیں۔ یہی حال امام مالک کا ہے رضا با وجود یکہ اخباری نقطہ نظر ان پر زیادہ غالب ہے، مگر بھر بھی ان کے تفہیمے بہت سے مسائل میں ان کو ایسی احادیث کے خلاف فتوی دینے پر مجبور کر دیا جنہیں محدثین صحیح قرار دیتے ہیں، چنانچہ حدیث بن سعد نے ان کی قدرے نقطہ نظر پیدا کیا۔ مثلاً اس نوعیت کے لکائے ہیں۔ امام شافعی کا حال بھی اس سے کچھ بہت زیادہ مختلف نہیں۔ معاوی اللہ اس کے یہ معنی ہے کہ نہیں ہیں کہ یہ لوگ کسی حدیث کو صحیح جان کر اس سے انحراف کرتے تھے۔ نہیں بلکہ اصل معاملہ یہ تھا کہ ان کے تزویک صحتِ حدیث کا مدار صرف استاذ پر نہ تھا، بلکہ استاذ کے علاوہ ایک اور کسوٹی بھی تھی جس پر وہ احادیث کو پڑھتے تھے، اور جس حدیث کے منتعل ان کو اطمینان ہو جاتا تھا کہ یہ حقیقت سے اقرب ہے اسی کو قبول کر لیتے تھے خواہ وہ خالص محدث شاہ نقطہ نظر سے مرجو حسینی کیوں نہ ہو۔

یہ دوسری کسوٹی کوئی کوئی ہے؟ ہم اس سے پہلے بھی اشارہ اس کا ذکر کئی مرتبہ کر رکھے ہیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ تفہیم کی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے اس کے اندر قرآن اور سیرت رسول کے غائر مطابع سے ایک خاص ذوق پیدا ہو جاتا ہے جس کی کیفیت بالکل ایسی ہے جیسے ایک پُرانے جوہری کی بصیرت کہ وہ جو اپر کی نازک خصوصیات تک کو پہنچ لیتی ہے۔ اس کی نظر حشیثت مجموعی غیر عیتیہ تھی کے پورے سیسم پر ہوتی ہے اور وہ اس سیسم کی طبیعت کو پچان جاتا ہے۔ اس کے بعد جب جزئیات اس کے ساتھ آتے ہیں تو اس کا ذوق اسے بتا دیتا ہے کہ کوئی چیز اسلام کے فرائج اور اس کی طبیعت سے مناسبت رکھتی ہے اور کوئی نہیں رکھتی۔ روایات پر جب وہ نظر والان

ہے تو ان میں بھی یہی کسوٹی رو و قبول کا معیار ہے جاتی ہے۔ اسلام کا مزاج عین ذات نبی کا مزاج ہے۔ جو شخص اسلام کے مزاج کو سمجھتا ہے اور جس نے کثرت کے ساتھ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کا گہر امطا العہ کیا ہوتا ہے و نبی اکرم کا ایسا مزاج شناس ہو جاتا ہے کہ روایات کو دیکھ کر خود بخود اس کی بصیرت اسے تباہی ہے کہ ان میں سے کوئی افضل میرے سرکار کا ہو سکتا ہے اور کوئی نبی چیز سنت نبوی سے اقرب ہے یہی نہیں بلکہ جن مسائل میں ان کو قرآن و سنت کے کوئی چیز نہیں ملتی ان میں بھی وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فلاں مشکلہ پیش آتا تو آپ اس کا فیصلہ یوں فرماتے ۔ یہ اس لیے کہ اس کی روح روح محمدی میں گمراہ اور اس کی نظر بصیرت نبوی کے ساتھ متعدد ہو جاتی ہے۔ اس کا دماغ اسلام کے ساتھے میں ڈھنڈ جاتا ہے اور وہ اسی طرح دیکھتا اور سوچتا ہے جس طرح اسلام چاہتا ہے کہ دیکھا اور سوچا جاتے ایس مقام پر پہنچ جانے کے بعد انسان اسناد کا بہت زیادہ محتاج نہیں رہتا۔ وہ اسناد سے مدد ضرور لیتا ہے، مگر اس کے قیصہ کا مدار اس پر نہیں ہوتا۔ وہ بسا اوقات ایک غریب ہمیصیت ہنقطع السند، مطعون فیہ حدیث کو بھی لے لیتا ہے اس لیے کہ اس کی نظر اس اقتداء تصریح کے اندر میرے کی جو تدبیحیں ہیں اور بہا اوقات وہ ایک غیر متعقل، غیر مشاذ، متعصل السند، مقبول حدیث سے بھی اعراض کر جاتا ہے اس لیے کہ اس جامِ نزدیں میں جو بادۂ معنی بھری ہوتی ہے وہ اسے طبیعتِ اسلام اور مزاجِ نبوی کے مناسب نظر نہیں آتی۔

یہ چیز چونکہ سراسر ذوقی ہے اور کسی خدا بطریکے تحت نہیں آتی، نہ آسکتی ہے، اس لیے اس میں اختلاف کی گنجائش پہنچے بھی لختی اور اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ چنانچہ اسی وجہ سے ائمۃ مجتہدین کے درمیان جزئیات میں بکثرت اختلافات ہوتے ہیں۔ بچھرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک شخص کا ذوق لا محالہ سو سرے شخص کے ذوق سے کلیتہ مطابق ہی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی مسئلہ کے

امہ نے بہت سے مسائل میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا ہے۔ امام ابو حیفیہ اور ان کے اصحاب کے اقوال میں جو اختلافات پرے جلتے ہیں وہ اس کی ایک روشن مثال ہیں۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر مجتہد کا ذوق ہر مشکل میں صواب ہی کو پہنچ جلتے۔ انسان ہر حال مکرر یوں کا مجموعہ ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کا مجتہد بھی غلطی کر سکتے ہے اور کر جاتا ہے۔ اسی بنا پر ائمۃ مجتہدین ہمیشہ درستے رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ اپنے تبعین کو بدایت کیا ہے کہ ہم پر باکل اعتماد کرو۔ خود بھی تحقیق کرتے رہوا درجہ کوئی سنت ہمارے قول کے خلاف ثابت ہو جلتے تو ہمارے قول کو رد کر کے سنت کی پیروی کرو۔ امام ابو يوسف فرماتے ہیں کہ لا يجيء لاحدياً ن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قدنا۔ امام زفر کا قول ہے ائمماً نأخذ بالرأي ما لة يجد الا ترفاً إذا جاء الأثر منكنا الرأي وأخذنا بالآخره امام مالک کا ارشاد ہے ائمماً أنا بشراً خطی وصیب فانظر وافي رأي فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكلما لم يوافق ائمباً و السنة فاذركو ثم امام شافعی کا بیان ہے کہ اذا صحت الحديث فاضرموا بقولي الحافظ اور لا قول لاحدي مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شه غرض یکہ تمام ائمہ بالاجماع کہتے ہیں کہ جس شخص پر کسی مشکل کے کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ ہمارے قول پر قوی شے جب تک کہ وہ تحقیق نہ کرے کہ ہمارے قول کا مفاد کیا ہے۔

لہ جب ہم کو کوئی حدیث نہیں ملتی تو ہم اپنی راستے سے فیصلہ کرتے ہیں جب حدیث مل جاتی ہے تو راستے کو چھوڑ کر حدیث کو لے لیتے ہیں۔

لہ میں ایک انسان ہوں۔ غلطی بھی کرتا ہوں اور صحیح راستے بھی قائم کرتا ہوں۔ لہذا تم میری راستے کو نظر تحقیق سے دیکھو۔ جو کچھ کتاب و سنت کے مطابق ہوا سے لو اور جو اس کے خلاف ہوا سے رد کرو۔

لہ جب حدیث صحیح نہیں مل جاتے تو میرے قول کو دیوار پر دے مارو۔ لہ سنت رسول کے مقابلے میں کسی کو کچھ کہنے کا حق نہیں۔

میں سنت رسول روشن ہو جاتے اس کے لیے پھر کسی دوسرے شخص کا قول ہی  
حکام ہے خواہ وہ کیسے ہی بُرے مرتبا کا شخص ہو۔

(ترجمان القرآن صفحہ ۵۷ ص- مئی ۱۹۴۷ء)

**اسناد را کی :-** اس مضمون کی اشاعت کے بعد اہل حدیث حضرات  
اسناد را کی طرف سے اس پر جواہر اضافات ہوتے ہیں، اور  
ان پر میری طرف سے جو جوابات دیتے گئے ہیں ان کو یہاں نقل کر دینا فائدہ سے  
خالی نہ ہو گا۔

ایک اہل حدیث دوست کے سوالات :-

- ا۔ مسلمانوں کا چاروں قبیلوں کو مانتا کس نص کے ماتحت ہے؟
- ب۔ اسناد حدیث اور تفہیم مجتہدین میں سے کس کو کس پر فضیلت ہے؟
- ج۔ تفہیم مجتہد اور اسناد حدیث میں سے کس میں زیادہ ظرفیت ہے؟
- د۔ محدث اور فقیہ ایک ہی آدمی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اور اسے ترجمہ  
حدث یا ترجمہ فقیہ پر فضیلت ہے یا نہیں؟
- و۔ کوئی تغیر تباہی کر امام ابوحنیفہ نے متن کو محو خذر کر کر ضعیف الائمنا و مذکور  
نبول کیا اور قوی الائمنا و مذکور کو چھپوڑا ہو۔

س۔ کیا یہ قول ائمہ کہ ان کے فیصلوں کے مقابلہ میں قوی الائمنا و مذکور  
ہی قابل قبول ہے صحیح ہے؟

ص۔ درایت کا معیار کیا ہے کہ اسے سامنے رکھ کر اسناد صحیح رکھنے کے  
باوجود حدیث قوی الائمنا و مذکور کر دیا جائے؟ نیز یا یا جائے کہ کس نص نے  
یہ شرط درایت اور اس کا معیار قائم کیا ہے؟

ط۔ کیا کسی مسلمان کو یہ حق ہے کہ خدا اور رسول کا حکم ظن غالب کے  
بوجب اسے پہنچے اور اس میں درایت کی مداخلت کر کے اس سے گزر کے

اور اپنے تفہیمی بپر اس کی مخالفت کرے، جبکہ اس کے تفہیمی بھی خطا کا امکان ہے؟

جواب:- ۱۔ چاروں قصہوں کو رخص ماننا کسی نص کے ماتحت نہیں ہے، بلکہ اس پر اپنے کردیدھ قبیلہ مذاہب کتاب و سنت سے استنباط کرنے کے ان اصولوں کو اختیار کرتے ہیں جن کے لیے شریعت میں گنجائش اور ثبوت موجود ہے۔ چاہے جتنی امور میں ان کے درمیان کتنا ہی اختلاف ہو اور جزئی امور میں ان سے اختلاف کرنے کے لیے کتنے بھی معقول وجوہ موجود ہوں، لیکن اصولاً استنباط احکام کے وہی طریقے ان مذاہب میں استعمال کیے گئے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں اور جن سے خود صحابہؓ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے استنباط مسائل میں کام لیا تھا۔

ب:- اسناد حدیث اور تفہیمی بھی مذہبی میں سے کسی کو کسی پر مطلقاً تفویق نہیں ہے جا سکتا۔ اسناد حدیث اس بات کی ایک شہادت ہے کہ جو روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کو پہنچ رہی ہے، وہ کہاں تک قابل اعتبار ہے۔ اور تفہیمی بھی ایک ایسے شخص کی تحقیقی راستے (RESEARCH) ہے جو کتاب و سنت میں گہری بصیرت رکھنے کے بعد ایک روپریش کے متعلق اندازہ کرتا ہے کہ وہ کہاں تک قابل قبول ہے اور کہاں تک نہیں، یا اس روپریش سے جو معنی اخذ ہوتے ہیں وہ نظام شریعت میں کہاں تک نصب (FIT) ہو سکتے ہیں اور کہاں تک غیر متناسب (UMFIT) ثابت ہوتے ہیں۔ یہ دونوں چیزوں اپنی اپنی الگ الگ جمیعت رکھتی ہیں جس طرح عدالت میں شہادتیں اور نجح کا فیصلہ دونوں کی الگ جمیعت ہے، یعنی نہ مطلقاً ایک کہا جا سکتا ہے کہ نجح کا فیصلہ شہادتوں پر پہر حال مقدم ہے اور نہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ شہادتیں ضرور نجح کے فیصلہ پر مقدم ہوتی ہیں، اسی طرح حدیث کی شہادت اور فقیہ کی اجتہادی تحقیق، دونوں میں سے کسی کو بھی مطلقاً دوسرے پر ترجیح نہیں دی جاسکتی۔

ج- تفہیہ مجتہد میں بھی خطا کا امکان ہے اور اتنا وحدیث میں بھی۔ پس میرے نزدیک لازم ہے کہ ایک ذی علم آدمی مجتہدین کے اجتہاد اور احادیث کی روایات دونوں میں تنظر کر کے حکم شرعی کی تحقیق کرے۔ رہے وہ لوگ جو حکم شرعی کی خود تحقیق نہیں کر سکتے تو ان کے لیے یہ بھی صحیح ہے کہ کسی عالم کے اوپر اعتقاد کریں اور یہ بھی صحیح ہے کہ جو مستند حدیث مل جائے اس پر عمل کریں۔

د- ایک آدمی بیک وقت محدث اور فقیہ ہو سکتا ہے اور ایسا شخص نے محدث یا زرے فقیہ کے مقابلہ میں اصولاً قابل ترجیح ہے۔ لیکن میرا جواب صرف اصولی حشیثت سے ہے کہ کسی شخص خاص پر اس کا انطباق کرنے میں لازماً یہ دلکھنا پڑے گا کہ آپا تفہیہ میں اس کا وہی مرتبا ہے جو حفظ حدیث میں ہے۔

مر: اس وقت میرے پیش نظر مطلوبہ نظریہ نہیں ہے، اور یہ بھی نظریہ پیش کرنے سے بحث کا سلسلہ دراز ہوتا ہے۔

من- ائمۃ مجتہدین نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بالکل صحیح ہے اور میں بھی اسی کا قابل ہوں۔ لیکن میں نے جو کچھ لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میسا اوقات صحیح الاستanza حدیث متن کے اختیار سے کمزور ہو رکھتی ہے اور کتاب و سنت سے جو دوسری معلومات ہم کو حاصل ہوتی ہیں ان کے ساتھ اس کا متن مطابقت نہیں رکھتا یہے حالات میں ناگزیر ہو جاتا ہے کہ یا اس حدیث کی تاویل کی جاتے اور یا اسے رد کیا جاتے۔

ض- دراصلت سے مراد فهم دین ہے جس کو قرآن مجید میں "حکمت" سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہ حکمت شریعت کی صحیح پیروی کے لیے وہی درجہ رکھتی ہے جو درجہ "خذاقت" کا فن طلب میں ہے جس لوگوں نے اس میں سے کم حصہ پایا ہو یا جنہیں اس کی قدر تو تمیت کا احساس ہی نہ ہواں کے لیے تو یہی مناسب ہے کہ جیسا لکھا پائیں ویسا ہی عمل کریں۔ لیکن جنہیں اس میں سے کچھ حصہ ملا ہو وہ اگر اس بصیرت سے جو انہیں اللہ کے فضل سے کتاب و سنت میں حاصل ہوتی ہو، کامن نہ لیں تو

میرے نزدیک کہنگار ہوں گے۔

میرے نزدیک کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے میں آپ کو حکمت اور فقہ اور فہم دین کا کوئی ایسا معیار تباہ سکوں جس پر آپ ناپ توں کر دیجیں کہ کسی نے ان میں سے حصہ پایا ہے یا نہیں اور پایا ہے تو کتنا پایا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے طبیب کی خداقت کا جو ہری کی جو ہرشناصی کا اور کسی صاحبِ فن کی فنی ہمارت کا کوئی پاتا معايير نہیں قائم کیا جاسکتا۔ مگر اس چیز کے حد و معنی نہیں کہے جاسکنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ہر سے سے لاشے ہے یا شرعاً میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔

ط۔ اس سوال کا جواب اور پر کے جوابات میں ضمن ہے۔ ہرف اتنا اور کہہ سکتا ہوں کہ بلاشبہ درایت کے استعمال میں خطأ کا امکان ہے۔ لیکن ایسا ہی امکان کسی حدیث کو صحیح اور کسی کو ضعیفہ اور کسی کو موضع قرار دینے میں بھی ہے۔ اگر کوئی مسلمان درایت کے استعمال میں غلطی کر کے مجرم ہو جاتا ہے تو وہ احادیث کے مرتبہ کا تعین کرنے میں بھی غلطی کر کے ویسا ہی مجرم ہو گا۔ لیکن شرعاً انسان کی استعداد اور اس کے ممکنات کی حد تک ہی اس پر بارڈالی ہے اور اسی حد تک اسے مستول قرار دیتی ہے۔

ایک دوسرے اہل حدیث دوست کا عنایت نامہ:-

ذوقی جزئیات کی تفصیل میں کتاب و سفت کے ماتحت مختلف ہونا الگ معاملہ ہے اور اسے برداشت کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اصول طور پر درایت شبوی اور درایت مجنہد کو مساواۃ ایذت حیثیت دے دینا ناقابل برداشت ہے، بلکہ بعض حالات میں یہ معاملہ انکار ہر حدیث کا مترادف ہو سکتا ہے۔ خود اکابر حنفیہ بھی اس کے قائل نہیں ہیں۔ نبی رام اوجذیفہ نے بھی اس قسم کے عقیدہ و خیال سے تبری اور نیزاری ظاہر کی ہے، تفصیل کے بیسے ملاحظہ ہو جاتا اللہ ابالغہ اور شامی<sup>۲</sup>

**جواب :-** آپ کا یہ فقرہ کہ "اصل طور پر روایتِ نبوی اور روایتِ مجتبہ کو مساویانہ حیثیت دے رہا ہے تھیا میرے مذکور کی صحیح ترجمائی نہیں ہے اور پھر آپ کا یہ ارشاد کہ "بعض حالات میں یہ معاملہ انکارِ حدیث کا مترادف ہو سکتا ہے" بے انصافی کی حد تک جا پہنچتا ہے۔ آپ خود یہ انصاف سے غور فرمائیں کہ اسی کتاب میں حدیث کے متعلق میں نے جو مصنایں لیکھے ہیں اور وہ سبی کتابوں اور مصنایں میں جس طرح میں حدیث سے استدلال و احتجاج کرتا رہا ہوں، کیا ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد میرے متعلق پیشہ کرنے کی کوئی گنجائش ملک سکتی ہے کہ میرا فدرہ برابر بھی کوئی میدان منکریں ہے حدیث کے مذکور کی طرف ہے یا ہو سکتا ہے؟ پھر اگر آپ مجھے مومن و مسلم سمجھتے ہیں تو آخر کس طرح آپ نے یہ کہ کر لیا کہ میں کسی روایت کو فی الحقيقة حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم مان لیں گے کے بعد پھر اس پر کسی کے تفہیم یا اپنے اجتہاد یا کسی امام کے قول کو ترجیح دے سکتا ہوں ہے ترجیح تو درکنار اگر میں دونوں کو مساوی بھی سمجھوں، بلکہ اس کا خیال بھی کروں تو مومن کیسے رہ جاؤں گا؟

وہ اصل آپ لوگ جس غلط فہمی میں بتلا ہیں وہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اجتہاد و تفہیم کو حدیث رسول پر ترجیح دیتے ہیں یا وہ تو کوئی پیغام برقرار نہیں ہے حالانکہ اصل واقعہ یہ نہیں ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ کوئی روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مسوب ہو، اس کی نسبت کا صحیح و معبر پوچا جاتے ہو و زیزِ صحبت ہوتا ہے۔ آپ کے نزدیک ہر اس روایت کو حدیث رسول مان لینا ضروری ہے جسے محدثین سند کے اغوار سے صحیح قرار دیں لیکن ہمارے نزدیک بہرہ دی نہیں ہے ہم سند کی صحت کو حدیث کے صحیح ہونے کی لازمی دلیل نہیں سمجھتے ہمارے نزدیک اسناد کی صحت حدیث کی صحت معلوم کرنے کا ایک ہی فرض نہیں ہے۔ بلکہ وہ ان فرائع میں سے ایک ہے جن سے کسی روایت کے حدیث رسول ہے کاغذِ غالب حاصل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم تن پر خور کرنا، تقریباً حدیث

کے مجموعی حلم سے دین کا جو فہم ہمیں حاصل ہوا ہے، اس کا لحاظ کرنا، اور حدیث کی وہ مخصوص روابط ہیں معاشرے سے متعلق ہے اس معاملہ میں قوی تردید اور جو صفت ثابت ہے ہمیں معلوم ہوا اس پر نظر ڈالنا بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ علاوہ بریں اور بھی متعدد پہلو ہیں جن کا لحاظ کیے بغیر ہم کسی حدیث کی نسبت بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دینا درست نہیں سمجھتے۔ پس ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف اس امر میں نہیں ہے کہ حدیث رسول اور اچھا و محبہ میں مساوات ہے یا نہیں بلکہ اختلاف دراصل اس امر میں ہے کہ روایات کے رد و قبول اور ان سے احکام کے استنباط میں ایک حدیث کی راستے بحاجت سند اور ایک مجتہد کی راستے بحاجت درایت کا مرتباً مسادی ہے یا نہیں؟ یا یہ کہ دونوں میں سے کس کی راستے زیادہ وزنی ہے؟ اس بازاں میں اگر کوئی شخص دونوں کو ہم تکہ قرار دیتا ہے تب بھی کسی گناہ کا ارتكاب نہیں کرتا اور اگر دونوں میں سے کسی ایک کو درسرے پر ترجیح دیتا ہے تب بھی کسی گناہ کا ارتكاب نہیں کرتا۔ لیکن آپ لوگ اس کو گنہگاری نے کے لیے اس پر خواہ مخدود یہ الزام عاید کرتے ہیں کہ وہ حدیث کو حدیث رسول مان لئے کے بعد پھر کسی مجتہد کی راستے کو اس کا ہم پلہ یا اس پر قابل ترجیح قرار دیتا ہے۔ حالانکہ اس پر کا تصویر بھی کسی مومن کے قلب میں جگہ نہیں پاسکتا۔

محمدین جن بیانوں پر احادیث کے صحیح یا غلط یا ضعیف وغیرہ ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں ان کے اندر کمزوری کے مختلف پہلو میں بیان کر چکا ہوں۔ آپ براہ کر ممحجے بتاتے ہیں کہ قی الواقع کمزوری کے وہ پہلو فی حدیث میں موجود ہیں یا نہیں؟ اگر موجود ہیں تو پھر آخر آپ حضرات ہم سے محمدین کی آراء پر ایمان لئے آنے کا مرکز کیوں اس شد و مدد سے کرتے ہیں؟ محمدین کو بالکل ناقابل اعتیاز نہ ہم نے کہا نہیں، نہ بھی ہم اس کا خیال بھی دل میں لاسکتے ہیں۔ بلکہ اس کے برعکس حدیث کی تحقیق میں سب سے پہلے ہم ہمیں دیکھنا ضروری سمجھتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے اس کا کیا حال ہے، اور اس معاملہ میں جس پایہ کے حدیث نے اس کو اپنی

کتاب میں جگہ دی ہو اس کے مرتبہ کے لحاظ سے ہم اس کی راستے کو پوری پوری  
تفصیل دیتے ہیں۔ لیکن فین حدیث کی ان کمزوریوں کی بنا پر جن کا ذکر کیا ہے ہم  
اس امر کا التزام نہیں کر سکتے کہ محض علم روایت کی بھی پہنچائی ہوئی معلومات ہی  
پورا پورا اعتماد کر لیں اور ہر اس حدیث کو ضرور ہی حدیث رسول تسلیم کر  
لیں جسے اس علم کی رو سے صحیح قرار دیا گیا ہو۔ آپ ہماری اس راستے سے  
اتفاق نہ کریں جس طرح ہم آپ کی اس راستے سے اتفاق نہیں کرتے لیکن اس  
اختلاف راستے کا نتیجہ یہ تو نہ ہونا چاہیے کہ آپ ہم پر اس جرم کا الزام نگاتیں  
جو فی الواقع ہم نے نہیں کیا ہے۔

---

## حدیث کے متعلق حنفی سوالات

ناظرین "ترجمان القرآن" میں سے ایک تحریر فرماتے ہیں:

بـ منکری حدیث کے جواب میں آپ کا فامتدانہ مضمون مندرجہ ترجمان القرآن پر چکر بہت مرتّت ہوتی۔ جز اکم اللہ خیر المجزاد۔ اسی سلسلہ میں اگر جواب ذیل کے امور پر فردی روشنی ڈالیں تو ذی علم احباب کے لیے جو موما اور ناظرین رسالہ کے لیے خصوصاً بہت ہی مفید ہو گا۔"

(۱) حفاظت قرآن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمाकر کہ لا تکتبوا اعْنَى سِوَى الْقُرْآنِ ایک ضروری احتیاط کی صورت پیدا کر دی تھی۔ جسی بہ کرام قرأت و حفظ قرآن کما نزیل کے لیے مانو نہ تھے اوسی پر عامل رہے، باوجود اس کے اختلاف قرأت پیدا ہوا جس کا ذکر یہ بعد حضرت عثمان ہے اس سے ظاہر ہے کہ احادیث بتقابلہ قرآن ویسی محفوظ نہیں ہو سکتیں، خصوصاً جب کہ فتن جمل و صفين کے بعد مدت تک ان کی جمیع تنقید کی مختلف ذرائع سے کوشش کی گئی، جبکہ طرق و راہ اور موضعات کی چیزیں بہت مشکل تھیں۔

(۲) احادیث فعلی اور فعلیہ میں سے بہت سی ایسی ہیں جن کو تو اتر کا درجہ حاصل ہوتا چاہیے تھا۔ مثلاً احادیث فعلی میں سے کیفیت و بہبیت نماز کے متعلق عقل چاہتی ہے کہ مطلق کسی قسم کا اختلاف نہ ہو۔ خصوصاً جیکہ ارشاد نبھی تھا کہ صد و اکعادر آئینوںی اصلی حکم اکم

حرب میں شریفین میں دن رات پانچ مرتبہ ایک گروہ کمیٹر ہر زمانہ میں متواتر اس عمل کا مشاہدہ کرتا رہا ہے مگر ابتدائے زمانہ ہی میں انہی مجتہدین کا احتلاف جو بصورتِ رفع مذکور، ارسال مذکور، وضع مذکور، تامین بالجہزو غیرہ اخلاق ہوا، اس تو اثر فعلی کی اہمیت کو کم کر دیتا ہے اور تو اثر قولی کی حیثیت اور بھی گر جاتی ہے۔ خبر احادیث کا کیا کہنا۔

رس ۲۳، اس میں کلام نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ ہمارے لیے عملی طور پر سبق آموز ہے۔ قرول اولی میں جب تک کہ حادث کا تسلی نخش اتنا مام نہ ہو سکا، قریش عظیم کے باہر مسلمان قرآن مجید ہی سے اسوہ نبی کا اقتباس کرتے تھے۔ اخلاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا اور آپ نے جواب فرمایا کانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ۔ غرض قرآن پاک سے اسلامی اخلاق اور زندگی کے معلوم کرنے کے لیے ذخیرہ و افری ہے۔ فی زمانہ بھی بہت تھوڑے ہیں جن کو سیغیر اسلام علیہ الصلوٰۃ والتحیٰت کی سوانح با تفصیل و اصوات معلوم ہوں۔ مگر تبعین شریعت عموماً اصول وارکان سے واقعیتیں اور یہی مقصود بالذات تھا۔

تم کو رہ بالاعرض منکرین جبیت حدیث کے شبہات ہیں جن کا ازالہ فائدہ سے خالی نہ ہو گا ورنہ خاکسار حاصل کر لے گا اسکم الّذِسْوُلُ فِي حَدُودِهِ وَمَا تَهْلِكُمْ عَنْهُ فَأَنْتُمُ هُوَ كُو صیحہ معنوں میں لے کر جبیت حدیث صیحہ کا قائل ہے۔

آپ نے جن اغراضات کی طرف توجہ دلائی ہے ان کے علماء بیشیوں اور

لے ہاتھ بھول کر نماز پڑھنا جس طرح شیعہ حضرات پڑھتے ہیں۔

لے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا جس طرح اہل سنت پڑھتے ہیں۔

اقرائنا تھی میں جو نکدین حدیث لے بانٹے پیش کیے جاتے ہیں مگر ان جنی باؤں پر پیدا ہجدا  
بھت کرنا طول کلام کا درج ہے اور غیر ضروری تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کی راستے کا تمام تر  
انصار اس کے نقطہ نظر پر ہے جبکہ کسی سلسلہ پر مخالفت نقطہ نظر سے دیکھتا ہے تو اس کو تمام مخالفت ہی  
مخالفت دلائل ملتے چلے جاتے ہیں اور حبہ موافق نقطہ نظر سے دیکھتا ہے تو تمام دلائل موافق  
ہی میں نظر آتے ہیں مگر بیٹھاں اذین ہو کر تکالیف حق کے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے تو موافق اور مخالف دوں  
قسم کے دلائل پر اس کی نظر پر قبیلے اور دونوں میں موازنہ کر کے وہ ایکہ تبدل  
رائے فاہم کرتا ہے پسی وجہ ہے کہ جو لوگ اعدادتے اسلام کے مکملوں سے متأثر  
ہو کر، یا غیر محتاط عذر کی روایات سے دل برداشتہ ہو کر احادیث سے پہلے ہو  
چکے ہیں، وہ جب مخالفانہ ذہنیت کے ساتھ احادیث پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کو  
حدیثوں کے ناقابلِ احتجاج ہونے کے لیے دلائل پر دلائل ملتے چلے جاتے ہیں  
بنخلاف اس کے جو لوگ قدامت پسندی کے ماحول میں پروارش پاتے ہوئے ہیں،  
ان کا حال یہ ہے کہ ہر حدیث کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مسوب ہو  
بے چون و پر امان لیتے ہیں، خواہ وہ ضعیف بلکہ موضوع ہی کیوں نہ ہو۔ میرے  
نزدیک یہ دونوں نقطہ نظر غلط ہیں، اور حبہ نقطہ نظر غلط ہیں تو جو کچھ ان نقطوں سے  
دیکھا گیا ہے وہ بھی غلط ہے۔ تمام احادیث کو مطلقاً غلط سمجھنے والے بھی علمی پر میں  
اور تمام احادیث کو مطلقاً صحیح سمجھنے والے بھی۔ وہ لوگ بھی راه راستے ہیٹ  
گئے ہیں جو احادیث اور قرآن مجید میں فرق نہیں کرتے۔ اور وہ لوگ بھی گرائی میں  
بلکہ ہیں جو احادیث کو قطعاً ناقابلِ احتجاج قرار دیتے ہیں۔ صحیح راستہ ان دونوں  
ازتباوں کے درمیان ہے اور وہ درمیانی راستہ نقطہ نظر نہیں آ سکتا جب تک کہ دیکھنے  
والا ان تضاد نقطوں سے ہٹ کر و سلا کے نقطہ پر نہ آ جاتے۔ پس اصلاح کا

صحیح طریقہ یہ ہے کہ جزویات میں انجمنے کے بھائیوں کے انتہا پسندوں کے نقطہ نظر پر بڑاہ راست حمدہ کیا جاتے اور ان کو وہاں سے ہٹا کر صحیح نقطہ نظر پر بھیج لایا جاتے۔

تاہم جب آپ چلہتے ہیں کہ آپ کے بیان کردہ امور پر روشنی ڈالی جاتے تو مختصر آئینیں ان پر اظہار راستے کیے دیتیا ہوں۔

(۱) یہ خیال بالکل صحیح ہے کہ احادیث اس حد تک محفوظ نہیں ہیں جس حد تک قرآن مجید ہے مگر اس سے تجاوز کر کے یہ فرض کر لینا صحیح نہ ہو گا کہ وہ مطمعاً محفوظ ہی نہیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول اور عمل ہم تک صحت کے ساتھ پہنچا ہی نہیں۔ اس میں تک نہیں کہ روایات کے طریقوں اور روایوں کے احوال کی چیز میں میں بہت دقتیں پیش آئی ہیں، اور ان میں محدثین کے درمیان اختلافات بھی ہوتے ہیں، مگر فتنہ حدیث کی تاریخ شاہد ہے کہ محدثین نے تحقیق و تفہیش کا پورا پورا حق ادا کر دیا ہے اور اس کام میں اتنی تحقیقیں کی ہیں کہ ان سے زیادہ انسان کے بس میں نہ تھیں۔ انہوں نے اپنی محدثوں سے جو ذخیرہ فرمائی ہے وہ آج ہمارے پاس موجود ہے اور ان کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں وہ بھی تمام دلائل اور شواہد کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر کوئی اس ذخیرہ پر تحقیق کی نظر ڈالتے تو اس کے لیے آج تیرہ سورہ سو برس گذر جانے کے بعد بھی یہ معلوم کرنا مشکل نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور کیا نہیں فرمایا، کیا کیا اور کیا نہیں کیا، اور یہ کہ ہر روایت جو آپ کی طرف مسوب ہے وہ اپنی صحت اور اپنے تابع احتجاج ہونے کے لحاظ سے کیا پایہ رکھتی ہے، لیکن یہ بات ناقابلِ انکار ہے کہ علم کا جیسا مستند اور معتبر ذریعہ قرآن مجید ہے، ویسا مستند اور معتبر ذریعہ کیا نہیں ہے اس لیے صحت کا اصل معیار قرآن ہی ہونا چاہیے جو حیر قرآن کے الفاظ یا اسپرٹ کے مخالف ہوگی اسے ہم تقدیماً رد کر دیں گے، اور اس کا مخالف قرآن ہونا ہی اس امر کا بنی ثبوت ہو گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

وہ پیغمبر گز نثبت نہیں ہے۔ اور جو پیغمبر قرآن کے الفاظ یا اپرٹ کے موافق ہوگی اور تعلیمات قرآن کی ایسی تشریع و ترضیح یا احکام کی ایسی تفصیل ہوگی جو قرآن کے الفاظ یا اپرٹ کے خلاف نہ ہو، اور روایت و رایت کے طریقوں سے اس کے معتبر ہونے کا نہیں غائب بھی ہو جاتے گا، اس کو تم ضرور تسلیم کریں گے، اور راضی عقلی تفسیر و تشریع اور اپنی رائے پر اس کو ترجیح دیں گے۔

۴۲) باوی التظر میں یہ بات بالکل صحیح معلوم ہوتی ہے کہ ایسی فعل اور فعل احادیث کو تو اتر کا درجہ حاصل ہونا چاہیے جن کو دیکھنے اور سنتے والے مکثر ہوں؛ ان میں اختلاف نہ پایا جانا چاہیے لیکن ہر شخص باوقت تامل پر سمجھ سکتا ہے کہ جس واقعہ کو مکثر ہو گوں نے دیکھا ہو یا جس تقریر کو مکثر ہو گوں نے سنا ہوا اس کو نقل کرنے یا اس کے مطابق عمل کرنے میں سب لوگ اس نذر متفق نہیں ہو سکتے کہ ان کے درمیان یہ سب مُوفرق نہ پایا جاتے اس واقعہ یا اس تقریر کے ایسے اجزاء میں تو سب کے درمیان ضرور الفاق ہو گا مگر فرعی امور میں بہت کچھ اختلاف بھی پایا جاتے گا اور یہ اختلاف ہرگز اس بات کی دلیل نہ ہو گا کہ وہ واقعہ سرے سے پیش ہی نہیں آیا۔ مثال کے طور پر آج میں ایک تقریر کرنا ہوں اور کئی پڑا رآدمی اس کو سنتے ہیں جلسہ ختم ہونے کے چند لمحے بعد پری، ہمیندوں اور برسوں بعد نہیں بلکہ چند پری لمحے بعد، لوگوں سے پوچھ دیجیے کہ مقرر نئے کیا کہا؟ آپ دیکھیں گے کہ تقریر کا مضمون نقل کرنے میں سب کا بیان یہیں نہ ہو گا۔ کوئی کسی ملکے کو بیان کر لے گا کوئی کسی ملکے کو، کوئی کسی جملے کو فقط بمعنی نقل کرے گا، کوئی اس مفہوم کو جو اس کی سمجھیں آیا ہے اپنے الفاظ میں بیان کر دیگا۔

---

لہ وانچ رہے کہ قرآن کے خلاف ہونا اور پیغمبر ہے اور قرآن سے زائد ہونا اور پیغمبر بعض لوگ اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھتے اور حدیث میں جو باتیں قرآنی احوال سے زائد طبقی میں ان کو قرآن کے خلاف قرار دینے لگتے ہیں۔ اس پر تفصیل کلام بعد وارے مضمون میں کیا گیا ہے۔

کوئی زیادہ فہم آدمی ہوگا اور تقریر کو صحیح ٹھیک سمجھو کر اس کا صحیح شخص بیان کر دیگا۔ کسی کی سمجھ زیادہ اچھی نہ ہوگی اور وہ مطلب کو اپنے الفاظ میں اچھی طرح ادا نہ کر سکے لگا۔ کسی کا حافظہ اچھا ہوگا اور وہ تقریر کے اکثر حصے لفظ بلطف نقل کر دے گا۔ کسی کی یاد اچھی نہ ہوگی اور وہ نقل و روایت میں غلطیاں کرے گا۔ اگر اب کوئی شخص اس اختلاف کو دیکھ کر یہ کہدے ہے کہ میں نے سرے سے کوئی تقریری ہی نہیں کی یا جو تقریر کی تھی وہ از سترنا پا غلط نقل کی گئی تو یہ صحیح نہ ہوگا۔ بخلاف اس کے اگر تقریر کے متعلق تمام اخبار احاد کو جمع کیا جاتے تو معلوم ہوگا کہ اس امر میں سبکے درمیان انفاق سے کہ میں نے تقریریک، فلاں جگہ کی، فلاں وقت کی، بہت سے آدمی موجود تھے، اور تقریر کا موضوع یہ تھا۔ پھر تقریر کے جن جن حصوں کے متعلق زیادہ انفاق لفظی یا معنی پا یا جاتے لگا، وہ زیادہ مستند سمجھے جائیں گے اور ان سب کو ملا کر تقریر کا ایک مستند مجموعہ تیار کر دیا جاتے گا۔ اور جن حصوں کے بیان کرنے میں ہر راوی منفرد ہوگا وہ نسبتاً کم معتبر ہوں گے مگر ان کو موضوع اور غلط کہنا جائز نہ ہوگا، تاوقتیکہ وہ تقریر کی پوری اسپرٹ کے خلاف نہ ہوں، یا کوئی اور ایسی بات ان میں نہ ہو جس کی وجہ سے ان کی صحت مشتبہ ہو جاتے، مثلًاً تقریر کے معتبر حصوں سے مختلف ہونا یا مقرر کے خیالات اور انداز بیان اور افتاد مزاج کے متعلق جو صحیح معلومات لوگوں کے پاس پہنچے سے موجود ہیں ان کے خلاف ہونا۔

یہی حال احادیث فعلی کا بھی ہے۔ آپ نے نماز کی مثال پیش فرماتی ہے۔ میں بھی اسی مثال کو سامنے رکھ کر جواب عرض کرتا ہوں۔ نماز کے متعلق تو اتر قول و عملی سے یہ بات متفقہ طور پر ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانچ وقت کی نماز فرض اور فرماتے تھے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی تھی، متفقہ ای آپ کے پیچھے صرف بستہ کھڑے ہوتے اور آپ کی حرکات و سکنات کی پیروی کرتے تھے۔ آپ قبلہ کی جانب عرض فرمایا کرتے تاکہیر تحریک کے ساتھ نماز میں داخل ہوئے۔

قیام، رکوع، سجود اور قعود سے نماز مركب ہوتی تھی، ہرگز نماز کی خلاف فلان بستیں  
نہیں۔ غرض نماز کے ختنے اہم اجزاء ترکیبی ہیں ان سب میں تمام زبانی روایات متفق  
ہیں اور عہد رسالت سے آج تک ان کے مطابق عمل بھی ہو رہا ہے۔ اب ہے  
جزئیات مثلاً رفع میں اور وضع میں دغیرہ تو ان کا اختلاف یہ معنی نہیں رکھتا  
کہ نماز کے متعلق تمام روایات غلط ہیں بلکہ دراصل یہ اختلاف اس امر کا پتہ دیتا  
ہے کہ مختلف لوگوں نے مختلف اوقات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مختلف  
دیکھا۔ چونکہ یہ امور نماز میں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے، اور ان میں سے کسی کے کرنے  
یا نہ کرنے سے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، اور حضور خود صاحب شریعت تھے  
اس لیے آپ جس وقت جیسا چاہتے تھے عمل فرماتے تھے۔ لیکن حضور کے سوا کوئی  
اور شخص چونکہ صاحب شریعت نہ تھا۔ اور اس کا کام اتباع تھا نہ کہ تشريع اس  
لیے ہر دیکھنے والے نے آپ کو جیسا فعل کرتے دیکھا اسی کی پیروی کی اور اسی کی  
پیروی کے لیے لوگوں سے کہا۔ بعد کے الگ نے روایات کی چنان بین کر کے ہر جذبہ  
کے متعلق یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ زیادہ صحیح اور مستند روایات کو نہیں ہیں۔  
ظاہر ہے کہ اس تحقیق کے نتائج میں اختلاف ہونا ممکن تھا، اور وہ ہوا کسی نے  
کسی روایت کو زیادہ مستند سمجھا، اور کسی کو اس کے خلاف روایت پر اطمینان  
حاصل ہوا۔ مگر یہ اختلاف کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اور یہ ہرگز اس امر کی دلیل نہیں  
ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ادائے نماز کے متعلق ہر سے سے کوئی  
خوبی و فعلی تواتری نہیں پایا جاتا۔

(۲) قرآن پاک اور حدیث نبوی کے تعلق کو ٹھیک ٹھیک نہ سمجھنے سے  
غیر اسوال پیدا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ زور ایمان پر دیا گیا  
ہے، اور ایمان ہی کی تفضیلات سے سارا قرآن بھرا ٹڑا ہے۔ اس کے لیے تو ہیں  
قرآن سے باہر چانے کی ضرورت ہی نہیں، اور حدیث میں اس سے زیادہ کوئی  
چیز ملکی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اخلاقی تعلیمات ہیں۔ قرآن میں اصول اخلاق

تریب قرب سب کے سب بیان کر دیتے گئے میں مگر ظاہر ہے کہ اخلاق کا متعلق  
تفسی بیان سے اتنا ہمیں ہے جتنا عمل نہوں سے ہے اس لیے خداوند تعالیٰ نے  
اپنے رسول کو اخلاق کا مجسم نہوں بنائی کر دیش فرمایا۔ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ  
وسلم اپنے عمل اور اپنے موعظہ اور اپنی تعلیم حکمت اور عملی تربیت و تزکیہ  
نفس سے ان تمام اصول اخلاق کی قولی عمل تشریع فرمادی جو قرآن مجید میں  
بیان ہوتے پس جو شخص اس اسرة نبی کو چھوڑ کر کہتا ہے کہ اس باب میں ہمارے  
لیے صرف قرآن کافی ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑی نعمت سے محروم کرتا ہے۔  
بلکہ درحقیقت دہ حق تعالیٰ کے اس فعل کو جبکہ تمہارا انزکتیہ نفس بھی کرے گا۔ تم کو کتاب حکمت  
کی تعلیم بھی دے گا اور اس کی زندگی میں تمہارے لیے اسرة حسنہ بھی ہو گا۔

اب رہ گئے احکام تو قرآن مجید میں ان کے متعلق زیادہ تر کل قوانین بیان  
یکی گئے میں اور بیشتر امور میں تفصیلات کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم  
نے عمل ان احکام کو زندگی کے معاملات میں جاری فرمایا اور اپنے عمل اور قول کی  
تفصیلات ظاہر فرمائیں۔ ان تفصیلات میں سے بعض ایسی ہیں جن میں ہمارے  
اجتہاد کو کوئی وحی نہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ جیسا عمل حضور سے ثابت ہے اسی کی  
پیروی کریں۔ مثلاً عبارات کے احکام اور میں تفصیلات ایسی ہیں کہ ان سے  
ہم اسول انذکر کے اپنے اجتہاد سے فروع مستنبط کر سکتے ہیں۔ مثلاً چہرہ نبوی کے  
توانیں مدنی اور عین تفصیلات ایسی ہیں کہ ان سے ہم کو اسلام کی اپریت معلوم  
ہوں ہے۔ اگر ہمارے قلب دروح میں جاری ہو جائے تو ہم اس قابل  
ہو جائیں گے کہ زندگی کے جملہ معاملات اور مسائل پر ایک مسلمان کی سی ذہنیت اور  
ایک مسلمان کی سی بسیرت کے ساتھ خود کریں۔ وہی کے عملی اور عملی مسائل کو اسلامی نقطہ  
نظر سے دیکھیں۔ اور ان کے متعلق ویسی بی بائے قائم کریں جیسی ایک مسلمان کو کرنے

چاہئے اس سے واضح ہو گیا کہ پورا اور پکا مسلمان بننے کے لیے قرآن مجید کے ساتھ حدیث کا علم کس قدر ضروری ہے اس کے جواب میں اگر یہ کہا جائے کہ ایک عام مسلمان حدیث کے بغیر بھی ایک مسلمان کی سی زندگی بسرا کر سکتا ہے تو میں یہوں گاہیں یہ علم حدیث کی ضرورت نہ ہو نے پر کوئی دلیل نہیں ہے اور اگر یہ دلیل ہے تو یہی دلیل قرآن کے علم کی ضرورت نہ ہونے پر بھی قائم کی جاسکتی ہے، لیکن ایک عامی مسلمان قرآن کے علم سے بھی بھت نکر بہرہ درہوتا ہے۔ اور میر بھر اپنی زندگی میں احکام و شریعت کا اتباع کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ عامی لوگ نبھی عہد نبوی میں معیاری مسلمان تھے اور اس کے بعد کبھی ان کو معیاری مسلمان ہونے کا فخر حاصل ہوا۔ معیاری مسلمان تو دراصل اس زمانے میں بھی دیکھتے اور اب دیکھتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے علوم پر نظر رکھتے ہوں اور جن کی رگ و پیپے میں قرآن کا علم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا نمونہ سرایت کر گیا ہو۔ باقی رہے عوام تو وہ اس وقت بھی ان معیاری مسلمانوں کے پرستھے، اور آج بھی ہیں۔ عہد نبوی میں جن صحابہ نے خبنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت اور تعلیم کافیں اٹھایا وہ اتنے بھی زیادہ معیاری مسلمان سمجھے گئے۔ اور ان کے مقابلہ میں کہی ان لوگوں کو یا عتبہ عالم یا یا عتبہ عمل ترجیح نہیں دی گئی۔ جنہوں نے آنحضرت سے تعلیم اور صحبت کا فیض نہ اٹھایا تھا۔ بلاشبہ مسلمان دونوں تھے مگر دونوں کے مرتب کا فرق کبھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

ترجمان القرآن۔ ربیع الاول مشہود۔ جولائی ۱۹۷۸ء

# قرآن و رسمت رسول

ایک صاحبہ تحریر فرماتے ہیں :

”میں متواتر ضرورتِ حدیث کے سلسلہ میں آپ کے مضمون میں دیکھ  
چکا ہوں۔ میں نہ قوان غالی مخالفین احادیث میں سے ہوں کہ کسی قولِ  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹکرا دوں اور نہ کو رانہ روایات کو تنیم  
کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ سے ان دو اصولی مسائل کے بارے  
میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری اور میرے احباب کی تعلیم  
فرمائیں :“

(۱) آیا قرآن مجید نجات کے لیے کافی ہے یا نہیں؟ اگر کافی ہے  
تو تفصیلات نمازوں غیرہ جو غیر از قرآن ہیں، کیوں فرضیہ اور نظری  
جائیں؟

غیرہ قابل خود امر یہ ہے کہ باقی ارکانِ اسلام (روزہ، زکوٰۃ، حجج  
جو سال میں یا عمر بھر میں ایک دفعہ ادا کرنے کے ضروری ہیں) کی تفصیلات  
تو قرآن بیان کرتا ہے۔ لیکن نمازوں جو ایک دن میں ۵ دفعہ ادا کرنی ضروری  
ہے اس کی تفصیلات کیوں بیان نہیں کرتا؟

(۲) الف۔ مسلمانوں کی تباہی کا سبب کیا روایات نہیں ہیں؟  
ب۔ کوئی قوم جس کا شیرازہ منتشر ہو گیا ہو اور جس کے لیے مختلف  
آرڈر موجود ہوں اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک ایک آرڈر

پر اصولی وحدت نہ ہو جائے۔ کیا روایات کو قبول کرتے ہوئے مسلم قوم کے لیے آپ ایک آرڈر کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ میرا ایمان ہے کہ اس وقت مسلمان وحدت و یگانگت اور اتحاد ملی ہی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اصولاً اس وحدت کا حل آپ کی تجویز کریں گے؟

آپ نے جو سوالات کیے ہیں وہ اتنے پیچیدہ نہیں ہیں کہ خود سے نتائی سے خود آپ ہی ان کا جواب نہ پایتے۔ میرے ان مضمون میں بھی جن کا آپ نے حوالہ دیا ہے، ان میں سے بعض سوالات کا حل موجود ہے۔ تاہم جب آپ کو ان مسائل میں الاجمیں پیش آرہی ہے اور کچھ دوسرے لوگ بھی اس الاجمیں میں مبتلا ہیں تو ان کی تشفی کے لیے مختصرًا کچھ عرض کیا جاتا ہے:-

(۱) قرآن حکیم نجات“ کے لیے نہیں بلکہ ”ہدایت“ کے لیے کافی ہے۔ اس کا کام صحیح فکر اور صحیح عمل کی راہ تباہا ہے اور اس راہ نتائی میں وہ تقدیماً کافی ہے۔ مگر نجات کے لیے صرف قرآن کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خلوص نتیت کے ساتھ اس کی تباہی ہوئی را پڑھیں اور وہی اختقاد رکھیں جس کی تعلیم قرآن نے دی ہے، اور اسی قانون کے مطابق عمل کریں جس کے اصول قرآن نے مقرر کیے ہیں۔

(۲) ہدایت کے لیے قرآن کے کافی ہونے کا مفہوم بھی عام سورپر غلط سمجھا جاتا ہے۔ کسی کتاب کے متعلق جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی علم یا فن کی تعلیم کے لیے کافی ہے، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس فن کے جتنے گریبیں یا اس علم کے جتنے اہم مسائل ہیں، وہ سب اس کتاب میں آگئے ہیں۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر شخص جو اس کتاب کے الفاظ کو پڑھ سکتا ہو، اس کے تمام مطالب پر عادی ہو جائے گا، اور محسن کتاب کے مطالعہ ہی سے اس کو اپنے فن میں آٹھ ہمارتے بھی حاصل ہو جائے گی کہ وہ عملًا اس سے کام لے سکے۔ کتاب اپنی جگہ کھلتی ہی کامل ہی لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ دوسری جانب خود

طالب علم میں بھی ایک خاص استعداد موجود ہوا اور ساتھ ہی ایک ماہر فن اتنا  
بھی موجود ہو جو نہ صرف کتاب کے مطالب کی توضیح و تشریح کرے، بلکہ مظاہر  
نہ مختص کتاب میں پڑھ لینے سے کوئی ان پر علم و فضل کے اعتبار سے حادی ہو سکتا  
ہے پس یہی حال قرآن مجید کا بھی ہے۔ وہ اس الحاظ سے ہدایت کے لیے کافی  
ہے کہ اس میں وہ صحیح علم موجود ہے جس کی روشنی میں انسان صراطِ مستقیم پر حل  
سکتا ہے، اور اس میں وہ تمام اصول بیان کردیتے گئے ہیں جس پر اللہ کا پندیدہ  
دین قائم ہے۔ مگر اس علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔  
ایک یہ کہ طالب علم استفادہ کی خاص نیت رکھتا ہو اور ان مبادی سے واقف  
ہو جو قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ دوسرے یہ کہ ایک ماہر فن اتنا و موجود  
ہو جو کتاب اللہ کے نکات سمجھاتے آیات کا صحیح معنی و معہوم بتاتے، احکام  
پیغام و عمل کر کے دکھاتے اور قوانین کو عملی زندگی میں نافذ کر کے ان کا تفصیلی  
ضابطہ مقرر کر دے پہلی چیز کا قلعی ہر شخص کی اپنی ذات سے ہے۔ رہی دوسرا  
چیز تو اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ کتاب کے ساتھ رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی غرض سے بھیجا گیا تھا کہ آپ اس ماہر فن کی ضرورت کو پورا  
کریں۔ آپ نے استاد کی حیثیت سے جو کمچھ تباہیا اور سکھایا ہے وہ بھی اسی  
طرح خدا کی طرف سے ہے جس طرح قرآن خدا کی طرف سے ہے۔ اس کو غیر از  
قرآن کہنا صحیح نہیں ہے۔ جو شخص اس کی ضرورت کا منکر ہے اور قرآن کو اس  
معنی میں کافی سمجھتا ہے کہ اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے نبی  
صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی و عملی ہدایت کی حاجت نہیں ہے وہ دراصل یہ کہتا  
ہے کہ صرف قرآن کی تنزیل کافی نہیں، خدا نے نعوذ باللہ یہ فعل عبیث کیا کہ اس  
کے ساتھ رسول کو بھی مبسوٹ کیا۔

(۲) آپ پوچھتے ہیں کہ "تفصیلات نماز وغیرہ جو غیر از قرآن میں کبیوں فرضیۃ  
اویں قرار دی جائیں؟" اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابی  
ہوئی تفصیلات نماز وغیرہ کو غیر از قرآن کہنا ہی سرسے سے غلط ہے۔ اگر کوئی ماہر  
فی طبیبِ فن طب کے کسی قاعدے کو عملی تجربہ کر کے شاگردوں کو سمجھاتے تو آپ  
اسے "خارج از فن" نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی پروفیسر اقلیدس کے کسی مشکل کو شکلیں  
چکیخ کر تشریح و تفصیل کے ساتھ سمجھاتے تو آپ اسے غیر از اقلیدس نہیں کہہ سکتے۔  
برعلم و فن کی اصولی کتابوں میں صرف اصول اور نیحات مسائل بیان کردیتے جاتے  
ہیں اور عملی تفصیلات استاد کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں۔ کیونکہ استاد عملی مظاہرے  
سے جس بات کو چند لمحوں میں تباہ کتا ہے اسی کو اگر الفاظ میں بیان کیا جاتے تو  
صفحے کے صفحے سیاہ ہو جائیں اور پھر بھی شاگردوں کے لیے فضی بیان کے مطابق تحریک  
ٹھیک عمل کرنا مشکل ہو جاتے پھر کتاب کے حُسنِ کلام اور اس کے کمالِ ایجاد کا  
غارست ہو جانا ضریب برآں۔ یہ حکیمانہ قاعدہ جس کو معمولی انسان تک اپنے علوم و  
فنون کی تعلیم میں ملحوظ رکھتے ہیں، آپ کی خواہش ہے کہ وہ سب سے بڑا حکیم جسی  
نے قرآن نازل کیا ہے اس کو نظر انداز کر دیتا۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی  
کتاب میں نماز کے اوقات کا نقشہ بناتا، رکعتوں کی تفصیل دیتا، رکوع و سجود  
اور قیام و قعود کی صورتیں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا۔ بلکہ نماز کی رائجِ الوقت  
کتابوں کی طرح ہر صورت کی تصویر بھی مقابل کے صفحات پر بنادیتا پھر تکمیل  
تحریر سے لے کر سلام تک جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ بھی لکھتا اور اس کے  
بعد وہ مختلف جزئی مسائل تحریر کرتا جن کے معلوم کرنے کی ہر نمازی کو ضرورت  
ہوتی ہے۔ اس طرح قرآن کے کم انکم دو تین پارے صرف نماز کے لیے مخصوص  
ہو جاتے۔ پھر اسی طور پر دو تین میں پارے روزہ، حج اور زکوہ کے تفصیل  
مسئل پر بھی مشتمل ہوتے۔ اس کے ساتھ شریعت کے دوسرے معاملات بھی  
جو قریب قریب زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہیں، جزئیات کی پوری تفصیل

کے ساتھ درج کتاب کیے جاتے۔ اگر اسیہوتا تو بلاشبہ آپ کی یہ خواہش تو پوری ہو جاتی کہ شریعت کا کوئی مشکلہ "غیر از قرآن نہ ہو" لیکن اس سے قرآن مجید کم از کم اس تبلکو پڑیا رہنا نیکلا کے برابر ضخم ہو جاتا اور وہ تمام فوائد باطل ہو جاتے جو اس کتاب کو محض ایک مختصری اصولی کتاب رکھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔

دہم، یہ تو آپ کو بھی تسلیم ہے کہ قرآن حکیم میں نماز، روزہ اور دوسرا سے ارکان اسلام کی تفضیلات بیان نہیں کی گئی ہیں بلکہ صرف ان کی فرضیت پر زور دیا گیا ہے، ان کے قائم کرنے کی بار بار تائید کی گئی ہے، اور کہیں کہیں ان کے ادا کرنے کے طرقوں کی طرف بھی اشارات کر دیئے گئے ہیں جو عملی تفضیلات پر کسی طرح بھی مشتمل نہیں کہے جاسکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی تفضیلات مقرر کرنے والا کون ہو؟ کیا یہ کام ہر شخص کے اختیار تیزی پر چھپوڑ دینا چاہیے تھا کہ جو حصہ پر نہ ہوتیں اور نہ دوسرا سے ارکان اسلام کے عملی طرقوں میں مسلمانوں کے درمیان کہہ قسم کی ہم آہنگی پائی جاتی۔ آج آپ جس شیرازہ قومی کے انتشار کا ماتم فرمائی ہیں مذہ صرف چند آرڈروں کے اختلافات کی وجہ سے ہے تاہم ہر آرڈر میں لاکھوں کروڑوں مسلمان مجتمع ہیں۔ لیکن اگر ہر شخص قرآن کے احکام کی عملی تفضیلات مقرر کرنے میں خود مختار ہوتا تو اسلام کے پیرویوں میں سرے سے کوئی آرڈر ہی نہ ہوتا ان مختلف افراد کو جس چیز نے ایک قوم بنایا ہے وہ اعتقاد و عمل کی کیفیتی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور یہ معلوم ہے کہ نظام جماعت کو قائم کرنے میں اعتقاد کے اشتراک سے بڑھ کر عمل کا اشتراک کا رکر ہوتا ہے کیونکہ انسان حواس کا بند ہے اور اس کے حواس کو محسوس صورتیں ہی منتاثر کر سکتی ہیں، اور انہی صورتوں کی کیفیتی ویک نہیں اس میں جمیعت کا احساس پیدا کرتی ہے۔ لہذا طریقہ ہے عمل کو افراد کے اختیار پر چھپوڑ دینے کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا کہ محض اعتقاد کے اشتراک سے مسلمان کبھی ایک قوم نہ بن سکتے۔

پس جب یہ مسلم ہے کہ وحدتِ قومی کے لیے اتحادِ عمل ناگزیر ہے، اور یہ بھی مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ تفصیلات نہیں دی ہیں جن سے یہ اتحاد حاصل ہو سکتا تھا، تو پھر آپ ہی بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کس کو یہ حق پہنچتا تھا کہ قرآن کے مطابق عمل کرنے کے طریقے اور صنایعِ مقرر کرتا؟ اس کے سوا اور کس طریقے پر امامتِ جماعت ہو سکتی تھی؟ ان کے سوا اور کون تھا جسے حاکمِ اعلیٰ تسلیم کر کے سب مسلمان اس کی تقلید پر متفق ہو جاتے؟ یہ اخہر تھی کافیض تعلیم تو ہے جس کی بدولت آج سارے چھتے تیرہ سو برس سے تمام مسلمان ایک ہی سہیت سے نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی طریقہ سے صبح کرتے ہیں، ایک ہی زمانہ میں ایک ہی طرح روزہ رکھتے ہیں۔ فرق جو کچھ بھی ہے محض جزئیات کا ہے، اور وہ بھی اس بنا پر ہیں ہے کہ کوئی مسلمان خود اپنے آپ کو ان جزئیات کے مقرر کرنے کا حق دار سمجھتا ہو، بلکہ اس بنا پر ہے کہ پرگروہ اپنے علم کے مطابق اسی جزئیہ کو اخہر تھی کہ مسلمان سمجھتا ہے جس پر وہ عامل ہے۔ باقی رہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت، اور آپ کی شفت کا واجب التعلیم ہونا، تو گفتی کے چند افراد کے سوا تمام امامت اس پر متفق ہے، اور اسی اتفاق پر مسلمانوں کی وحدتِ قومی کا انعام ہے۔

(۵) آپ قرآن مجید میں ایک مرتبہ پھر غور سے ملاحظہ فرمائیے کہ اس میں روزہِ حج اور زکوٰۃ کی تفصیلات کہاں ہیں؟ زکوٰۃ کے متعلق توبہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کتنی چیزوں پر کتنی زکوٰۃ دی جائے اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ حج اور روزہ کے جن احکام کو آپ تفصیلات سے تعبیر کر رہے ہیں۔ وہ نماز کے احکام سے بھی زیادہ سمجھی ہیں۔ آپ غور سے دیکھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن مجید میں اول سے آخر تک اس قاعدہ کو محفوظ رکھا گیا ہے کہ پورا نہ وہ بیان ایمانیات کی تعلیم ہے میں صرف کر دیا جاتے، کیونکہ یہی دین کی بنیاد ہے، رہے عبادات اور معاملات کے احکام، قوانین کے صرف اصول اور امہات مسائل بیان کر دیتے جائیں اور

تفصیلات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا جاتے۔

(۴) مسلمانوں کی تباہی کا اصل سبب روایات نہیں ہیں بلکہ نفسانیت، اور عصباتیت جاہلیہ، اور فروع کو اصول سے بڑھ کر اہمیت دینے کی حماقت اور کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر اپنے مزاعمات میں خدے سے زیادہ غلو کرنے کی عادت، اور نئے نئے طریقے ایجاد کرنے کا شوق ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ایسا کے اختلاف سے کوئی فتنہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ روایات خواہ ضعیف ہوں یا قوی اور ان کے درمیان خواہ کتنا ہی اختلاف پایا جانا ہو، بہر حال ان سب کا مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور ان مختلف روایتوں کو مانتے والے اس امر میں بہر طور تتفق ہیں کہ وہ سب آنحضرت کو اپنا حاکم اور پیشوام نہیں۔ علاوہ ازیں والیت کے اختلاف سے صرف فروع میں اختلاف واقع ہوتا ہے باقی رہے اصول دین تزوہ سب کے سب کتاب اللہ میں موجود ہیں جو روایات سے بالاتر اور تمام مسلمانوں میں مشترک ہیں۔ پس اگر مسلمان خلوص نیت کے ساتھ اس حقیقت کا اور اک کریں کہ وہ سب کتاب اللہ کے مانندے والے اور رسول اللہ کا انتداب کرنے والے ہیں، اور ان کے درمیان اصول دین مشترک ہیں، تو وہ جزئیات میں مختلف طریقوں پر قائم رہتے ہوئے بھی باہم متحد ہو سکتے ہیں لیکن اگر اس کا اور اک نہ ہو تو روایات کا سارا ذفتر نذر آتش کر دینے سے بھی اختلاف دور نہیں ہو سکتا۔ انسان کے نش میں وہ شیطان موجود ہے جو قرآن کو بھی جنگ جدل کا آلہ بنانے سے نہیں چورکتا۔

(۵) ”ایک آرڈر“ آپ کس معنی میں چاہتے ہیں؟ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ فروع میں کوئی اختلاف نہ ہو تو جب تک انسان کی فطرت نہ بدل جائے یعنی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ بشری فطرت کے ساتھ تو یہ بھی ممکن نہیں کہ صرف دو ہی ادویوں کا نقطہ نظر پاکلیہ ایک ہو جائے لہذا ایسا ”ایک آرڈر“ تو کبھی قائم نہیں ہو سکتا جس میں کسی نوع کا اختلافِ راستے اور اختلافِ عمل سے موجود ہی نہ ہو۔

ہاں اگر آپ "ایک آرڈر" سے مرا دا یسا آرڈر لیتے ہیں جو اصولوں کی وحدت پر بنی ہو تو خدا کی کتاب اور اس کے رسول نے ایسا ہی آرڈر قائم کیا تھا اور وہ ہر وقت ہو سکتا ہے بشرطیکیہ مسلمان اصول اور فروع کا فرق سمجھ لیں اور وہ فوں کے مراتب میں انتیاز کرنا سیکھ جائیں۔

دز رہمان القرآن شعبان ۱۴۲۷ھ - نومبر ۱۹۰۵ء

---

# ایک حدیث پر اعتراض

اور

## اس کا جواب

ناظرین ترجمان القرآن میں نے ایک صاحب لکھتے ہیں :-  
 ہمیں نے تجربہ البخاری مؤلفہ علامہ حسین بن مبارک متوفی شنبہ  
 کے اردو ترجمہ میں جو فیروز الدین صاحب نے لاہور سے شائع کیا  
 ہے، صفحہ ۱۰ پر ایک حدیث کا مطالعہ کیا جو حسب ذیل ہے۔  
 حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس ایک ہی ساعت کے اندر رات  
 دن میں دورہ کر لیتے تھے۔ اور وہ گیارہ تھیں رائیک روایت میں آیا  
 ہے کہ تو تھیں (حضرت انس سے پوچھا گیا کہ آپ ان سب کی علت  
 رکھتے تھے؟ وہ بولے یہم تو کہا کرتے تھے کہ آپ کو تیس مردوں کی  
 قوت دی گئی ہے۔

جانب والے میں تو قع رکھتا ہوں کہ بڑا و کرم مذکورہ بالحدیث  
 کی صحت پر روشنی ڈالیں کیا یہ امر واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم  
 نے ایک ہی ساعت کے اندر اپنی جملہ ازواج مطہرات سے مقابلت  
 کی ہے؟ اور اگر مقابلت کی ہے تو حضرت انس کو کس طرح اس کا علم  
 ہو گیا ہے کیا حضور نے حضرت انس سے اس مقابلت کا ذکر فرمایا؟ یا

از واجح مطہرات بیس سے کسی نے اس از واجحی تعلق کا راز فاش کیا؟ یا حضرت انسؑ کو آنحضرت کی خلوت کا ہر وقت علم پڑتا تھا؟ یا حضرت انسؑ خود اس خلوت کا علم حاصل کرنے کی کھوج میں لگے رہتے تھے؟ آخر حضور کو اس قدر محبت مقاومت کی کیا ضرورت درپیش تھی جب آپ کی باریاں مقرر تھیں؟ اور کیا بوقت واحد اس قدر کثرت مقاومت سے حضور کی صحت و توانائی پر کچھ اثر نہ پڑتا تھا؟

یہ حدیث بخاری میں دو جگہ نقل کی گئی ہے۔ ایک کتاب غسل میں باہم  
إذ أَجَامَعَ شُرَّعَادَ وَمَنْ دَأَرَ عَلَى نِسَاءِهِ يُغْسِلُ وَاجِدِهِ كَمْ تَحْتَهُ - دوسرے  
كتاب انکار میں باہم من طاف على نِسَاءِهِ فِي غُسْلٍ قَاجِدِهِ كَمْ تَحْتَهُ پہلے  
پاہم کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:-

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْوِرُ عَلَى نِسَاءِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ الدَّلِيلِ وَالنَّهَايَةِ هُنَّ اِخْدَى عَشْرَةَ قَالَ قَلْتُ لِأَنَّسَ أَوْ كَانَ يُطْبِقُهُ ؟ قَالَ كُنَّا نَسْخَدَتْ إِنَّهُ أَعْطَى قُوَّةً ثَلَاثَيْنَ -

نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات اور دن میں اپنی بیویوں کے پاس ایک ہی وقت ہو جاتے تھے اور وہ گیارہ بیویاں تھیں۔ قاتدہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کیا آپ میں اتنی طاقت تھی؟ انس نے جواب دیا ہم آپ میں کہا کہ تھے کہ حضور کو ۳۰ مردوں کی قوت عطا کی گئی ہے۔

دوسرے باہم میں سعید بن ابی عروب قاتدہ کے حوالہ سے حضرت انسؑ کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ:-

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطْوُفُ عَلَى نِسَاءِهِ فِي الْمَيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُمُ لِسْوَةٍ -  
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس ایک ہی رات میں چکر لگایتے تھے اور اس زمانہ میں آپ کی نوبیاں تھیں

دو توں حدیثوں سے مقصود صرف یہ بیان کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک سے زائد مرتبہ مباشرت کرے تو ہر بار غسل کرنا لازم نہیں ہے۔ بلکہ سب کے لیے ایک ہی غسل کافی ہو سکتا ہے۔ رہا از داجِ مطہرات کا نویا گیارہ ہونا اور حضور کا ان سبکے پاس شب باش ہونے کی طاقت رکھنا تو اس کا ذکر مخفی ضمناً آگیا ہے۔ اسی لیے امام بخاریؓ نے دو توں چلکہ ترجیحہ اباب میں غسل واحد لکھا ہے۔

نسائی نے بھی باب اٰتیان المتسامِ قبیل الحدایت الغسل میں حضرت انسؓ سے اسی مضمون کی دو روایتیں نقل کی ہیں۔ ایک میں طافت علی نسائیہ فی لیلۃ بغسل و احمد ہے یعنی ”ایک رات میں آپ نے اپنی بیویوں کے پاس چکر لگایا اور صرف ایک مرتبہ غسل فرمایا“ دوسری حدیث میں ہے کہ ان بیوتوں علی نسائیہ فی غسل و احمد یعنی آپ اپنی بیویوں کے پاس ہو آتے تھے اور پھر ایک بار غسل فرماتے تھے۔

ابو راؤد نے ایک حدیث باب فی الحجۃ بیعوڈ میں نقل کی ہے جس میں طافت ذات یومر علی نسائیہ فی غسل و احمد ہے یعنی ایک روز آپ نے اپنی بیویوں کے پاس چکر لگایا اور پھر ایک مرتبہ غسل کیا ہے اس کے بعد حضرت ابو رافع سے یہ حدیث نقل کی ہے:-

طافت ذات یومر علی فسایہ  
بغسل عنده هذَا وَعِنْهُ هذَا فَالْ  
فَقْدَلَتْ يَارَ سُوْلَ اللَّهِ الْأَنْجَلُكَهُ  
غُسْلًا وَاحِدًا - قَالَ هَذَا أَنْكَى وَ  
أَطْبَيْتُ وَأَطْهَرُ -

ایک روز حضور تے اپنی بیویوں کے پاس چکر لگایا اور ہر ایک کے ہاں الگ غسل کیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ایک ہی غسل کیوں نہیں فرماتے۔ حضور تے فرمایا یہ زیادہ پاکیزہ اور صاف ستر اطریقہ ہے۔

پھر ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری سے نقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:-

جو شخص تم میں سے اپنی بیوی کے پاس جائے  
اذا آتی أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ شَرَفٌ  
پھر دوبارہ مفاربت کرنا چاہیے تو دونوں  
يَدِ اللَّهِ أَنْ يُعَادِ دَفْلَيْتَوْصَاتَأُبَيْتَهُمَا  
مُؤْمِنُوْعَرَ.

یہی حدیث ترمذی نے بھی ابواب الطہارت میں نقل کی ہے۔ ان تینیوں قسم  
کی حدیثوں کو جمع کرنے سے مسکنہ یہ نکلتا ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ معاشرت کرنے  
کی صورت میں زیادہ پاکیزہ طریقہ یہ ہے کہ ہر بار بعد اگانہ غسل کیا جائے اگر یہ  
ذہبوں سکے تو کمر از کمر وضو کر دیا جائے۔ لیکن ایسا واجب نہیں ہے دو یا زیادہ طریقوں  
کے بعد صرف ایک مرتبہ غسل کر لینے سے بھی شرط طہارت پوری ہو جاتی ہے۔  
اب شہزادت کو دل میں خلگہ دینے سے قبل حسب ذیل امور کو ذہن نشین  
کر دیجئے۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم میں پیدا ہوتے تھے جو تہذیب فتنہ  
کے ابتدائی درجہ میں تھی۔ آپ کے پسروں اللہ تعالیٰ نے حروف یہی کام نہیں کیا تھا کہ  
ان کے خیالات درست کریں بلکہ یہ خدمت بھی آپ کے پسروں تھی کہ ان کی زندگی  
بھی درست کریں، ان کو انسان بنائیں، انہیں شاستہ اخلاق، پاکیزہ معاشرت،  
ہندسی فتنہ، نیک معاملات اور عنده آداب (manners) کی تعلیم دیں۔ یہ  
منفرد محض و غلط تلقین اور قسیل و قال سے پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ ۴۰ سال کی مختصر  
مدتِ حیات میں ایک پوری قوم کو وحشت کے بہت نیچے مقام سے اٹھا کر  
تہذیب کے لیندے تین مرتبہ پہنچا دینا اس طرح ملن نہ تھا کہ محض چند گے بندے  
او قاتت میں ان کو بلا کر کچھ زبانی ملدا پات دے دی جاتیں۔ اس کے لیے  
ضرورت تھی کہ آپ خود اپنی زندگی میں ان کے سامنے انسانیت کا ایک مکمل نمونہ  
پیش کرتے، اور ان کو پورا موقع دیتے کہ اس نمونہ کو دیکھیں اور اپنی زندگیوں کو  
اس کے مطابق بنائیں۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔

یہ آپ کا انتہائی ایثار تھا کہ آپ نے اپنی زندگی کے ہر شعبے کو قوم کی تعلیم

کے لیے پلٹ کر دیا۔ اپنی کسی چیز کو بھی پایا یورٹ نہ رکھا۔ ختنی کہ ان معاملات کو بھی نہ چھپا یا جھپس دنیا میں کوئی شخص پلٹ کے لیے کھو نہ پڑتا وہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے لوگوں کو اذنِ عام دیے ہے دیا کہ آؤ اور ہر وقت ہر حال میں ہیری زندگی کے ایک ایک پہلو کو دیکھو اور ہر معاملہ میں مجھ پر نظر رکھو کہ میں کس طرح عمل کرتا ہوں۔ ایک پیغمبر کے سوا کوئی دوسرا شخص نہ تو اتنا بڑا ایثار کر سکتا تھا، اور نہ کوئی دوسرا شخص یہ بڑات ہی کر سکتا تھا کہ اپنی پوری زندگی کو یوں منتظرِ عام پر لا کر رکھ دے۔ صرف یہی ایک بات اس جبرتِ انگیزِ انسان کی ثبوتِ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے سوا اور کون آدمی دنیا میں ایسا گزارا ہے یا آج پایا جاتا ہے جو کامل ۲۴ برس تک ہر وقت ہر حال میں منتظرِ عام پر زندگی بسر کرے۔ سینکڑوں بڑاروں آدمی اس کی ایک ایک حرکت کے تجسس میں لگے ہوتے ہوں۔ اپنے گھر میں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کے علاوہ تباہ کرتے ہوتے بھی اس کی چالیخ پڑتال ہو رہی ہو، اور آخری گہری تلاش کے بعد نہ صرف یہ کہ اس کے کیرکٹر پر ایک سیاہ چھینٹ ٹک نظر نہ آتے بلکہ یہ ثابت ہو کہ جو کچھ وہ دوسروں کو تعلیم دیتا تھا، خود اس کی اپنی زندگی اس تعلیم کا مکمل نمونہ تھی، بلکہ یہ ثابت ہو کہ اس طویل زندگی میں وہ بھی ایک لمحہ کے لیے بھی عدل اور تقویٰ اور سچائی اور پاکیزگی کے معیاری مقام سے نہیں ہوا، بلکہ یہ ثابت ہو کہ جن لوگوں نے سب سے زیادہ قریب سے اس کو دیکھا وہ ہی سب سے زیادہ اس کے گردیدہ اور متعدد ہوتے۔ خیر یہ تو ایک جملہ معتبر ضرر نہ تھا۔ دراصل یہاں ذکر یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام کی تعلیم کے لیے اس امر کی عام اجازت دے رکھی تھی کہ رفقاء میں، گفتار میں، ہشست و برخاست میں سونے اور جاگنے میں، خانگی معاشرت میں، عبادت اور معاملات میں، غرض ہر چیز میں لوگ آپ کے عمل کو دیکھیں، دیکھنے والوں سے سینیں، جانشے والوں سے پوچھیں، خود آپ سے دریافت کریں اور اپنی زندگی کو اس مشابی (DEAL) زندگی کے نمونہ پر ڈھلنے کی کوشش کریں۔ آپ نے اپنی بیویوں کو بھی عام اجازت دے رہی تھی کہ خلوت میں آپ کا جو طرزِ عمل دیکھیں

اس سے عورتوں اور مردوں سب کو آسمانہ کر دیں، تاکہ لوگوں کی صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی اور مخفی زندگی بھی تہذیب و شاستری اور طہارت و نفاست کے زیر سے آرائستہ ہو جائے۔ اسی غرض کے لیے آپ کی بیویاں

آپ کی پرانی بیویت زندگی کے ایسے معاملات بھی لوگوں کو تباہ نہیں دینے کرتی تھیں جن کو عام طور پر بیان اور بیوی کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور نہ کوئی گوار کرنا ہے کہ لوگ اس کو جانیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس تعلیم میں آسانی پیدا کرنے کی خاطر آپ کی بیویوں کو تمام مسلمانوں کے لیے حقیقی مارک کی سی حیثیت دے دی تھی، اور ان کو افرادِ امت کے لیے حرام کر دیا تھا تاکہ ماں اپنے بیٹوں سے بھل کر بات پریت کر سکیں اور ان کے روحانی بابکی حرکات و سکنات میں سے ہر پرچیز کو ان کے سلسلے نے تقیید و پسروی کے لیے، حدود حلال و حرام کی واقفیت کے لیے، پاک اور ناپاک، شاستری اور ناشاستری تہذیب کے لیے بیان کرتی رہیں۔ پھر باوجود یہ کہ حضور طیبنا انتہا درجہ کے شر میلے اور حیاددار تھے، آپ نے تعلیم کے لیے جیا کے پردے کو اٹھا دیا اور پر قسم کے معاملات میں اپنی روحانی اولاد کو جن بیٹیوں اور بیٹیاں سب شامل تھے، خود ہدایات دیں۔ ان کو اجازت دی کہ جو کچھ چاہیں پوچھیں، اور ان کو موقع دیا کہ آپ کے طرزِ عمل کو دیکھ کر معلوم کریں کہ ایک پاک نیزہ اور ہندب اور شاستری زندگی کیسی ہوتی ہے۔

اسی تعلیم کا ایک شعبہ طہارت جسم و بیاس بھی تھا۔ اہل عرب تو خیر و خشی تھے آج جن قوموں کو تہذیب و تمدن کے آسمان پر ہونے کا دعویٰ ہے، ان کا حال آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کھانے کے بعد منہ کی صفائی سے ناواقف۔ رفع حاجت کے بعد جسم کی طہارت سے ناپلدا۔ کھڑے پیشیاب کیا اور تپوں کے میں لگائیے کھوڑ پر سے اٹھے اور ٹپ میں اُتر گئے۔ پھر تعلقاتِ مرد و زن میں توان کی ناشاستگی اور بے چاٹی اور ناپاکی اس حد سے گزر دی ہوتی ہے کہ شر فام کی صحبت میں اس کا ذکر بھی کیا جاسکے۔ یہ حال جب ان ترقی یافتہ قوموں کا ہے تو اس قوم

کا کیا حال ہوگا جو تمدن کے باسکل ابتدائی درجہ میں تھی۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو آپ نے صرف ان کے نقوص کا نزکیہ فرمایا، بلکہ ان کو ہمارتے جنم و بیان کے طریقے بھی سمجھاتے۔ ان میں پاکتیر گی کا بغیں ذوق پیدا کیا۔ ان میں نفاست اور ہمارت کی تیز پیدا کی۔ زندگی بسر کرنے کے لذت سے، لکھنا و نوٹے ناشاستہ اور پیروادہ طریقوں کو موقوف کر کے اپنے قول اور عمل سے ان کے مردوں اور ان کی عورتوں کو صفائی، نفاست اور نظافت کے باقاعدہ آداب کا خواجہ بنایا۔ اس کے بیان ناگزیر تھا کہ حضور خود اپنی پرائیوریٹ زندگی کو ایک حد تک ان کے سامنے پر پرداز کرتے، تاکہ جو کچھ نہ پوچھیں، یا نہ پوچھ سکیں، یا جو باتیں آپ کو زبان سے بتانے کا موقع نہ ملے، وہ لوگوں کو آپ کا طرز زندگی دیکھنے سے معلوم ہو جائیں۔ اس طرح آپ کو یا ہرہ تن تعلیم بن گئے تھے۔ نہ صرف زبان سے لوگوں کو تعلیم دیتے تھے بلکہ آپ کی ساری زندگی ہر حال میں اپنے گرد و پیشی کی آبادی کے بیان تعلیم بنی ہوئی تھی۔

لوگ حدیث کی کتابوں میں جیسے آپ کی بیویوں اور دوسرے صحابہ و صحابیات کی زبان سے اور خود حضور کی اپنی زبان سے اس قسم کے مسائل پڑھتے ہیں جن میں جماعت اور حصیں و نفاس اور ایسے ہی دیگر امور کی نسبت انسان کے طرز عمل کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں تو فوراً اعتراض ہرگز نہ ہوتے ہیں کہ یہ باتیں خلاف حیات ہیں، لیکن وہ غور کریں تو ان کو معلوم ہو کہ درحقیقت ایک بہت بڑا اثیار تھا جو حضور نے محض اپنی امت کی خاطر گزارا فرمایا۔ جس ذات پاک کی حیا کا پہ عالم تھا کہ اس کی شرکیہ زندگی تک کوئی بھی اسے برہنہ دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا، حتیٰ کہ جس نے کبھی تہائی میں بھی برہنہ ہونے کو پسند نہ کیا، اس نے محض اپنی امت کو صفائی اور نشاستہ کی تعلیم دیتی کے لیے اپنی بیویوں کو اجازت دے دی کہ اس کی پرائیوریٹ زندگی کے مختصر سے مختصر واقعات تک کو پیک کر دیں، اور اپنے خدام خاص کو موقع دیا کہ وہ جہاں تک اندر وطن حالات سے واقع ہر سکتے ہوں واقع ہوں اور لوگوں تک ان حالات کو پہنچایتیں کیا رہیں کوئی معمولی اثیار تھا؟ اور یہ اسی اثیار کا نتیجہ ہے کہ نہ صرف اہل عرب بلکہ دنیا کے

کر دڑھا کر دو مسلمانوں کی پرائیوریٹ زندگی صفائی جسم اور طہارت لیاں اور پاکینزگی اطوار اور صنفی معاملات میں شاستری و نظافت کے ایک عام ضابطہ کی پابندیوں گئی۔ ورنہ اگر ان معاملات کو محسن شخصی ذوق اور تمیز پر چھوڑ دیا جاتا تو چارے اکثر افراد کا حال اپنی زندگی کے مخفی شعبوں میں جانوروں سے ملتا جلتا ہوتا کیونکہ ان شعبوں کے متعلق انسان کی تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام آج بھی دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ یہ تو ان شبہات کا جواب ہے جو لائق مستفسر نے حضور کی پرائیوریٹ زندگی کے اسرار سے حضرت انسؓ کی واقفیت پر ظاہر کیے ہیں۔ اب ہم سوال کے دوسرے حصہ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔

جو حدیثیں ہم نے ابتداء میں نقل کی ہیں ان میں کان بیٹووف، یا کان بیدور، یا طافند کے الفاظ آتے ہیں۔ ان سب الفاظ کا تفعیلی ترجمہ "چکر لگانا" یا "چڑھانا" ہے اور ان سے مطلب یہ لکھتا ہے کہ کبھی کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں اپنی تمام بیویوں کے ہاں تشریفیتے جایا کرتے تھے۔ ویسے آپ کا عام معمول تو یہ تھا کہ ایک ایک رات ایک بیوی کے پاس بیس فرماتے، مگر احیاناً ایسا بھی ہو جایا کہ ایک ہی رات میں سب کے ہاں ہوتے تھے۔ راوی جس بات کا عین شاہد ہے وہ حرفی بھی ہے کہ آپ ہر ایک بیوی کے ہاں کئے سب بیویوں کے ہاں جانے سے یہ لازم نہیں آ جاتا کہ لا محالہ سب کے ساتھ ہم بتیری بھی کی جائے۔ یہ راوی کا اپنا قیاس ہے کہ جب تشریفیتے گئے تو ہر ایک بیوی کے ساتھ مباشرت بھی کی ہوگی۔ راوی حضرت انسؓ ہیں، اور ان کی عمر کو درج کیجئے ہوئے ان کا ایسا قیاس کرنا کچھ زیادہ قابل تعجب نہیں معلوم ہوتا۔ وہ جب حضور کی ملازمت میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی عمر صرف دس سال کی تھی اور آپ کی وفات کے وقت وہ بیس سال کے تھے۔ اتنے کم عمر نوجوان کا قیاس ایسے معاملات میں چند لاکھ اعتماد نہیں ہو سکتا۔ نوجوان لڑکے جب کبھی شوہر کو بیوی کے پاس جاتے درج کیجئے ہیں تو ان کا ذہن خواہ مخواہ مباشرت کی طرف متھل ہو جاتا ہے۔ وہ اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ

ایک سن رسیدہ آدمی کا تعلق اپنی بیوی کے ساتھ مخصوص باشرت ہی کا تعلق نہیں ہوتا۔ پھر یہ امر قابلِ حجامت ہے کہ حضورؐ کی ازدواجِ مطہرات میں سے ایک، یعنی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سلسلہ ہمیں حضورؐ سے بیانی گئیں اور صرف وہیں ہمیشہ زندہ رہ کر انتقال فرمائیں۔ دوسری حضرت سودہ صدیقۃ النعمانیہ اور اپنی باری عاشر کو دستِ چکی تھیں۔ ان دونوں کو امکن کرنے کے بعد شہزادہ میں حضورؐ کی سرفت میں بیویاں نہیں۔ شہزادہ میں ایک کا اسافہ ہوا۔ شہزادہ میں ایک کا اور اسافہ ہوا۔ شہزادہ میں مریدین ازدواجِ حرم بیوی میں داخل ہوئیں۔ اس طرح آخر میں حضورؐ کی صرف آٹھ بیویاں ایسی تھیں جن کے ساتھ آپ کے شب باش ہونے کا گان کیا پہنچتا ہے۔ اس سے بھی اس قیاس کی کمزوری خلا ہر ہوتی ہے جو مجملہ ۹ یا ۱۰ ازدواج کے ساتھ ہم مبتہ ہونے کے متعلق قائم کیا گیا ہے۔

پدر جہہ آخر یہ کہا جا سکت ہے کہ حضورؐ نے اپنی زندگی کے آخری تین برسوں میں کسی وقت آٹھ بیویوں کے ساتھ ایک ہی رات شب باشی کی۔ اگر یہ واقعہ بھی ہو تو ایک اپسے شدید استاد صحیح القوی انسان کے لیے یہ امر کچھ بھی فوقِ العادۃ نہیں جس نے تمام عمر تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی برکی ہوا اور اپنے جسم کی قوتیں کو خیالاتِ فاسدہ اور افعالِ قبیحہ میں کبھی سائز نہ کیا ہو۔ یہ امر عجب امکنیت میں سکتا ہے تو ان کے لیے بہنوں نے جوانی میں اپنی قوتوں پناہ لکھیں اور پڑھا پا آئنے سے پہلے بوڑھے ہو گئے۔ حضور ایک کامل انسان بخて تمام قوتوں اپ کے اندر رکھا ہے درجہ کے اعداد پر تھیں۔ ایک اعلیٰ درجہ کا ذمہ رکھنے والے انسان میں رہوت کی قوت کا بھی کمال درجہ پر ہونا ایک بلندی تھیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتے۔ پھر اس صفت کی خفاظت آپ نے ایسی لی کہ ساری جوانی صرف ایک بیوی کے ساتھ گزار دی، اور کبھی آپ کی پرہیزگاری میں ذرہ برابر فرق نہ آیا۔ پھر اس کے لئے بھاگ عمر میں آپ اللہ کے حکم سے اپنے مخالفین کو چیلنج دیتے ہیں کہ فائدہ نہیں فیکر مُعذّل ہے۔ میں تمہارے دمیان ایک عمر گزار جکا ہوں، کسی نے میرے کیر گھر میں

کوئی خرابی و بھی ہوتا تھا تھے۔ مگر وہ جو حضور کی جان کے دشمن اور خون کے پلے سے نکلے ان میں سے بھی کوئی بیکہنے کی جرأت نہ کر سکا کہ محمد غلام موقع پر قم سے غلام کمزوری مزدہ ہر قسم تھی۔ پس ایک طرف کمالِ رجولیت کے ساتھ اس پر ہمیزگاری کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا آخر عمر میں اتنی عورت توں کے ساتھ شبِ باشی پر قادر ہونا کوئی فوق العادۃ بات نہیں ہے، اور دوسرا طرف اس قدر تھا کہ باوجود عہدِ شباب میں آپ کے کمالِ نقوی کو دیکھ کر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور کس قدر ضابط تھے اور اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی کتنا زبردست طاقت آپ نے پائی تھی۔

بڑی وہ بات جو حضرت انسؓ نے فرمائی ہے کہ آپ کو نہیں یا چالیس مردوں کی قوت عطا کی گئی تھی، تو وہ نہ حضور کا قول ہے، نہ کوئی مستند بات۔ حضرت انسؓ خود فرماتے ہیں کہ ہم آپ میں ایسا کہا کرتے تھے، خلا ہر ہے کہ وہ اس وقت نوجوان تھے اور اپنے ہم عمر دوستوں ہی میں اس قسم کی لفڑکوں کے ہوں گے۔ عنفوان شباب میں عموماً لوگ رجولیت کی زیارتی کو خاص اہمیت کی لگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پھر حضرت انسؓ تو اس زمانہ کی عربی سوسائٹی کے ایک نوجوان تھے جس میں رجولیت کی زیارتی انسانیت کا ایک قابلِ فخر ہے۔ جو بھی جاتی تھی۔ انہوں نے اگر اپنے محبوب آقا میں، جس کی خیر معمول شخصیت سے وہ بیجد مرغوب بھی تھے، اس فخر کے قابلِ چیز کا ادعای کیا تو یہ یا مکمل ایک امر فطری ہے۔ ٹرے آدمیوں کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے کہ جو لوگ ان کی غیر معمول شخصیتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں وہ ان کی ذات میں فوق البشیری طاقتیوں کے معتقد ہو جاتے ہیں۔ مگر ایسے معتقد اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو محبت بناؤ کر ان پر استدلال کی عمارتیں کھڑی کی جائیں۔ حضرت انسؓ نے تو صرف اسی قدر کہا کہ حضور کو ۲۳ یا ۴۰ مردوں کی طاقت عطا کی گئی تھی۔ اس سے کہیں ٹرھ کر بعض دوسری روایتوں میں، جن کو ابو فیصل اور احمد اور نسافی اور حاکم نے نقل کیا ہے، یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ چالیس مرد جن کی قوت حضور کو عنایت کی گئی تھی دنیا کے نہیں بلکہ حیثیت کے مرد ہیں، اور حیثیت کے ہر مرد کو دنیا کے

سومر دوں کے برابر قوت حاصل ہوگی۔ اس طرح چاہیس کو سو سے ضرب دے کر حساب لگایا گیا کہ حضور میں چار ہزار مردوں کی قوت تھی۔ یہ سب باقی خوش عقیدگی پر مبنی ہیں، اور ایسے لوگوں نے کبھی ہیں جو آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عظمت سے کمال درجہ متاثر ہو کر آپ کے اندر ایسی نام فرقہ البشری طاقتون کا اعتقاد رکھتے تھے جن کو نیک نیتی کے ساتھ وہ فخر کے قابل بحث تھے۔ انہی باتوں کو ہمارے زمانہ کے ایک فاضل بزرگ نے، جن کے علم و فضل اور تقویٰ کا پورا پورا اخراج ہمارے دل میں ہے، اپنے ایک مضمون میں نقل کر دیا، اور استدلال کی عمارت اس طرح قائم کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہزار مردوں کی طاقت رکھتے تھے، اور اس طرح ۱۶ ہزار بیویاں رکھنے کے مستحق تھے، مگر آپ نے صرف گیارہ بیویوں پر تقاضا عت فرمائی۔ یہ بات اگرچہ حسن عقیدت کے زندگ میں کبھی گئی تھی، لیکن ایسی بات خواہ کسی کے قلم سے اور کسی نیت سے نکلے، بہر حال ہم یہ کہنے سے باز نہیں رہ سکتے کہ اللہ کے نبی کی قوت باہ کا حساب لگانا مذاقِ سعیم پر بھی یا رہے، کجا کہ اب کو دشمنانِ اسلام اور مشکلکین اور مذبذبین کے مقابلہ میں جمیت کے طور پر لا یا جائے اور ان کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا بیا جی اور ہندو دیوتاؤں کے زندگ میں پیش کر کے یہ امید کی جائے کہ اس قسم کی باتوں سے ان کے دلوں میں نور بیان پیدا ہو گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازدواج پر مخالفین کے اخراضاً کی تردید بہت سے قوی دلائل سے ہو سکتی تھی۔ ان سب کو چھوڑ کر یہ طرزِ استدلال تیناً افسوس ناک ہے، خصوصاً ایسے زمانہ میں جبکہ علماء کے دشمن فرار اور اسی لغزشوں پر بات کا بنگاڑ بنتے ہیں اور علماء سے گذر کر خود علوم دینی پر جعل کرنے لگتے ہیں۔